

جلداول

# حسن الہدایہ

ترجمہ و شرح اردو

## هَدَايَا

از کتاب الطہارات  
تا  
باب شروط الصلوۃ الّتی تتقدمہا

تصنیف

شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر علی ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما

بہ تجرید و شیلح

منفق عبدالحکیم قاسمی مستوی شعبین دارالعلوم دیوبند

تبیہیل عنوانات و تخریج

مولانا صہیب اشفاق صاحب



MAKTABA-E-NEHMANI

مکتب رحمانیہ

اقرأ سننہ عرونی سننہ طیبہ ازہ و بازار لاہور  
فون: 042-37224228-37221395

جلد ۱  
حسن الہدایہ

ترجمہ و شرح از دو

مہتاب  
ہدایہ



فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

# حَسُنُ الْهِدَايَةِ

ترجمہ و شرح اردو

## هُدَايَاتُ

جلد اول

از کتاب الطہارات تا باب شروط الصلوٰۃ الٰتی تتقدمہا

تصنیف

شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر دغانی مرغانی

تہمیل عنوانات و تخریج

مولانا صہیب اشفاق صاحب

تہمیل و تصنیف

مفتی عبدالمجید قاسمی بستوی شین منشی دارالعلوم دیوبند

مکتب رحمانیہ



اقرا سنٹر عرفی سنٹر، اردو بازار لاہور  
فون: 042-37224228-37355743

MANTABA-E-REHMANIA



# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: ..... **حسن الہدایہ (جلد اول)**

مصنف: ..... شیخ الاسلام ابو اللیث ابو الحسن علی ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما

ناشر: ..... **مکتبہ رحمانیہ**

مطبع: ..... **لٹل سٹار پرنٹرز لاہور**

## استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔  
بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں  
تو ازراہ کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے  
لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

## فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹	حضرت الامام کا ورع و تقویٰ	۱۱	انتساب
//	امام اعظم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے متعلق علماء و فقہاء اور معاصرین کی آراء	۱۲	تقریظ
۴۰	جاہ و منصب سے اعراض	۱۳	رائے عالی
۴۲	روئے زمین کا آخری سجدہ	۱۴	صدائے شارح
//	نماز جنازہ اور تدفین	۱۸	عرض محقق
۴۳	✽ امام مالک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	۲۱	فقہ، اصحاب فقہ، تدوین فقہ اور مشہور فقہاء کا مختصر تعارف
۴۴	درس و تدریس کی امتیازی شان	۲۲	فقہ کی لغوی تعریف
//	رسول اور دیار رسول سے محبت	//	فقہ کی اصطلاحی تعریف
	امام مالک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے متعلق ان کے تلامذہ اور ہم عصروں کی رائے	//	فقہ کا موضوع
۴۵	امام مالک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تالیفات	//	فقہ کی غرض و غایت
//	وفات حسرت آیات	//	علم فقہ کا مأخذ
۴۶	✽ امام شافعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	۲۳	علم فقہ کی تدوین
۴۶	ولادت اور تعلیم	۲۷	فقہ حنفی کی تدوین
//	تدریسی زندگی کا آغاز	//	تدوین کا طریقہ کار
۴۷	✽ امام احمد بن حنبل <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	۲۸	فقہائے کرام کے نظریاتی اختلافات کے اسباب
۴۸	تدریسی دور	۲۹	پھر ان تینوں اعذار کے متفرق اسباب ہیں
۴۹	امام احمد معاصرین کی نگاہ میں	۳۳	حضرت امام اعظم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> سے اختلاف روایات کی وجوہات
//	سفر آخرت	۳۴	فقہ حنفی کی کتابوں کے درجات
۵۰	حضرت امام ابو یوسف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	۳۵	<b>فقہ اسلامی کے چار بڑے امام</b>
//	تعلیمی زندگی کا آغاز	//	✽ حضرت امام ابو حنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۱	ذکاوت و ذہانت اور شوق علم	۳۷	سلسلہ تدریس کا آغاز اور امام حماد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی جانشینی
//	امام ابو یوسف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اور عہدہ قضاء	۳۸	امام اعظم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے متعلق آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی پیشین گوئی
		۳۹	شرف تابعیت

۸۵	وضو اور تیمم میں نیت کی حیثیت کا بیان	۵۳	امام محمد بن الحسن الشیبانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
	سارے سر کا مسح کرنے کا حکم اور مسح راس میں تشلیت نہ ہونے کا بیان	//	تعلیم و تربیت
۸۷	وضوء میں ترتیب کی حیثیت	۵۴	امام محمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ہم عصر علماء کی نظر میں
۸۸	<b>فصل فی نواقض الوضوء</b>	۵۵	امام محمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے تصنیفی کارنامے
۹۰	نواقض وضو کی پہلی قسم	۵۶	جوہوم کار سے رہائی اور آخرت کے لیے روانگی
۹۲	امام شافعی اور امام زفر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی دلیلوں کے جوابات	۵۷	صاحب ہدایہ کے مختصر حالات زندگی
۹۶	قے کا بیان	//	تعلیمی زندگی کا مختصر خاکہ
۹۷	مذکورہ بالا مسئلہ کی تفصیل	//	تدریس و تعلیم
۹۸	خون کی قے کا حکم	۵۸	ہدایہ کی وجہ تالیف
۹۹	نواقض وضوء کی دوسری قسم	۵۹	ہدایہ میں صاحب ہدایہ کا انداز تحریر
۱۰۰	بے ہوشی اور پاگل پن کا بیان	۶۲	مقدمہ
۱۰۲	اغناء کی تعریف میں مختلف اقوال	۶۳	مقدمہ کی تشریح مع حل لغات
//	قہقہہ، تعریف، حکم اور اس سے وضو ٹوٹنے کا بیان	۶۴	حل لغات مع بیان نکات
۱۰۳	بعض خارج من السبیلین سے وضو کے نہ ٹوٹنے کا بیان	-	
۱۰۴	چھالے اور پھوڑے سے نکلنے والے خون اور پیپ کی مختلف صورتیں اور ان کے حکم کا بیان	۶۹	<b>کتاب الطہارات</b>
۱۰۶	<b>فصل فی الغسل</b>		یہ کتاب احکام طہارت کے بیان میں ہے
۱۰۷	وضو اور غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم	۷۰	وضو کی فرضیت اور فرائض کا بیان
۱۰۸	غسل کا مسنون طریقہ	۷۲	کہنیوں اور ٹخنوں کے وضو میں داخل ہونے کا بیان
۱۰۰	مرد اور عورت کا طریقہ غسل	۷۳	مسح راس کی فرض مقدار کا بیان
۱۱۱	موجبات غسل کا بیان	۷۶	وضو کی سنتیں
۱۱۲	خروج منی میں شہوت کی شرط اور امام ابو یوسف کا مذہب	۷۸	وضو میں تسمیہ کی حیثیت
۱۱۳	التقاء ختانین کا حکم	۷۹	وضو میں مسواک کی سنت کا بیان
۱۱۴	غسل مسنون کے مواقع	۸۱	کانوں کے مسح کی وضاحت
۱۱۷	جمعہ کے دن غسل کی حیثیت	۸۲	داڑھی میں خلال کرنے کا حکم
//	مذی اور ودی کی تعریف اور حکم	۸۴	تخلیل اصابع اور تشلیت کا بیان
۱۱۹		//	انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ

159	بہت چھوٹے جانداروں کے کنویں میں گرنے کی صورت میں پاک کرنے کے طریقے کا بیان	120	<b>باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء</b>
160	درمیانے درجے کے جانوروں کے کنویں میں گرنے کی صورت میں پاک کرنے کے طریقے کا بیان	121	<b>وما لا یجوز بہ</b>
161	بڑے جانوروں کے کنویں میں گرنے کی صورت کا حکم	122	پانی کے طہور ہونے کا بیان
//	جاندار کے پانی کے اندر ہی پھول یا پھٹ جانے کی صورت کا حکم	123	درختوں اور پھلوں کے رس سے وضو کا حکم
162	چشمے دار کنویں کا حکم	124	ملاوٹ والا وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز نہیں
163	کنویں میں سے جانور ملنے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہونے کی صورت کا حکم	125	ایسا ملاوٹ شدہ پانی جس سے وضو کرنا جائز ہے
164	<b>فصل فی الاسار وغیرہا</b>	126	پکائے ہوئے پانی سے وضو کا بیان
//	پسینہ بھی جوٹھے کے حکم میں ہے	128	نجاست گرے ہوئے پانی سے وضو کا حکم
168	آدمی اور ماکول اللحم جانوروں کے جوٹھے کا حکم	130	ماء جاری، تعریف اور حکم کا بیان
169	کتے کے جوٹھے کا حکم اور اس سے ناپاک ہونے والے برتن کو پاک کرنے کا بیان	132	ماء کثیر، تعریف، حکم اور اس سے وضو کرنے کا بیان
170	درندوں کے جوٹھے کے حکم کا بیان	133	ایسے پانی کا حکم جس میں بغیر خون کا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو
172	بلی کے جوٹھے کا حکم	134	پانی میں رہنے والے جانوروں کے مرنے سے آلودہ ہونے والے پانی کا حکم
173	مذکورہ بالا مسائل کی تفصیل	136	ماء مستعمل، تعریف، حکم اور اس سے حدث دور کرنے کا بیان
175	گندگی میں پھرنے والی مرغی اور شکاری پندوں کے جوٹھے کا حکم	139	ماء مستعمل کی تعریف کے حوالے سے راجح ترین قول
176	گھروں میں پائے جانے والے عام جانوروں کے جوٹھے کا حکم	141	ماء مستعمل کی مزید وضاحت
177	گدھے اور خچر کے جوٹھے کا حکم	142	ماء مستعمل کی تعریف میں مختلف اقوال کا ثمرہ اختلاف
178	مذکورہ بالا مسائل میں اختلاف اقوال کا ثمرہ	143	جانور کے کچے اور پکے چمڑے کا حکم
180	نبیذ تمر سے وضو کا حکم	149	مردہ جاندار کے بالوں اور ناخنوں وغیرہ کا حکم
183	<b>باب التیمم</b>	151	<b>فصل فی البئر</b>
//	تیمم کی تعریف	//	ایسے کنویں کے احکام جس میں نجاست گر گئی ہو
		153	کنویں میں قلیل مقدار میں بیگنیاں گرنے کی صورت میں پانی پاک رہنے کا بیان
		154	جنگل اور آبادی کے کنوؤں میں فرق
		155	کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کا حکم
		156	ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم جانوروں کے فضلات کا حکم

۲۱۸	موزوں پر مسح کس حدت کو دور کرتا ہے؟	۱۸۴	تیمم کے جائز ہونے کی شرائط
۲۱۹	نواقض مسح کا بیان	۱۸۵	بیمار کے لیے تیمم کے جائز ہونے کی صورت
	مسافر اور مقیم اگر دوران مسح حالت تبدیل کر لیں تو مدت	۱۸۷	شدید سردی میں جواز تیمم کا بیان
۲۲۰	مسح کا بیان	//	تیمم کا صحیح طریقہ
	مسافر اور مقیم اگر دوران مسح حالت تبدیل کر لیں تو مدت	۱۸۸	حدت اصغرا و کبرا میں تیمم کے مساوی ہونے کا بیان
۲۲۱	مسح کا بیان	۱۹۰	تیمم کس چیز سے کیا جانا جائز ہے اور کس سے نہیں
۲۲۲	جرموق؛ تعریف حکم اور مسح کے جواز کا بیان	۱۹۱	جواز تیمم کے لئے پتی مٹی کے شرط نہ ہونے کا بیان
۲۲۳	جو رہین پر مسح کا بیان	۱۹۲	تیمم میں نیت کے فرض ہونے کا بیان
۲۲۵	لباس کی ان چیزوں کا بیان جن پر مسح جائز نہیں	۱۹۳	تیمم کی تعریف میں اختلاف اقوال کا ثمرہ
۲۲۶	چوٹ اور زخم کی پٹی پر مسح کی تفصیل	۱۹۵	کفر کے تیمم پر اثر انداز ہونے کا بیان
۲۲۸	<b>باب الحيض والاستحاضة</b>	۱۹۷	نواقض تیمم کا بیان
//	حيض کے لغوی معنی		پانی نہ ہونے کی صورت میں تاخیر صلاۃ کے استحباب کا
//	حيض کے اصطلاحی معنی	۱۹۸	بیان
//	حيض کی شرط	۱۹۹	ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھنے کے جواز کا بیان
۲۲۹	مدت حیض کا بیان	۲۰۰	جواز تیمم کی چند نادر صورتیں
۲۳۱	حيض کے مختلف رنگوں کا بیان	۲۰۲	عیدین کی نماز میں تیمم کے جواز کی وضاحت
۲۳۳	حيض کا حکم	۲۰۳	جمعے کے لیے تیمم کے عدم جواز کا بیان
۲۳۴	حائضہ کے احکام		پانی پر قدرت نہ ہونے کی تحدید میں اختلاف اقوال اور
	حائضہ اور جنبی وغیرہ کے لئے ایک آیت قرآنی کی	۲۰۴	اس کا ثمرہ
۲۳۶	تلاوت کے جواز کا مسئلہ	۲۰۶	بے آباد جگہ میں تیمم کے جائز ہونے کا بیان
۲۳۸	ناپاک انسان کے لیے قرآن مجید کو چھونے کا مسئلہ	۲۰۷	پانی قیبتا ملتا ہو تو جواز تیمم کا حکم
۲۳۹	دس دن سے کم میں حیض ختم جانے کی صورت کا حکم	۲۰۸	<b>باب المسح علی الخفین</b>
۲۴۰	عادت سے پہلے اور بعد خون رکنے کی صورت کے احکام	۲۰۹	موزوں پر مسح کا بیان
۲۴۱	طہر متخلل کی بحث	۲۱۱	موزوں پر مسح کے جواز کی شرائط اور مسح کی حیثیت
۲۴۲	مدت طہر کی تفصیل	۲۱۲	مسح کے برقرار رہنے کی مدت
۲۴۳	استحاضہ کے احکام	۲۱۳	مدت مسح کی ابتداء کا بیان
۲۴۴	دس دن سے زیادہ حیض آنے کی صورت کا بیان	۲۱۶	موزے پھٹے ہونے کی صورت میں مسح کا حکم

۲۷۷	گھوڑے کے پیشاب کا حکم		<b>فصل ای ہذا فصل فی بیان احکام الاستحاضة</b>
۲۷۸	غیر ماکول اللحم پرندے کے فضلے کا حکم	۲۳۶	
۲۸۰	نجاست کی ایک اور تقسیم کی تفصیل	۲۳۷	
۲۸۳	<b>فصل فی الاستنجاء</b>		طہارت کے باب میں معذور کا بیان
۲۸۴	استنجاء کی سنیت اور استنجاء میں پتھروں کے عدد کی حیثیت	۲۳۹	معذور کے حق میں وقت کے ذریعے نقص وضو کے اتوال کی تفصیل
۲۸۷	اس صورت کا بیان جس میں پانی کا استعمال ضروری ہے	۲۵۱	معذور کے کچھ مسائل کی توجیح
	ان چیزوں کا بیان جن کو استنجاء کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں	۲۵۳	<b>فصل فی النفاس</b>
۲۸۸		//	نفاس کی تعریف
		۲۵۴	ولادت کے وقت استحاضہ کا بیان
۲۹۰	<b>کتاب الصلّٰة</b>	۲۵۵	حمل ساقط ہونے کی صورت کا بیان
	یہ کتاب احکام صلاۃ کے بیان میں ہے	//	نفاس کی مدت کا بیان
//	صلاة کے لغوی معنی ہیں	۲۵۶	چالیس دن سے زیادہ خون آنے کی صورت کا بیان
//	صلاة کے اصطلاحی معنی	۲۵۷	جزواں بچوں کی ولادت کے موقع پر نفاس شروع ہونے کے وقت کا بیان
//	وجوب نماز کا سبب	۲۵۹	<b>باب الأنجاس و تطہیرھا</b>
//	ارکان نماز	۲۶۱	مزید نجاست چیزوں کا بیان
۲۹۱	نماز کا حکم	۲۶۳	رگڑنے سے نجاست دور ہونے کی تفصیل
//	پھر نماز کی فرضیت	۲۶۵	رگڑنے سے دور نہ ہونے والی نجاستیں
۲۹۲	<b>باب المواقیت</b>	//	کپڑے کی پاکی کا طریقہ
۲۹۴	فجر کے وقت کا بیان		منی کی ناپاکی کی بحث اور اس کو دور کرنے کے طریقے کا بیان
۲۹۶	ظہر کے وقت کی تفصیل	۲۶۶	
۲۹۷	عصر کے وقت کا بیان	۲۶۸	پونچھنے سے پاک ہو جانے والی چیزیں
۲۹۹	مغرب کے وقت کی وضاحت	//	ناپاک زمین کے خشک ہو جانے کے بعد کا حکم
۳۰۰	عشاء کے وقت کا بیان	۲۷۰	نجاست غلیظہ، تعریف، حکم اور معاف مقدار کی تفصیل
۳۰۱	نماز وتر کے وقت کا بیان	۲۷۱	نجاست کی قسمیں اور ان کی تفصیل
۳۰۳	فجر، ظہر اور عصر کے مستحب اوقات کا بیان	۲۷۲	نجاست خفیفہ، تعریف، حکم اور معاف مقدار کی تفصیل
۳۰۴	مغرب کے مستحب وقت کی تفصیل	۲۷۴	نجاست کی تقسیم میں اختلاف اتوال اور اس کا ثمرہ



۳۳۳	عورت کی اذان کا حکم	۳۰۵	عشاء کا مستحب وقت
	اذان دینے کے لیے موزوں وغیر موزوں وقت اور اس	۳۰۶	نماز وتر کا مستحب وقت
۳۳۴	کے احکام	۳۰۷	ابر آلودوں میں نمازوں کے مستحب وقتوں کی تفصیل
۳۳۶	مسافر کے لیے اذان اور اقامت کا بیان		<b>فصل فی الأوقات التي تکره</b>
۳۳۸	<b>باب شروط الصلاة التي تتقدمها</b>	۳۰۸	<b>فيها الصلاة</b>
۳۳۹	نماز سے پہلے کی شرطیں	۳۰۹	ہر قسم کی نماز کے مکروہ ہونے کے اوقات کا بیان
۳۴۰	عورت اور مرد کے ستر کی تفصیل		وقت ناقص میں نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور اسی دن کی
۳۴۲	جسم کا کچھ حصہ کھلا ہونے کی صورت میں نماز کا حکم	۳۱۱	عصر کے فرض ادا کرنے کا حکم
۳۴۳	آزاد عورت کے ستر میں اقوال کی تفصیل	۳۱۳	نفل نماز مکروہ ہونے کے اوقات کا بیان
۳۴۵	بانڈی کا ستر	۳۱۶	<b>باب الأذان</b>
	ایسے آدمی کے لیے نماز کا حکم جو نجاست سے آلودہ ہو	//	اذان کے لغوی معنی
۳۴۶	لیکن نجاست دور کرنے پر قادر نہ ہو	//	اذان کے شرعی معنی
۳۴۸	برہنہ آدمی کی نماز کے طریقے کا بیان	۳۱۸	اذان کی حیثیت اور طریقہ
۳۵۰	نماز میں نیت کی حیثیت، محل اور اس کا طریقہ	۳۱۹	اذان میں ترجیح کا بیان
۳۵۱	استقبال قبلہ کا بیان	۳۲۰	فجر کی اذان میں اضافے کا بیان
۳۵۲	خوف کی حالت میں استقبال قبلہ کا حکم	۳۲۱	اقامت کا بیان
	جب قبلہ کے بارے میں پتہ نہ چل سکتا ہو تو ایسی صورت	۳۲۲	اذان و اقامت کی ادائیگی کی رفتار کی وضاحت
۳۵۳	کا حکم	۳۲۳	اذان کی سنتیں
	اگر تحری کر کے غلط سمت میں نماز پڑھ لی تو پتہ چلنے کی	۳۲۴	اذان کے مستحبات
//	صورت میں اعادہ کے حکم کی تفصیل	۳۲۶	تعمیر، تعریف اور حکم
	نماز کے دوران ہی سمت کا غلط ہونا معلوم ہونے کی	۳۲۸	اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھنے کا مسئلہ
۳۵۴	صورت کا حکم	۳۲۹	قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم اور اس کی تفصیل
	امام اور مقتدیوں کی تحری کا ایک دوسرے کے مخالف	۳۳۱	اذان و اقامت میں وضو کی حیثیت
۳۵۵	ہونے کی صورت کا بیان	۳۳۲	حالت جنابت میں اذان و اقامت کا حکم

## انتساب

احقر **أحسن الهدایة** کی یہ جلد اور اس کے بعد آنے والی تمام جلدوں کو من یرد اللہ بہ خیراً یفقہہ  
 فی الدین کے مصداق کامل، فقہ و فتاویٰ کے سب سے عظیم حامل، تدوین فقہ کے بانی، امام ربانی، محسن امت  
 محمدیہ، قائد ملت حنیفیہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نور اللہ مرقدہ کے نام نامی اسم گرامی کی طرف منسوب کرنے کی  
 سعادت حاصل کر رہا ہے اور اس موقع پر زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، کہ

شنیدم کہ در روز اُمیہ و نیم      بدایا را بہ نیکای بہ بخشد کریم

**عبد الحلیم قاسمی بستوی**

## تقریظ

محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی  
شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

الحمد لله على افضاله والصلوة على نبيه وآله. اما بعد!

ہدایہ مولفہ ابوالحسن علی مرغینانی فقہ حنفی کی وہ لاجواب و مایہ ناز کتاب ہے، جس کی نظیر دنیا کے علم و فن کا کوئی فرد نہ پیش کر سکا، اس کی سہل ممتنع عبارتوں سے عجیب و غریب دماغی ورزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اندر خود سوچنے اور دوسروں کے کلام کو سمجھنے کی استعداد اور مہارت تامہ پیدا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ کتاب درس نظامی سے فراغت کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کی افادیت کی وجہ سے علمائے محققین کی ایک بڑی جماعت نے اس کی شروح و حواشی اور تخریج احادیث کی طرف خصوصی توجہ دی اور انہوں نے اس سلسلے میں سینکڑوں کتابیں تالیف فرمائی ہیں، لیکن ان میں اکثر کتابیں اور شروحات عربی میں ہیں اور طویل ہیں، جن سے طلبہ اپنی سہولت پسندی اور توانی و تکاسل کی وجہ سے بھرپور فائدہ نہیں حاصل کر پاتے، طلبہ کی اسی ضرورت کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے ایک ذی استعداد ہونہار فاضل عزیز مکرم جناب مولانا مفتی **عبدالحلیم** قاسمی بستوی سلمہ معین مفتی دارالعلوم دیوبند نے اس کتاب کی شرح و تفصیل کا بیڑا اٹھایا ہے اور احسن الہدایہ کے نام سے اس کی توضیح و تشریح کر رہے ہیں۔

راقم الحروف نے عدیم الفرستی کے باعث احسن الہدایہ پر طائرانہ نظر ڈالی اور اندازہ یہ ہوا کہ عزیز موصوف کی یہ محنت قابل قدر اور لائق تحسین ہے، موصوف نے اس شرح میں عبارت کا ترجمہ اور عام فہم سلیس اردو زبان میں اس کی تشریح کر کے اہل علم پر ایک احسان کر دیا ہے۔ اور عربی شروحات سے بھرپور استفادہ کر کے اس کتاب کو کما حقہ حل کر دیا ہے، جو طلبہ اور مدرسین کے لیے یکساں مفید ہے۔

راقم دعاء کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس شرح کو قبولیت سے نوازیں اور عزیز شارح کو اس کا بہتر اجر عنایت فرمائیں۔ اور دیگر دینی امور کے لیے ہمیشہ انھیں سرگرم عمل رکھیں۔ (آمین)

عبدالحق اعظمی

خادم الحدیث دارالعلوم دیوبند

۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

## رائے عالی

بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب معروفی

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه أجمعين . اما بعد!

عزیزم مولوی عبدالحمیم بستوی معین مفتی دارالعلوم دیوبند ”احسن الہدایہ“ کے نام سے فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب ہدایہ کی تشریح و توضیح کر رہے ہیں، اور سردست ہدایہ اولین کی دو جلدیں مرتب کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

یہ کتاب ترجمے اور مطلب کے اعتبار سے حل کتاب (ہدایہ) کے لیے الحمد للہ خوب اور بہتر ہے، زمانہ طالب علمی ہی میں اس طرح کا ذوق و شوق خوش آئند مستقبل کی غمازی کرتا ہے، موصوف سے گزارش ہے کہ وہ برابر محنت کرتے رہیں، تاکہ آئندہ آنے والی کتابیں اس سے بہتر اور خوب سے خوب تر ہوں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز شارح کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کتاب سے اہل علم کو نفع پہنچائے۔

وما ذلك على الله بعزيز

والسلام

نعمت اللہ غفرلہ

خادم التدريس دارالعلوم دیوبند

## صدائے شارح

خداوند قدوس کا یہ ازلی دستور ہے کہ ابتدائے آفرینش ہی سے ہر قوم و ملت میں کچھ ایسے چیدہ اور چنیدہ افراد مبعوث کرتے رہے ہیں جو علم و عمل میں اعلیٰ، زہد و تقویٰ میں نمایاں، محنت و مجاہدے میں سرفہرست، توکل و استغناء میں ضرب المثل اور زندگی کے ہر شعبے میں قابل تقلید اور نمونہ عمل تھے۔ انھی پاک باز نفوس کو ہم اور آپ حضرات انبیاء و رسل کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں، یہ انبیائے کرام ہم مشن اور ہم کار تھے اور سب کے سب کلمہ توحید کے داعی اور صدائے حق کے علم بردار تھے، اور ابوالبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے شروع ہونے والا یہ بابرکت سلسلہ خیر البشر حضرت محمد ﷺ پر آ کر منتہی ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے نزول مسائل کا آغاز ہوا اور انھی کی قوم کو سب سے پہلے مسائل و احکام کا مکلف بنایا گیا۔ اور جس طرح نبی کریم ﷺ سلسلہ انبیائے و رسل کے خاتم ہیں، اسی طرح آپ کی امت تمام احکام و مسائل اور ہر طرح کی تکلیفات و واجبات کی خاتم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر دین و شریعت کو منتہی فرما کر قیام قیامت تک نزول وحی کے دروازے کو مقفل اور سیل بند کر دیا۔

بعثت کے بعد نبی کریم ﷺ نے امت کی تطہیر و تزکیے کا جو سلسلہ شروع فرمایا وہ تاحیات جاری و ساری رہا، اور آپ ﷺ اس درجہ انہماک اور احساس ذمے داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے کہ قرآن کریم نے آپ کی محنت و جاں فشانی، ہم دردی و مہربانی اور اصلاح امت کے حوالے سے آپ کی تڑپ اور لگن کو حرص سے تعبیر کیا ہے، ارشاد باری ہے: حویص علیکم بالمؤمنین رؤف الرحیم۔

تاریخ شاہد ہے کہ آپ ﷺ نے امت کی نوک پلک سنوارنے اور انھیں راہ راست پر لانے میں اپنی پوری طاقت و توانائی صرف کر دی، اور احسان پر احسان یہ فرمایا کہ اس دنیائے آب و گل سے رخت سفر باندھتے باندھتے ”توکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتہم بہما کتاب اللہ و سنۃ رسولہ“ کے اعلان سے اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کی رشد و ہدایت اور ان کی فوز و فلاح کی خاطر دوائیے چراغ جلا دیے جو عہد نبوی سے لے کر آج تک کسی رنگ و روغن کے بغیر روشن ہیں اور پوری دنیا کو اپنی ضیاء پاش کرنوں سے منور کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تا قیامت یہ اسلامی چراغ پوری آب و تاب کے ساتھ روشن اور رواں رہیں گے۔ اور طالبین ہدایت اور تشنگان علم و معرفت ان سے فیض یاب اور سیراب ہوتے رہیں گے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن  
پھوکنوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

یہ نبی کریم ﷺ کی اخلاص ولہمیت ہی کا اثر تھا کہ آپ کے بعد بھی آپ کا مشن زندہ اور پابندہ ہے اور آپ کے بعد آپ کے رفقاءے کاروں اور جاں نثاروں نے پوری مستعدی اور بیدار مغزئی کے ساتھ مشن محمدی کی کمان سنبھالی اور دنیا کے کونے کونے میں اسے عام اور تام کر دیا۔

دور صحابہ ہی میں یہ نظام نبوت، فکر و نظر سے پرواز کر کے عملی زندگی میں گردش کرنے لگا تھا اور نہایت مختصر سی مدت میں ہر حرکت و سکون میں یہ نظام مؤثر اور کار فرما ہو چکا تھا۔ ہر چند کہ آفتاب رسالت سرسبز گنبد کی نذر ہو گیا تھا، مگر اس کی انقلابی شدت اور روحانی حرارت سے لوگوں کے قلوب بدستور معمور تھے اور ہر کوئی نبی کریم ﷺ کے لگائے ہوئے ایمان کے شجر طوبیٰ کی آب یاری و آب پاشی میں لگا ہوا تھا۔

اس کے بعد حالات میں زبردست تبدیلی آئی، دنیا میں انقلابات و تغیرات رونما ہوئے، انسان کی ضرورتیں بھی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئیں، نئے نئے مسائل نے آنکھیں کھولیں اور انسانوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا، اور وقت سختی سے یہ مطالبہ کرنے لگا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات ایک نئے انداز سے مرتب ہوں، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کے اقوال و افعال بھی پیش نظر رہیں اور پھر ایک ایسے جامع ”نظام حیات“ کی ترتیب دی جائے جو زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوؤں کو شامل اور جملہ شعبہ ہائے موت و حیات پر مشتمل ہو؛ تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں تلاش و تتبع کے بغیر کتاب و سنت کی روشنی میں نہایت آسانی سے اپنی زندگی کا سفر طے کر سکیں۔

چنانچہ تمام علوم و فنون میں کامل دست گاہ رکھنے والی ائمہ مجتہدین کی ایک جماعت نے سب سے پہلے اس ضرورت کو محسوس کیا اور فقیہ الامت، امام الائمہ حضرت امام ابوحنیفہ نور اللہ مرقده کی قیادت و سیادت میں اس ضرورت کو عملی جامہ پہنانے کی تحریک شروع ہوئی، اور عالم اسلام کے نامور اور بالغ نظر فقہاء و محدثین کی ایک ٹیم نے مل بیٹھ کر اسلامی نظام کی دفعات تیار کیں اور اصول و فروع کا نقشہ اور خاکہ تیار کر کے اسے حضرات فقہاء کی پارلیمنٹ میں پیش کیا، جو بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گیا۔

فقہائے متقدمین کی تیار کردہ سابقہ دفعات ہی کے طرز و طریقے پر ۵۹۳ھ کے نامور فقیہ اور ممتاز صاحب قلم شیخ الاسلام حضرت علامہ برہان الدین علی بن ابوبکر مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں ایک انتہائی مفصل اور مبسوط ذخیرے کا اضافہ کیا، جسے عالم اسلام میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور بیشتر اہل مدارس نے آگے بڑھ کر اسے اپنایا اور اپنے نصاب ہائے تعلیم کا لازمی جز قرار دے دیا۔

ہر چند کہ یہ کتاب (ہدایہ) ہدایۃ المبتدی نامی ایک دوسری فقہی کتاب کی تشریح و توضیح میں لکھی گئی، مگر اپنی اہمیت و افادیت، جامعیت و ہمہ گیریت اور اپنے دقائق و لطائف کے سبب بذات خود ایک مستقل کتاب کی شکل اختیار کر گئی۔

ہدایہ کی مقبولیت و محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ عالم عربی کے مشہور و معروف مصنفین اور ممتاز قلم کاروں نے اس کی تشریح و توضیح سے خاصی دل چسپی اور کئی حضرات نے اپنی بساط علمی اور شارحانہ ذوق کے مطابق اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کامیاب



محنت کی، اور اپنی محنت و لگن، دیدہ ریزی و بالغ نظری اور حل مسائل کے حوالے سے اپنے انتظام و اہتمام کی بدولت اہل علم سے خراج تحسین بھی حاصل کی۔

لیکن چونکہ بلاذعج کی شناخت اور یہاں کی ترجمانی کا سارا مدار اردو زبان پر منحصر اور موقوف ہے، دارالعلوم دیوبند اور اس طرز پر چلنے والے دیگر عربی مدارس میں بھی اردو زبان ہی کے ذریعے پڑھنے اور پڑھانے کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اس لیے عرصے سے ہدایہ کی ایک ایسی شرح کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جو علمائے متقدمین کی تحریرات و شروحات کا خلاصہ ہو اور ہدایہ کے جملہ مسائل کو اردو کے ادبی پیرایہ بیان میں اچھی طرح ڈھالنے والی ہو۔

زیر نظر کتاب (اسن الہدایہ) اسی سلسلے کی جانب ایک پیش رفت ہے، جو دارالکتاب دیوبند کے مالک جناب مولانا ندیم الواجدی صاحب کی فرمائش، بل کہ ان کے اصرار پر انہی کے نظم و انتظام سے منظر عام پر آرہی ہے۔

اس سلسلے کی اس سے پہلے دو جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں جن میں سے پہلی ”کتاب البیوع“ سے متعلق ہے اور دوسری ”کتاب الشفعة“ سے متعلق ہے۔ الحمد للہ قارئین نے ان دونوں جلدوں کو بخیر استحسان دیکھا اور بقیہ جلدوں کی ترتیب و تکمیل کے لیے پیہم فرمائش کرتے رہے، چنانچہ ان کی فرمائش کو سامنے رکھ کر اسن الہدایہ کی پہلی اور چوتھی جلد پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ سابقہ جلدوں کی طرح یہ جلدیں بھی قارئین کو پسند خاطر محسوس ہوگی اور ان کی علمی تشنگی بچھانے کا سامان فراہم کریگی۔

اس کے علاوہ بقیہ جلدوں کی ترتیب و تسوید کا کام بھی جاری ہے اور وہ جلدیں بھی بہت جلد منظر عام پر آرہی ہیں۔ راقم الحروف اس موقع پر ان تمام حضرات کا تہ دل سے ممنون کرم ہے جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب و تشریح میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا، بالخصوص استاذ محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب زید مجدہم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب معروفی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کا کہ ان حضرات نے تعلیم و تدریس کی مصروفیت اور کثرت مشاغل کے باوجود احقر کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی گراں قدر تقریظات سے اس کتاب کی اہمیت و افادیت کو دوبالا فرمادیا۔

ساتھ ہی ساتھ ان تمام احباب کی خدمات میں بھی ہدیہ تشکر و امتنان پیش کر رہا ہے جو کسی بھی طرح سے ان جلدوں کے منظر عام پر آنے میں معاون بنے ہیں، جن میں برادر مکرم جناب حافظ ایاز احمد مہاراشٹری (آپرٹیو یا سرنڈیم کمپیوٹر دیوبند) مولوی محمد ہارون مہاراشٹری، مولوی محمد مسعود مہاراشٹری اور مولوی حبیب احمد مہاراشٹری وغیرہم قابل ذکر اور لائق صد شکر ہیں کہ اول الذکر نے کمپیوٹر کی کتابت اور تزئین و ترقیم کے تمام مراحل بعجلت ممکنہ میں انجام دے دیا، جب کہ مؤخر الذکر احباب نے تحریر و کتابت کے علاوہ احقر کو تمام مصروفیات سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا۔ اللہ پاک ان احباب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔

اللہ پاک ان حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور امت مسلمہ تادیر ان سے مستفید ہوتی رہے۔

جملہ قارئین سے درخواست ہے کہ اس کتاب کی تشریح و توضیح میں نہایت عرق ریزی سے کام لیا گیا ہے اور اکثر مسائل کو فقہی قواعد و ضوابط سے مدلل اور مزین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اگر آپ کو اس کتاب سے کوئی فائدہ محسوس ہو، تو برائے کرم ناچیز شارح، اس کے اساتذہ و والدین اور اس کے جملہ متعلقین و محبین کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی

خامی اور کمی محسوس ہو تو اس کی بھی نشان دہی کریں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جاسکے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،  
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

کہہ رہا ہے سر بسجودہ کر کے طالب اے خدا  
طالبین دین کی خاطر اسے نافع بنا

عمر میں برکت دے میری اور ہمت کر عطا  
دین اور اسلام کی خدمت کرے احقر سدا

**عبدالحلیم قاسمی بستوی**

سابق معین مفتی دارالعلوم دیوبند

## عرض محقق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد!

یوں تو علوم اسلامیہ دینیہ سب کے سب بنی نوع انسانی کے لیے انتہائی مفید اور ضروری ہیں۔ لیکن علم فقہ ان میں ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ اس نمایاں حیثیت کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ انسانی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو علم فقہ کے موضوع بحث سے خارج ہو۔ ذاتی و انفرادی صفائی اور پاکیزگی سے لے کر قومی اور بین الاقوامی سیاست تک ہر ایک جز و زندگی فقہی جزئیات کے ذخیرے میں شامل ہے۔

اس بات میں کوئی دو رائی نہیں کہ فقہی ذخائر کی یہ زرخیزی اور ہمہ جہتی صرف اور صرف حضرات فقہائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی قابل قدر کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس معزز علم کی خدمت کے لیے ایسے رجال کار کو پیدا فرمایا جنہوں نے بساط بھر مساعی کے ذریعے اس علم میں تدوینی و تصنیفی خدمات سرانجام دیں۔

فقہائے امت کی اسی محترم و مکرم فہرست میں صاحب ہدایہ شیخ الاسلام علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ علامہ موصوف کی یہ تصنیف حنفی فقہ کے مآخذ میں ایک اہم اور مستند مقام رکھتی ہے۔ علامہ موصوف کی جلالت علمی اور اسلوب بیان کی خاص نوعیت کی وجہ سے کتاب میں ایک حسن پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلام میں کسی قدر دقت اور خفا بھی آ گیا۔ علمی کتابوں میں ایسا ہونا کوئی نئی چیز یا خدانخواستہ بری چیز نہیں ہے۔ چنانچہ ”ہدایہ“ کے کلام کو مزید واضح کرنے، اس کے مسائل کی تحقیق و تنقیح کرنے کا خیال بھی علمائے امت کے ذہنوں میں بظاہر اس کی تصنیف کے وقت ہی جڑ پکڑ چکا تھا۔ چنانچہ ہدایہ کی سب سے مشہور اور معیاری شروحات اس کے ذی قدر و شان مصنف کی وفات سے متصل دو صدیوں میں ہی لکھی جا چکی ہیں۔ مثلاً ”ہدایہ“ کی سب سے اہم اور رجحان ساز شرح ”فتح القدر“ (علامہ کمال ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ) صاحب ہدایہ کے انتقال کے بعد کی پہلی صدی میں لکھی جا چکی تھی۔ اسی طرح علامہ بابر ترقی (م ۸۶۷ ہجری) کی عنایہ اور علامہ عینی (م ۸۵۵) کی بنایہ کا معاملہ ہے۔

برصغیر پاک و ہند کے علمائے اسلام نے جہاں عالمی اسلامی علمی دنیا کو اپنے فیوض و برکات سے مستفید فرمایا ہے وہاں اپنے ہم وطنوں کی مذہبی ضروریات کو بھی فراموش نہیں کیا۔ چنانچہ مقامی زبانوں میں علمی اور دینی تصنیفات و تالیفات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ان زبانوں میں خود تصنیف و تالیف کی۔ چنانچہ فتاویٰ کے ضخیم ذخیروں کے ساتھ ساتھ ترجمہ، تفسیر، سیرت و حدیث، عقائد، فقہ اور معاملات وغیرہ پر بھی کثیر تعداد میں مقامی زبانوں میں تصنیفات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں شاہ رفیع الدین اور شاہ اسماعیل شہید سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید محمد میاں، حضرت مولانا اشرف علی

تھا نوی بیہودہ کی تصنیفات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

تقسیم ہند کے بعد اسلامی مملکت میں نفاذ اسلام کی اکلوتی سرکاری کوشش کے دنوں میں تو یہ عمل اپنی پوری رفتار کے ساتھ رواں دواں تھا۔ چنانچہ فقہ حنفی کی امہات کتب مثلاً ہدایہ، بدائع صنائع وغیرہ کے تراجم اور طبع زاد تصانیف بھی سامنے آئیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی، جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف، جناب ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب اور خاص طور پر مولانا سید عبدالمتین ہاشمی مرحوم اور ان کی تربیت یافتہ جماعت، جناب حافظ سعد اللہ اور حافظ عبدالحفیظ صاحب وغیرہ کی جہود قابل ذکر ہیں۔ شکر اللہ مساعیہم و رضی عنہم و تقلیل عنہم اعمالہم۔

زیر مطالعہ کتاب بھی دراصل مقامی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تحریری کی گئی ہے۔ فاضل مصنف کو دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت معین مفتی اور مدرس کے خدمات سرانجام دینے کا شرف حاصل ہے۔ تفہیم اور تدریس کا ملکہ حیران کن حد تک حاصل ہے۔ سوچتا ہوں کہ اگر دورانِ تعلیم ہمیں احسن الہدایہ میسر ہوتی تو شاید ہدایہ کا کوئی مقام بھی تشنہ نہ رہتا۔

## میری تحقیق کا منہج اور بے مایہ خدمات

محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اپنے عظیم اور مشفق اساتذہ اور والدین کی دعاؤں کی بدولت اس خاکسار کو زیر مطالعہ کتاب میں جو چند خدمات سرانجام دینے کا شرف حاصل ہوا وہ درج ذیل ہیں:

### ① تخریج احادیث و آیات:

متن ہدایہ موجود تمام قولی فعلی اور تقریری احادیث مبارکہ کی حدیث کی امہات الکتب سے تخریج کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ دینے کے لیے جدید تحقیقی دنیا میں مروج اصولوں کی پیروی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کامل نصرت اور کچھ عزیز دوستوں کی رہنمائی کی بدولت ایک سے زائد احادیث مبارکہ کی تخریج میں یہ واقعہ پیش آیا کہ علامہ زیلیعی اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما جیسے فحول اور جہا بذاہ ”لم اجده“ اور ”غریب جدا“ کہہ کر آگے بڑھ گئے لیکن خاکسار اس حدیث کی تخریج میں کامیاب ہو گیا۔ ولا فخر۔

### ② تفہیم متن:

متن کی تفہیم میں اخراج، تخریج اور مراجعت کے لیے ایک سے زائد نسخوں سے رجوع کیا گیا۔ جن میں دارالکتب العلمیہ بیروت سے شیخ ابو محروش عمرو بن محروش کی تحقیق سے چھپنے والا عنایہ کانسز، مکتبہ دارالباز مکہ مکرمہ کا مطبوعہ فتح القدیر کا وہ نسخہ جس پر شیخ عبدالرزاق غالب المہدی نے داد تحقیق دی ہے۔ اور عباس بن الباز، مکتبہ المکرمہ سے شیخ احمد شمس الدین کی تعلیقات کے ساتھ چھپنے والا نصب الرایہ کانسز خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

### ③ اعراب کی تشکیل:

متن ہدایہ پر اعراب لگانے کا کام جو کہ توقعات کے برخلاف سب سے زیادہ طویل اور سب سے مشکل ثابت ہوا۔

## ④ وضع عناوین:

عبارت کے مختلف حل طلب ٹکڑوں کی تشریح سے پہلے اس ٹکڑے میں موجود مسئلے کے عنوان کا ذکر۔

## ⑤ حل لغت:

متن ہدایہ میں موجود مشکل الفاظ کے معانی کو ”اللغات“ کے عنوان کے تحت بیان۔

## ⑥ محاورات میں تبدیلی وغیرہ:

چند ایک مقامات پر محاورے میں بھی تبدیلی کرنا پڑی۔ مثلاً فاضل شارخ نے کتاب الطہارۃ میں کئی جگہ ”دھولے“ کو ”دھل لے“ لکھا تھا۔ یہ ان کا مقامی اور علاقائی روزمرہ ہے جو سرحد کے اس طرف کے اردو دانوں کے لیے یکسر اجنبی ہے۔ لہذا اس کو مقدم الذکر کے مطابق کر دیا ہے۔

## اظہارِ تشکر

اس سب تحقیقی خدمت کو سرانجام دینا میرے لیے ممکن نہ ہوتا اگر مجھے فاضل دوست جناب مولانا مفتی عبدالرحمن نذر، (مختص فی الحدیث علامہ بنوری ناؤن، مختص فی الفقہ دارالافتاء والتحقیق الہلال مسجد) فاضل دوست اور محقق مفتی جناب مفتی ضیاء الرحمن، عزیز دوست اور بھائی مولوی سید صبح الحسن ہمدانی، مہربان دوست مولوی اللہ نواز کی ہمہ تن مدد، اپنے انتہائی عظیم اساتذہ کی توجہات اور اپنے والدین کی دعائیں ہمدست نہ ہوتیں۔

## استدعاء

مذکورہ بالا سب کام ایک انسان ہی کے ہاتھوں سرانجام دیا گیا ہے۔ ایسا انسان جس کو اپنی لاعلمی اور جہالت کے علاوہ کسی بات کے علم کا اقرار نہیں ہے۔ لازمی امر ہے کہ آپ جیسے فاضل قارئین کو اس میں کچھ غلطیاں نظر آئیں۔ براہ کرام ان سے بندہ کو ضرور مطلع فرمائیں۔ بندہ ہمہ تن شکر گزار ہوگا۔

ماکان من حسن فمن اللہ و من حسن الخط وماکان من عیب فمینی و من الشیطان

محمد صہیب اشفاق

فاضل مدرسۃ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ

خریج افتاء و تخصص فی الفقہ الاسلامی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## فقہ، اصحابِ فقہ، تدوین فقہ اور مشہور فقہاء کا مختصر تعارف

کسی بھی فن اور کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس فن کے ضروری مباحث اور صاحب کتاب کے احوال و کوائف سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، تاکہ فن اور صاحب فن کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اس فن کے سیکھنے اور اسے حاصل کرنے کا انتظام و اہتمام ہو۔

ہدایہ فن فقہ کی وہ مایہ ناز اور لاجواب کتاب ہے کہ اسلامی لائبریریاں کتابوں کی وسعت اور تصنیفات و تالیفات کی بے پناہ کثرت کے باوجود آج تک اس کتاب کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکیں، روز تالیف ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی ہے جو اس فن میں لکھی جانے والی کسی دوسری کتاب کے حصے میں نہ آسکی، فقہ وہ اہم موضوع ہے جس کے متعلق خلاصہ وغیرہ میں یہاں تک لکھ دیا گیا ہے ”تعلّم الفقه افضل من تعلّم معاني القرآن“ اور کہنے والے نے کہا ہے

إِذَا مَا اعْتَزَ ذُو عِلْمٍ بِعِلْمٍ      فَعِلْمُ الْفِقْهِ أَوْلَىٰ بِاعْتِزَالِ  
فَكَمَّ طِيبٍ يَقْوَحُ وَلَا كِمَسْلِكٍ      وَكَمَّ طَيْرٍ يَطِيرُ وَلَا كَبَارِي

یعنی اگر کوئی علم صاحب علم کے لیے ذریعہ صاحب افتخار ہو سکتا ہے، تو علم فقہ اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سی خوشبوئیں مہکتی ہیں، لیکن مشک کی طرح نہیں ہوتیں، اور بہت سے پرندے اڑتے ہیں، لیکن باڑی طرح نہیں اڑ سکتے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ اشعار کہے

تَفَقَّهَ فَإِنَّ الْفِقْهَ أَفْضَلُ قَانِدٍ      إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَأَعْدَلُ قَاصِدِ  
وَكَوْنُ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً      مِنَ الْفِقْهِ وَأَسْبَحَ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ  
فَإِنَّ فِيهَا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا      أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدِ

اے مخاطب! تم فقہی علوم حاصل کرو، اس لیے کہ علم فقہ صلاح و تقویٰ کا بہترین رہبر ہے۔ اور سب سے زیادہ معتدل قائد ہے۔ اور فقہ کے چمن سے روزانہ خوشہ چینی کیا کرو، اور اس کے منفعت بخش سمندر میں غوطہ زنی کیا کرو۔ اس لیے کہ ایک تقویٰ شعار فقہ ہزاروں عبادت گزار لوگوں کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔

فقہ کی انہی خصوصیات و امتیازات کے پیش نظر اس کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع وغیرہ کا جاننا انتہائی لازمی اور



ضروری ہے۔

### فقہ کی لغوی تعریف:

فقہ فقہ فقہاً باب کرم سے اور فقہ فقہاً باب سمع دونوں سے آتا ہے، فقہ جب باب سمع سے آئے تو اس کے معنی ہیں العلم بالشیء کسی چیز کا جاننا، سمجھنا، اور جب باب کرم سے آئے تو اس کے معنی ہیں فقیہ ہونا، سمجھدار ہونا۔

### فقہ کی اصطلاحی تعریف:

العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية یعنی احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے جو احکام کے تفصیلی دلائل کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔

### فقہ کا موضوع:

فعل المکلف ثبوتاً او سلباً۔ یعنی حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے مکلف کا فعل فقہ کا موضوع کہلاتا ہے۔

### فقہ کی غرض و غایت:

الفوز بسعادة الدارين دنیا و آخرت میں خوش بختی حاصل کرنا، فقہ کی غرض و غایت ہے۔

### علم فقہ کا ماخذ:

کتاب، سنت، اجماع اور قیاس علم فقہ کے ماخذ ہیں۔



## علم فقہ کی تدوین

یوں تو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں فقہ کا آغاز ہو چکا تھا، لوگ دینی مسائل و مشاغل نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کرتے تھے اور آپ ان کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل فرمایا کرتے تھے، یہ مسائل جس طرح عوام الناس کو پیش آتے تھے اسی طرح خواص بھی ان مسائل سے دوچار ہوتے تھے اور عام لوگوں کی طرح خواص بھی نبی کریم ﷺ مجلس مبارک میں زانوئے تلمذ تہہ کرتے تھے اور پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں آپ ﷺ سے قرآن و حدیث کا منشا معلوم کرتے تھے، اور نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں کسی شخص کو بھی اجتہاد یا قیاس سے مسائل معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، البتہ حضرات صحابہ دوران سفر اجتہاد وغیرہ کر لیا کرتے تھے، لیکن اسے بھی حتمی نہیں سمجھتے تھے، بل کہ سفر سے واپس آنے کے بعد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اسے پیش کرتے اور آپ ﷺ سے اس کی تصدیق و تصویب کراتے تھے۔

اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ جب آپ ﷺ نے انھیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا بما تقضی یا معاذ اے معاذ تم لوگوں کے قاضی اور فیصل بن کر جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ، کن چیزوں سے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا بکتاب اللہ سب سے پہلے تو میں کتاب اللہ کو فیصل بناؤں گا، آپ ﷺ نے فرمایا فان لم تجد فیہ اگر کتاب اللہ میں تمہیں درپیش مسئلے کا کوئی حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فبسنة رسول اللہ تو اللہ کے رسول کی سنت کو فیصل بناؤں گا، آپ نے فرمایا فان لم تجد فیہا اگر سنت رسول میں بھی تمہیں کوئی حکم نظر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا أجتهدُ برأی اے اللہ کے نبی اس صورت میں اپنی رائے سے میں فیصلہ کروں گا، آپ ﷺ کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب پسند آیا اور آپ نے ان کے سینہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا الحمد لله الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک نبی کریم ﷺ اس دنیائے فانی میں بقید حیات رہے اس وقت تک فقہ و فتاویٰ کا مرجع آپ ہی کی ذات والا صفات رہی، جس پر قرآن کریم کی یہ آیت شاہد عدل ہے فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلا (پھر اگر تم کسی امر میں اختلاف کرنے لگو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ سب سے بہتر ہے اور اس کا انجام خوش تر ہے) نبی کریم ﷺ کے دنیائے آب و گل سے روپوش ہو جانے کے بعد آپ کے وفاداروں اور جاں نثاروں نے اس مہتمم بالشان کام کو پوری محنت و جاں فشانی اور حسن انتظام و حسن اہتمام کے ساتھ آگے بڑھایا اور عہد صحابہ تک یہ نظام اسی طرح روز افزوں ترقی کرتا رہا،

صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال کے چلتے پھرتے مجسمے تھے، بالفاظ دیگر صحابہ کرام کی پوری جماعت لقد کان لکم فی رسول اللہ أسوة حسنة کی جیتی جاگتی تصویر تھی، انھوں نے مے خانہ محمدی سے اس درجے نوش کی تھی کہ صاحب مے خانہ کی عدم موجودگی میں بھی ان کی کیف و مستی کا وہی عالم تھا، جام نبوی سے اس قدر وہ سرشار تھے کہ اسوۂ نبوی کے خلاف کوئی بھی ادا انھیں زیب ہی نہیں دیتی تھی، خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کتاب و سنت کے علوم سے اس طرح لبریز تھے کہ ایمانی شاخوں میں سے کسی بھی ادنیٰ سی شاخ کی پڑمردگی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے محسن و مربی کے اس مشن کو بحسن و خوبی آگے بڑھایا اور مسجائے کائنات کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک گوشے کو اُمت کے سامنے اُجاگر کر دیا۔

لیکن دور نبوت سے جتنا بعد بڑھتا گیا اتنا ہی لوگوں کے مسائل اور واقعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ظاہر ہے جب نئے نئے مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا تو اجتہاد اور استنباط کا دائرہ بھی اُسی حساب سے بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا، چنانچہ حضرات صحابہ میں سے جن حضرات نے اجتہاد و استنباط میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید، حضرت عائشہ، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم وغیرہ کے نام نامی اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

امام نووی رضی اللہ عنہ نے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے علوم ۶ صحابہ میں جمع ہو گئے تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید، حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم، اور پھر ان چھ صحابہ کرام کے علوم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے سینوں میں پیوست ہو گئے تھے۔

نبی کریم ﷺ کے بعد حضرات صحابہ مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے، اور ہر صحابی اپنی اپنی جگہ علم کا ایک دریا تھا جو تشنگان علوم کو سیراب کر رہا تھا، لیکن ان ممالک میں قیاس اور فقہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ شہرت کوفہ کو ہوئی۔ بدائع الصنائع کے مقدمے میں ہے کہ تمام شہروں میں قیاس اور فقہ کے اعتبار سے اہل کوفہ سب سے آگے ہیں یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا فقہ کوفی و عبادۃ مصریۃ کہ فقہ تو اہل کوفہ کا معتبر ہے جب کہ عبادت مصر والوں کی مشہور ہے، اور اہل کوفہ کے علم کا بیشتر حصہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے علوم سے ماخوذ تھا۔ اسی وجہ سے فقہ حنفی کا اصل ماخذ اور مرجع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور ان کے علوم کو قرار دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے ۲۰ھ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کو کوفہ روانہ کیا، اور اس روانگی کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم تمام علوم اور بالخصوص علم فقہ میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے علوم سے اہل کوفہ کو فیض یاب کرنے کے زیادہ حق دار ہیں، چنانچہ حضرت ابن مسعود خلیفہ وقت کے ارمان پر پورے اترے اور ایک لمبے زمانے تک پوری توجہ، کامل اخلاص اور بھرپور دلچسپی کے ساتھ اہل کوفہ کو قرآن و سنت اور فقہ کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، یہ ابن مسعود کی اخلاص و للہیت اور محنت ہی کا کرشمہ تھا کہ کوفہ کے کونے کونے میں فقہاء و محدثین اور وارثین دین نظر آنے لگے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت علیؓ کوفہ پہنچے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے شاگردوں کا ایک جم غفیر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر موجود تھا، علماء، فقہاء اور محدثین کے اتنے

بڑے مجمع کو دیکھ کر حضرت علیؑ کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ صادر ہوا رحمہ اللہ ابن ام عبیدہؓ قد ملاً هذه القرية علماً اللہ تعالیٰ ابن مسعودؓ پر رحم فرمائے انھوں نے تو کوفہ کے چہار جانب اسلامی علم لہرا دیے۔

خود حضرت علیؑ بھی نبی کریم ﷺ کے پروردہ تھے، اور ابتداء ہی سے انھوں نے نور نبوت سے کسب فیض کیا تھا، اس وجہ سے علوم و فنون میں ان کی مہارت بھی مسلم تھی، چنانچہ ان کے کوفہ پہنچنے کے بعد وہ تمام درخت جنھیں ابن مسعود نے اپنے خون جگر سے سیراب کر کے تاور بنا دیا تھا، حضرت علیؑ کی آمد کے بعد ان میں مزید تازگی اور بالیدگی اور پختگی پیدا ہو گئی اور ان دونوں بزرگوں کی محنت اور برکت کے طفیل کوفہ ہر اعتبار سے علم و فضل کا مرکز بن گیا۔

قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ جس طرح اس نے اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کی پائے داری اور بقاء کے لیے قرآن مقدس جیسی کتاب نازل کر کے خود ہی اس کی حفاظت و صیانت کا ذمہ لے لیا، اسی طرح نبی کریم ﷺ کے ذریعے اس کتاب مقدس کے مضامین کو عام اور تام کرایا اور آپ ﷺ کے بعد اسلام کی ایک ایسی فوج تیار کرائی جو کسی بھی تبدیلی اور ترمیم کے بغیر منج نبوی کے مطابق اس نظام حیات کو لے کر آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ کوفہ میں حضرت علیؑ اور حضرت ابن مسعودؓ کی شخصیات پر جب یہ فوج منتہی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعودؓ کے شاگرد رشید حضرت علقمہ کے سینہ میں ان کے علوم کو منتقل فرما دیا، حضرت علقمہ نے اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان علوم کو اپنے خون جگر سے سینچا اور ہر طرح سے انھیں زندہ اور پابندہ اور تازہ دم رکھا، جب حضرت علقمہ نے حیات مستعار کے ماہ و سال پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نخعی کو جو حضرت علقمہ کے بھانجے تھے ان کے علوم کا جانشین بنایا، حضرت ابراہیم نے اپنے ماموں کے علوم کو محفوظ رکھتے ہوئے بے شمار فوائد و نواد کو اس میں شامل کیا اور ان تمام کو قابل استفادہ بنا دیا، حضرت ابراہیم کے بعد یہ فضیلت کوفہ ہی کے ایک نامور عالم دین حضرت حماد ابن مسلم رحمہ اللہ کے حصے میں آئی، حضرت حماد نے بھی اس سلسلے میں ہر امکانی محنت کی اور اپنے پیش روا کا بر کے لگائے ہوئے ان درختوں کے کسی بھی پھول اور پتے کو مرجھانے نہیں دیا اور علوم دینیہ پر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دی، لیکن ۱۲۰ھ میں حضرت حماد نے بھی رخت سفر باندھ لیا اور ان علوم کی حفاظت و صیانت کا سارا دار و مدار امت محمدیہ کے عظیم محسن، ملت اسلامیہ کے سالار کارواں، امام الاممہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پر آ گیا، اور اہل کوفہ نے حضرت حماد کی جگہ پر امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو فقہ کا مسند نشین بنا دیا، اسی موقع پر کہنے والے نے کہا ہے

الْفَقْهُ زَرْعُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلْقَمَةُ سَقَاهُ

حَصَادَةُ اِبْرَاهِيمَ حَمَادِ دَوَّاسُ

نُعْمَانُ طَاحِنَةُ، يَعْقُوبُ عَاجِنُهُ

مُحَمَّدُ خَابِرٌ، وَالْاَكْبَلُ النَّاسُ

یعنی حضرت ابن مسعودؓ نے علم فقہ کی کھیتی کی، حضرت علقمہ نے اس کھیتی کو سیراب کیا، حضرت ابراہیم نے اس کی کٹائی کی، حضرت حماد نے اس کو بھوسے وغیرہ سے صاف کیا، امام ابوحنیفہ نے اس کا آٹا پیسا، امام ابو یوسفؓ نے اس آٹے کو گوندھا، امام محمد نے اس کی روٹی بنائی اور اب تمام لوگ اسے کھا رہے ہیں۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علم فقہ کو مرتب اور مدوّن کرنے میں جو قابل قدر خدمات علماء احناف نے دیں ہیں وہ کسی

اور مسلک و شرب کی جانب سے دیکھنے کو نہیں ملیں، پھر چوں کہ علماء احناف میں بھی مختلف رنگ و روپ کے فقہاء نے جنم لیا، اور ذکاوت و ذہانت کے الگ الگ معیار پر استنباط و استخراج کا عمل سامنے آیا، اس لیے تیرہویں صدی ہجری کے مشہور حنفی عالم علامہ محمد امین ابن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی المعروف بالشامی رحمہ اللہ نے فقہائے کرام کے کل سات طبقے متعین فرمائے ہیں۔

① **پہلا طبقہ:** مجتہدین فی الشرع کا ہے، یعنی ان بالغ نظر مجتہدین کا طبقہ ہے جو شریعت کے اسرار و رموز سے اس درجہ باخبر تھے کہ انھیں شرعی مسائل میں اجتہاد کا درجہ حاصل تھا، ان میں سرفہرست امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سفیان ثوری اور احمد بن حنبل وغیرہ تھے،

② **دوسرا طبقہ:** مجتہدین فی المذہب کا طبقہ ہے، یعنی امت کے وہ چیدہ و چنیدہ علماء جو حضرت امام ابوحنیفہ اور دیگر مجتہدین فی الشرع کے متعین کردہ اصول و قواعد کی روشنی میں احکام کا استنباط کرتے ہیں، مثلاً امام ابو یوسف، امام محمد، اور حضرت امام ابوحنیفہ کے دیگر شاگرد، ہر چند کہ یہ طبقہ کچھ احکام فروع میں امام صاحب کے مخالف ہے، لیکن قواعد اصول میں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہم وغیرہ ہی کا پیر و کار ہے۔

③ **تیسرا طبقہ:** مجتہدین فی المسائل کا ہے، جیسے امام خصاف، امام طحاوی، شمس الاممہ حلوانی، شمس الاممہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی اور امام ابوالحسن کرخی وغیرہ، ان حضرات کا کام یہ ہے کہ جن مسائل میں مجتہدین فی الشرع وغیرہ سے کوئی صراحت نہیں ملتی ہے، ان مسائل میں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہم وغیرہ کے متعین کردہ اصول کے مطابق مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ نہ تو اصول میں طبقہ اولیٰ والوں کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ ہی فروع میں۔

④ **چوتھا طبقہ:** مقلد اصحاب تخریج کا طبقہ ہے، جیسے امام رازی وغیرہ، یہ لوگ اجتہاد پر قادر نہیں ہیں، لیکن امام اعظم رضی اللہ عنہم وغیرہ کی جانب سے متعین کردہ اصول و قواعد کو اس درجہ مضبوطی سے محفوظ کیے ہوئے ہیں جن کی روشنی میں ہر مجمل قول کی تفصیل اور ہر مبہم مسئلے کی وضاحت کرنے پر قادر ہیں۔

⑤ **پانچواں طبقہ:** مقلدین میں سے اصحاب تخریج کا طبقہ ہے، جیسے امام ابوالحسن قدوری، صاحب ہدایہ وغیرہ، ان حضرات کا کام یہ ہے کہ یہ بعض روایات کو بعض روایات پر ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے ہدایہ وغیرہ میں ہذا اولیٰ، ہذا اصح روایۃ، اور ہذا ارفق للناس جیسے اشاریے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔

⑥ **چھٹا طبقہ:** مقلدین میں سے ان لوگوں کا طبقہ ہے، جو اتوی، قوی، ضعیف، ظاہر مذہب، اور نادر روایتوں کے درمیان فرق کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے متاخرین میں سے متون معتبرہ کے مصنفین، جن میں صاحب کنز، صاحب مختار، صاحب وقایہ، اور صاحب مجمع کے نام سرفہرست ہیں۔ ان حضرات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متروک اقوال اور ضعیف روایتوں کو نقل نہیں کرتے۔

⑦ **ساتواں طبقہ:** مقلدین میں سے ان لوگوں کا طبقہ ہے، جو اتوی، قوی، اور ضعیف وغیرہ کے مابین فرق کرنے پر قادر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ تو اچھے اور برے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتے، نتیجتاً ہر رطب و یابس کو جمع کر لیتے ہیں۔

## فقہ حنفی کی تدوین

امام اعظم علیہ الرحمہ کے زمانے سے قبل حضرات صحابہ کے یہاں علم حدیث کی طرح فقہی مسائل کے استخراج و استنباط اور ان میں اجتہاد کو بھی اہمیت حاصل تھی، اور اجتہاد و فقہ کے بہت سے مسائل اور احکام مدون بھی ہو چکے تھے، مگر یہ کوئی باقاعدہ اور منظم تدوین نہ تھی اور نہ ہی اسے مستقل فن کی حیثیت حاصل تھی، چنانچہ دور صحابہ کے بعد سب سے پہلے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ علیہ الرحمہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ احکام و مسائل کے پھیلے ہوئے جزئیات کو اصولوں کے ساتھ ترتیب دے کر ایک فن بنا دیا جائے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا دستور العمل مرتب کر دیا جائے جس میں تمام چیزوں کی رعایت ہو اور اسلامی قانون کی مکمل تدوین اور اسلامی اصولوں کی تعیین بھی ہو۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، کیوں کہ اسلامی قانون کی تدوین اور دستوری حیثیت میں اس کی ترتیب جس قدر ضروری اور اہمیت کی حامل تھی، اسی قدر نہایت بیدار مغزی اور حاضر باشی نیز حد درجہ حزم و احتیاط کی متقاضی بھی تھی، جس میں ہزاروں شبہات و ضلالت اور لغزشوں نیز وسوسوں کا احتمال تھا، چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اسلام کے شورائی نظام کے تحت شریعت اسلامی کو باضابطہ قانون کے قالب میں ڈھالنے کے لیے وضع قوانین کے لیے ایک دستوری کمیٹی قائم کی اور علم و معرفت کی سرزمین ”کوفہ“ کو کام کرنے کے لیے مرکزی جگہ منتخب کیا۔

امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس مجلس شوریٰ میں جن ممبران کو شامل کیا ان کی مجموعی تعداد چالیس بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک فقہی مسائل کے استنباط و اجتہاد میں درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا تھا۔

اس کمیٹی کے سرفرست افراد میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، قاسم ابن معین، اذوطائی، یحییٰ بن ابی زائدہ، عبداللہ بن مبارک، اور حفص بن غیاث وغیرہ ممتاز اور نمایاں تھے، اور نود علی نود یہ تھا کہ ان سب کو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی سرکردگی اور سرپرستی حاصل تھی، چنانچہ ۱۲۱ھ سے ۱۵۰ھ تک کم و بیش تیس سال تک تدوین فقہ کا یہ مہتمم باشان کام پوری محنت و جان فشانی کے ساتھ جاری رہا، جس کی نظیر اسلام تو اسلام غیر اسلامی تاریخوں میں بھی بمشکل ہی مل سکے گی۔

## تدوین کا طریقہ کار

تمام ائمہ کے فقہی ذخیروں میں صرف فقہ حنفی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کسی شخصی رائے پر مبنی نہیں ہے، بل کہ چالیس علماء کی جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ موثق کمی کے بیان کے مطابق امام ابوحنیفہؒ کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اسد ابن عمرو کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کی خدمت میں پہلے ایک مسئلے کی مختلف صورتیں اور اس کے مختلف جوابات پیش کیے جاتے، پھر جو سب سے زیادہ تحقیقی جواب ہوتا آپ ارشاد فرماتے، اس طرح ایک مسئلہ تین تین دن تک زیر بحث رہتا، تب جا کر اس پر مہر تصدیق لگتی تھی، امام صاحب



نے اپنے تلامذہ اور دستوری کمیٹی کے علماء کو اپنے مسائل اور اپنی رائے تسلیم کرنے پر کبھی مجبور نہیں کیا، بل کہ ہر ممبر کو اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ اور ہر ایک کو بیان کردہ صورت اور شکل کے متعلق جرح و قدح کا پورا پورا اختیار تھا، جس کا اندازہ امام جرجانی کے اس قول سے ہوتا ہے کہ میں امام ابوحنیفہؒ کی فقہی مجلس میں حاضر تھا، ایک نوجوان جو اس حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام صاحب سے کوئی سوال کیا، امام صاحب نے اس کا جواب دیا، لیکن وہ نوجوان جواب سنتے ہی امام صاحب کو مخاطب کر کے اخطات (آپ نے غلطی کی) کہنے جا رہا تھا، جرجانی ”کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی طرز گفتگو کو دیکھ کر حیران رہ گیا، میں نے شرکائے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم لوگ اپنے شیخ کا احترام نہیں کرتے، اتنا سنا تھا کہ امام ابوحنیفہؒ بول پڑے دعہم فانی قد دعوتہم ذلک من نفسی انہیں کچھ نہ کہو، کیوں کہ میں نے از خود انہیں اس طرز کلام کا عادی بنا دیا ہے۔

کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ایک مسئلے پر مہینوں بحث چلتی رہتی، امام صاحب خاموشی کے ساتھ ممبران کی تقاریر، ان کے دلائل اور پیش کردہ مسائل سے متعلق ان کی وجوہ ترجیحات کو سماعت فرماتے اور گاہے بگاہے یہ آیت پڑھتے فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون أحسنہ آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجیے جو بات سنتے ہیں اور قول حسن کا اتباع کرتے ہیں۔

الغرض امام اعظم علیہ الرحمہ کی یہ محنت رنگ لائی اور تیس سال کی طویل مدت میں قانون اسلامی کی تدوین عمل میں آئی، جس کی مدد نہ کتابیں کتب فقہ اہل حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئیں، اس مجموعے میں تراسی ہزار (۸۳۰۰۰) دفعات تھے، اور روز و شب یہ کام ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب امام اعظم کو کوفہ سے بغداد کی جیل میں منتقل کیا گیا تب بھی تدوین فقہ کا سلسلہ جاری تھا، اور تیس سال کی محنت و مشقت اور حک و اضافے کے بعد اس دستوری خانے میں مسائل کی مجموعی تعداد پچاس لاکھ تک پہنچ گئی۔ جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ بن گیا۔ اور آج پوری دنیا انھی فقہائے کرام کے لگائے ہوئے اسلامی پودوں سے پھل اور پھول کا استفادہ کر رہی ہے اور انھی مسائل و دفعات کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر رہی ہے۔ اللہ پاک ان محسنین کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے متور فرمائے، اور ہمیں ان کی تعمیر کردہ شریعت و حقیقت اور ہدایت کی شاہ راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ (ماخوذ از دفاع ابوحنیفہ)

## فقہائے کرام کے نظریاتی اختلافات کے اسباب

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان ”ان العلماء ورتة الانبیاء“ کی روشنی میں علمائے کرام روئے زمین میں حضرات انبیائے کرام کے نائب اور وارث ہیں، اور تبلیغ دین کا جو فریضہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام انجام دیتے رہے ہیں الحمد للہ امت محمدیہ کے علماء نے بھی حسب مقدر اس فریضے کو انجام دینے کی پوری کوشش کی ہے اور بڑی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اس لیے یہ بات تو بالکل ناقابل التفات ہے کہ حضرات علماء اور فقہاء کے آپسی اختلافات کسی حسد، تعصب یا تعمد کی وجہ سے ہیں، بل کہ تمام فقہاء کرام قیاس اور اجتہاد سے پیشتر کتاب و سنت ہی کو مرجع اور ماخذ قرار دیتے ہیں، اور جس مسئلہ میں بھی ان کی رائے

کتاب وسنت کے معارض ہوتی ہے فوراً وہ اس رائے سے رجوع کرتے ہیں، اور کتاب وسنت میں بیان کردہ حکم کے مطابق فیصلے کا نفاذ کرتے ہیں۔

اس سلسلے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ”اذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولی“ یعنی جب میری کوئی بات کتاب وسنت کے مخالف ہو، تو میری بات پر کوئی توجہ مت دو اور اسے ترک کر دو۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه۔ یعنی میں ایک انسان ہی تو ہوں، مجھ سے بھی غلطی اور درستگی کا امکان ہے، لہذا میری رائے کو بغور جانچ لیا کرو، اگر کتاب وسنت کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو، اور اگر ان کے مخالف ہو تو اسے ترک کر دو۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں ”كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي“ یعنی ہر وہ مسئلہ جس میں ناقلین کے وہاں نبی کریم ﷺ سے کوئی صحیح خبر میرے بتائے ہوئے مسئلے خلاف مروی ہو، تو میں اپنی زندگی میں بھی اپنے بتائے ہوئے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے مرنے کے بعد بھی۔

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں ”لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير“ یعنی اپنے دین کے سلسلے میں لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کرو، جو چیز آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ سے منقول ہے اس پر عمل کرو، اس کے بعد تابعی وغیرہ کو اس میں اختیار ہے۔

حضرات ائمہ کے ان بیانات سے یہ بات نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ ان کے آپسی اختلافات کا منشاء حسد یا تعصب و عناد نہیں ہے، بل کہ اس اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ جب حضرات ائمہ میں سے کسی کے قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث آجاتی ہے، تو اس کے لیے اس حدیث کے ترک کا ایک عذر ہوتا ہے اور بقول علامہ شامی یہ عذر تین طرح سے پیش آتا ہے۔

(۱) اُس امام کو یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ حدیث آپ ﷺ سے منقول ہے۔

(۲) یا اسے یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ حدیث اسی مسئلے سے متعلق ہے۔

(۳) یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ حدیث میں بیان کردہ حکم منسوخ ہے۔

## پھر ان تینوں اعذار کے متفرق اسباب ہیں

(۱) پہلا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث اس امام تک نہ پہنچی ہو اور ظاہر ہے جس شخص تک حدیث نہ پہنچی ہو، وہ موجب حدیث کے جاننے کا مکلف بھی نہیں ہوگا، اور حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے اس امام نے کسی مسئلے میں ظاہر آیت کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا، یا کسی دوسری حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا ہوگا، یا قیاس یا استحباب حال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہوگا، چنانچہ اس کا فیصلہ کبھی تو اس حدیث کے موافق ہوگا اور کبھی مخالف ہوگا۔

حضرات سلف کے اقوال میں عموماً اختلاف کا یہی سبب ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کی جملہ احادیث کا احاطہ امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے ناممکن ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے شب و روز کا مشاہدہ کیا ہے ان تک بھی بہت سی احادیث نبویہ نہیں پہنچ سکی تھیں، خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انھیں اجازت طلب کرنے کے حوالے سے آپ ﷺ کا فرمان نہیں پہنچا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں اس فرمان کی اطلاع دی، چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے یہ حدیث منقول ہے ”عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من محالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مدعور، فقال استأذنت علي عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع" فقال والله لتقيم عليه بيعة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقامت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك“

یعنی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ابوموسیٰ اشعری آئے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا اور میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اس لیے میں واپس آ گیا، حضرت ابوسعید خدریؓ نے پوچھا؟ تمہیں کس چیز نے اندر جانے سے روکا، انھوں نے کہا میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی اور مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے جواب نہ دیا جائے تو اسے لوٹ جانا چاہیے، اس پر حضرت ابوموسیٰ نے کہا کہ بھائی تم نے تو حضرت عمرؓ کے خلاف بیعت پیش کر دیا، چنانچہ حضرت ابوموسیٰ نے حاضرین میں سے اس روایت کی تصدیق چاہی جس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تصدیق و تائید فرمائی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی پیش آیا، ان حضرات نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ متوفیٰ عنہا زوجہا اگر حاملہ ہے تو وہ وضع حمل اور عدت و وفات میں سے ابعداً جلیین سے عدت گزارے گی، اور انھیں اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ کی سنت نہیں پہنچی تھی، کیوں کہ آپ ﷺ نے حضرت سیدہ اسمیہ رضی اللہ عنہا کو (جب ان کے شوہر حضرت سعد بن خولہ وفات پا گئے تھے) یہ فتویٰ دیا تھا کہ ان کی عدت وضع حمل ہے۔

یہ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، جن میں خود حضرات صحابہ تک نبی کریم ﷺ سے منقول احادیث نہیں پہنچ سکی تھیں، اسی لیے دور صحابہ میں بھی نظریاتی اختلاف رونما ہوا اور دور صحابہ کے بعد تو اس اختلاف نے اپنا دائرہ کار وسیع کر دیا، کیوں کہ حضرات صحابہ پوری امت میں سب سے زیادہ باخبر اور سمجھ دار تھے، ان کا تقویٰ بھی اعلیٰ درجے کا تھا، اور ان کی فضیلت بھی انتہائی برتر تھی، لہذا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعض احادیث نبویہ مخفی رہ گئیں تو ان کے بعد والوں پر تو اور بھی زیادہ خفاء ہوگا، اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر حدیث صحیح ہے اور ساری حدیثیں حضرات ائمہ تک پہنچ چکی ہیں، یا کسی ایک امام نے تمام احادیثوں کا احاطہ کر لیا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی اور نادانی پر ہے۔

(۲) اختلافِ ائمہ کا دوسرا سبب یہ ہے کہ کسی حدیث کے دو طرق ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا صحیح اور دوسرا غلط ہوتا ہے، چنانچہ کچھ ائمہ کو یہ حدیث غلط طریقے سے پہنچتی ہے اور ان کے لیے ان پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، جب کہ یہی حدیث دوسرے ائمہ تک صحیح سند سے پہنچتی ہے، اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔

(۳) تیسرا سبب یہ ہے کہ حدیث کی تو ایک ہی سند ہوتی ہے، لیکن حضراتِ ائمہ میں سے بعض لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں، کیوں کہ ان کے نزدیک حدیث کے متن یا سند میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، جب کہ دوسرے بعض ائمہ متن یا سند کی خرابی کے باعث اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے۔

(۴) چوتھا سبب یہ ہے کہ کوئی حدیث ایک امام کے پاس پہنچتی ہے اور اسے اس کی صحت کا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن سے وہ حدیث نکل جاتی ہے اور وہ امام اس حدیث کے خلاف فیصلہ کر بیٹھتا ہے، نسیان کی یہ بیماری بھی حضراتِ سلف اور خلف میں بکثرت پائی جاتی تھی، چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اُن کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اِنّی اُجنبت فلم اُصب الماء یعنی میں جنبی ہوں اور مجھے پانی نہیں مل رہا ہے، اس پر حضرت عمار ابن یاسر نے حضرت فاروق اعظمؓ سے عرض کیا اَما تَذکر انا کنا فی سفرٍ انا وَانت فلم تُصل، وَاما انا فتمعکت فصلیت، فَذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم "کان یکفیک ہکذا" فَضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفّیہ الأرض و نَفخ فیہما، ثم مسح وجہہ و کفّیہ۔

یعنی اے فاروقؓ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ہم اور آپ ایک سفر میں تھے اور ہم دونوں کے دونوں جنبی تھے، ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو زمین میں لوٹ پوٹ کر کے نماز پڑھ لی تھی، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تھا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں پورے بدن کو زمین میں لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر اُسے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پوچھ لیتے تو یہ کافی تھا (یعنی تیمم کر لیتے)۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اتق اللہ یا عمار اے عمار اللہ سے ڈرو، اس پر حضرت عمار نے کہا ان شئت لم اُحدث بہ اَگر آپ چاہیں تو میں اسے بیان نہ کروں، اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا نو لیک ما تولیت تم جس کی ذمہ داری لے رہے ہو ہم تمہیں اس کی ذمہ داری سونپ رہے ہیں۔

دیکھیے نسیان کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، کہ فاروق اعظمؓ جیسے جلیل القدر صحابی کو اپنے ساتھ پیش آمدہ واقعہ بھی

یاد نہیں رہا۔

(۵) پانچواں سبب یہ ہے کہ حدیث کے سلسلے میں بعض ائمہ کی طرف سے ایسی شرائط کا التزام جس میں دوسرے ائمہ ان کے مخالف ہوں، مثلاً بعض ائمہ نے حدیث رسول کو کتاب و سنت پر پیش کر کے ان میں موازنے کی شرط لگائی، بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر کوئی محدث قواعد اصول کی خلاف ورزی کرے تو اس کے لیے فقیہ ہونا شرط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر عموم بلوئی سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو اس میں حدیث کا مشہور و معروف ہونا شرط ہے۔

(۶) چھٹا سبب یہ ہے کہ کسی امام کو حدیث کی دلالت کا پتا نہیں ہوتا، چنانچہ کبھی وہ تو حدیث میں بیان کردہ الفاظ کو

غریب سمجھتا ہے اور کبھی حدیث میں بیان کردہ الفاظ کے عرف اور معانی کو نبی کریم ﷺ کے مراد لیے ہوئے عرف اور معانی سے الگ سمجھتا ہے، اور وہ امام حدیث کے الفاظ کو اپنے سمجھے ہوئے مفہوم و معنی پر محمول کرتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، یا مجمل ہوتا ہے، یا حقیقت یا مجاز کے مابین متردد ہوتا ہے، اور وہ امام جسے اچھا سمجھتا ہے اسی پر محمول کر دیتا ہے، اگرچہ اس لفظ کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نص کی دلالت مخفی ہوتی ہے، کیوں کہ بیان کردہ اقوال کی دلاتوں کی جہتیں بڑی وسیع ہوتی ہیں، اس لیے ان کے سمجھنے میں لوگ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دلالت نص سے عام معنی مراد لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے خاص مفہوم مراد ہوتا ہے، اور کبھی کوئی شخص اس سے خاص معنی مراد لیتا ہے، حالانکہ اس کا مفہوم عموم کا متقاضی ہوتا ہے۔

(۷) ساتواں سبب دلالت النص کی جہت کو پہچاننا ہے، مثلاً ایک شخص دلالت النص کی جہت کو تو پہچانتا ہے، لیکن وہ اُسے صحیح نہیں سمجھتا، کیوں کہ اس کے اپنے متعین کردہ کچھ اصول ہوتے ہیں جو دلالت النص سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، خواہ نفس الامر میں وہ اصول صحیح ہوں یا غلط ہوں، مثلاً ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ عام مخصوص منہ البعض جہت نہیں ہے، یا مفہوم مخالف جہت نہیں ہے، یا کسی سبب پر وارد ہونے والا عموم اس سبب کے لیے ناکافی ہے، یا تکرار وغیرہ سے خالی امر و وجوب کا مقتضی نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ معرف باللام میں عموم نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا ان چیزوں کے پیش نظر بہت سی جگہوں پر جہاں عموم مراد لیا جاتا ہے، ایسا شخص عموم کا قائل نہیں ہوتا۔

(۸) آٹھواں سبب یہ ہے کہ کوئی شخص دلالت النص کے معارض ایک دوسری چیز کو پیش کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ یہاں دلالت النص سے سمجھا جانے والا مفہوم مراد نہیں ہے، جیسے عام کا خاص کا ذریعے معارضہ کرنا، یا مطلق کا مقید سے معارضہ کرنا، یا امر مطلق کا اس چیز سے معارضہ کرنا جس سے وجوب کی نفی ہوتی ہو وغیرہ وغیرہ۔

(۹) نواں سبب اس بات کا اعتقاد ہے کہ کوئی حدیث کسی ایسی چیز سے معارض ہے جو حدیث کے ضعیف ہونے یا اس کے منسوخ ہونے، یا اس میں تاویل کیے جانے کی غمازی کرتی ہے، مثلاً ایک حدیث کے معارض کوئی آیت ہے یا کوئی دوسری حدیث ہے، یا اجماع وغیرہ ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں

[۱] وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ معارض فی الجملہ راجح ہے، لہذا آیت یا حدیث یا اجماع میں سے لاعلیٰ التعین کسی ایک کو متعین کر دیتا ہے۔

[۲] اور کبھی تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو متعین کرتا ہے، چاہے وہ معارض کو ناسخ سمجھے یا مؤول سمجھے لیکن کبھی کبھی وہ ناسخ اور منسوخ میں غلطی کر جاتا ہے، چنانچہ متاخر لفظ بعد والی روایت کو پہلے سمجھ بیٹھتا ہے، اور متقدم کو متاخر کر دیتا ہے، اسی طرح تاویل کرنے میں بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، اور وہ حدیث پاک کو ایسی چیز پر محمول کرتا ہے، حدیث کا ظاہر لفظ جس کا احتمال نہیں رکھتا۔

(۱۰) دسواں سبب یہ ہے کہ کبھی کوئی شخص کسی حدیث کو ایسی چیز سے ضعیف یا منسوخ قرار دیتا ہے یا ایسے طریقے سے اس میں تاویل کرتا ہے جو درحقیقت معارض نہیں ہوتی، جیسے بہت سے کوفیوں نے ظاہر قرآن سے حدیث صحیح کا معارضہ کیا، اور یہ سمجھ

بیٹھے کہ قرآن کا ظاہری مفہوم خواہ وہ عام ہو یا خاص، ہر حال میں نص حدیث پر مقدم ہوتا ہے، حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ (۱۱) گیارہواں سبب یہ ہے کہ کبھی کسی امام کو کوئی حدیث پہنچتی ہے، لیکن وہ منسوخ ہوتی ہے اور اس امام کو ناخ کا علم نہیں ہوتا، چنانچہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اس کا مفہوم بھی متعین ہوتا ہے، لیکن منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ ناقابل استدلال ہوتی ہے، اور یہ امام ناخ کو نہ جاننے کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال کر بیٹھتا ہے، جب کہ ناخ کو جاننے والے دوسرے ائمہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے، اور اس طرح ان کے مابین اختلاف کی بیج جنم لے لیتی ہے۔

مثلاً اسلام کے ابتدائی زمانے میں رکوع کرتے وقت مصلیٰ کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور مصلیٰ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ یہ وہ اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے نظریاتی اختلافات رونما ہوئے ہیں، اس لیے ہدایہ کے معلمین و متعلمین سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان اسباب کا بغور مطالعہ کریں، تاکہ حضرات ائمہ کے مابین پیش آمدہ اختلافات کی حقیقت ان کی نگاہوں کے سامنے آجائے اور وہ اسے کسی بھی طرح کے تعصب یا عناد یا حسد پر محمول نہ کریں۔

یہ تمام تفصیلات رد المحتار علی الدر المختار کے مقدمے سے ماخوذ ہیں۔ (جلد ۱: از صفحہ ۲۱۵ تا ۲۲۰)

## حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف روایات کی وجوہات

علامہ شامی علیہ الرحمہ نے رسم المستیٰ میں امام ابو بکر البلیغی کے حوالے سے حضرت الامام علیہ الرحمہ سے اختلاف روایات کی متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں:

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ سننے والے سے سماعت میں غلطی ہو، مثلاً جب امام صاحب سے کسی مسئلے کے متعلق دریافت کیا گیا اور آپ نے حرف نئی کے ذریعے لایجوز کہہ کر جواب دیا، لیکن سننے والا صحیح طریقے سے اسے نہ سنا اور وہ لایجوز کے بجائے یجوز سمجھ بیٹھا، اور اسی کو بعد میں نقل کر دیا۔

(۲) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت الامام نے اپنے کسی قول سے رجوع فرما لیا ہو اور جو لوگ مستقل آپ کے پاس آنے جانے والے ہوں انھیں اس رجوع کا علم ہو، چنانچہ وہ لوگ تو قول مرجوع کو بیان کریں لیکن جو لوگ حضرت الامام کے رجوع سے واقف نہ ہوں، وہ پہلے ہی قول کو بیان کریں۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت الامام نے ایک مسئلے کو قیاس کے نقطہ نظر سے بیان کیا، اور دوسرے کو استحسان کے نقطہ نظر سے، اب حاضرین میں سے کوئی شخص استحسان والے مسئلے کو قیاس والے مسئلے کے نقطہ نظر سے بیان کرتا ہے اور قیاس والے مسئلے کو استحسان والے نقطہ نظر سے بیان کرتا ہے اور اس طرح اختلاف کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک مسئلہ میں دو طرح سے جواب مذکور ہوتا ہے، (۱) حکم کے اعتبار سے (۲) احتیاط کے اعتبار سے۔ لیکن سننے والے مطلق نقل کرتے ہیں اور من جہہ الحکم یا من جہہ الاحتیاط کی قید وغیرہ نہیں لگاتے، اس وجہ سے بھی روایت میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ (رم المستیٰ ص ۹۶، ۹۷)

## فقہ حنفی کی کتابوں کے درجات

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسم المفتی میں مسلک حنفی کے مسائل کو تین طرح کی کتابوں میں منحصر قرار دیا ہے۔

(۱) وہ مسائل ہیں جنہیں اصول اور ظاہر الروایہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو اصحاب مذہب یعنی حضرت امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، ظاہر الروایہ یا مسائل الاصول ان مسائل کو کہتے ہیں جو امام محمد رضی اللہ عنہ کی لاجواب تصنیفات میں مذکور ہیں، مثلاً مبسوط، زیادات، جامع صغیر، سیر صغیر اور سیر کبیر وغیرہ کے مسائل، انہیں ظاہر الروایہ سے موسوم کرنے کی وجہ ہے کہ یہ مسائل حضرت امام محمد سے ثقہ راویوں کے ذریعے مروی ہیں۔ اور چونکہ فقہ حنفی میں فتویٰ اور اجتہاد کے حوالے سے ان کتابوں کو ماخذ اور مراجع کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے انہیں اصول کہا جاتا ہے۔

(۲) ان کتابوں کے مسائل ہیں جو ماقبل میں مذکور اصحاب مذہب سے مروی ہیں، لیکن یہ مسائل امام محمد کی تصنیف کردہ ان چھ کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں کے مسائل ہیں، جیسے امام محمد کی کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات اور رقیات یا ان کے علاوہ دوسرے مصنفین کی کتابوں کے مسائل ہوں جیسے حسن ابن زیاد وغیرہ کی کتابیں اور ان کتابوں کو نواد کہا جاتا ہے۔ انہی اقسام میں سے امام ابو یوسف کی کتاب الامالی بھی ہے یعنی جو مسائل حضرت امام ابو یوسف نے اپنے تلامذہ کو املاء کرایا تھا ان کے تلامذہ نے بعد میں ان مسائل کو کتابی شکل میں جمع فرمادیا۔

(۳) تیسرا درجہ ان مسائل کا ہے جنہیں فتاویٰ اور واقعات کہا جاتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جنہیں بعد کے مجتہدین نے مستنبط کیا ہے، ان حضرات سے جب کسی مسئلے یا واقعے کے متعلق شرعی حکم معلوم کیا جاتا اور متقدمین اہل مذہب سے اس سلسلے میں انہیں کوئی صراحت نہیں مل پاتی تو یہ حضرات اجتہاد کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب دیا کرتے تھے، ان متاخرین میں حضرات صاحبین کے تلامذہ اور ان کے بعد کے فقہاء ہیں، جیسے عصام ابن یوسف، ابن رستم، محمد ابن ساعد، ابوسلیمان جوزجانی، ابوحنیفہ بخاری، اور محمد ابن سلمہ وغیرہ۔

سب سے پہلے ان حضرات کے فتاویٰ کو جمع کرنے کا کام فقیہ ابواللیث سمرقندی نے انجام دیا، اور النوازل کے نام سے فتاویٰ کا ایک ضخیم مجموعہ تیار کیا۔ اور اس کے بعد ترتیب فتاویٰ کا سلسلہ جاری ہوا جو اللہ کے فضل و کرم سے تاحال جاری و ساری ہے۔ فتاویٰ شامی کے مقدمے میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جہاں یا جماع الأئمة الأربعة کا جملہ آتا ہے، اس سے فقہ کے یہ چاروں امام مراد ہوتے ہیں (۱) حضرت امام ابوحنیفہ (۲) حضرت امام مالک (۳) حضرت امام شافعی (۴) حضرت امام احمد۔

اور جہاں ائمہ ثلاثہ کا لفظ آتا ہے وہاں اس سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل مراد ہوتے ہیں اور جس جگہ عند علمائنا الثلاثة کا جملہ آتا ہے، اس سے فقہ حنفی کے تینوں بڑے امام یعنی حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد مراد ہوتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے وصف سے حضرت امام ابوحنیفہ، شیخین کے وصف سے حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف اور طرفین سے حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام محمد اور صاحبین سے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد مراد ہیں۔ (۴۳۱)

## فقہ اسلامی کے چار بڑے امام

### ✽ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، نعمان بن ثابت بن زوطا بن ماہ، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ کے جد امجد زوطا کا بل یا باہل کے باشندے تھے اور بنی تیم اللہ کے غلام تھے اور بعد میں آزاد کر دیئے گئے، اسی لیے ولاء کی نسبت سے آپ کو تیمی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ثابت بن زوطا فارسی تھے، اسی لیے مورخین نے آپ کو فارسی النسب قرار دیا ہے۔

بیشتر محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت الامامؒ نے ۸۰ھ میں سرزمین کوفہ میں آنکھیں کھولیں، اس اعتبار سے شہر کوفہ ہی آپ کا مولد اور آپ کی اولین درسگاہ ہے، اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ حرین شریفین کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور حضرت علیؑ کے کوفہ میں سکونت اختیار کر لینے کی وجہ سے کوفہ علم و فضل کا مرکز، رشد و ہدایت کا محور، فقہ و فتاویٰ کا منبع اور علماء و فقہاء کا سرچشمہ ہو گیا تھا، اس لیے حضرت امامؒ کو جی بھر کے کوفہ نے سیراب کیا اور آپ نے بھی اپنی آتش شوق کو اس قدر پروان چڑھایا کہ کوفہ کے مے خانے آپ کی بلانوشی اور سرمستی کی داد دینے پر مجبور ہو گئے۔

مورخین نے لکھا ہے کہ عہد طفولیت میں آپ کے والد آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، اور ان سے دعا کی درخواست کی، اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے دو سال کی قلیل مدت میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا اور آپ کی کل عمر اس وقت آٹھ سال تھی۔ پھر اس کے بعد دو سال کے عرصے میں آپ نے علم نحو اور علم ادب کی تکمیل کی اور جب سن شعور کو پہنچے تو پورا عراق مختلف طرح کے ادیان و مذاہب سے بھرا ہوا تھا، جس میں نصرانی بھی تھے، شیعہ اور خارجی بھی تھے اور علوم صحابہ کے حامل تابعی بھی تھے، اس لیے حضرت الامامؒ نے مختلف مکاتب اور مذاہب میں فرق اور امتیاز کرنے کی غرض سے علم کلام کو اپنی تحصیل و تحقیق کا موضوع بنایا اور پورے پانچ سال تک اس علم کی تحصیل میں مشغول و منہمک رہے، یہاں تک کہ علم کلام میں آپ نے کامل دست گاہ حاصل کر لی۔

مناقب صدر الاممہ میں خود حضرت الامامؒ کی زبانی علم کلام کی کہانی ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے ”فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام میں کافی دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عمر عزیز کا ایک گراں قدر حصہ اسی میں گذر چکا تھا، میں اس فن کی حمایت اور مدافعت میں لوگوں سے مناظرے کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ بصرہ جو اس زمانے میں مختلف مکاتب فکر کا گہوارہ تھا میں وہاں بیس سے زائد مرتبہ گیا اور خارجیوں سے بحث و مباحثہ کیا، لیکن پھر میرے ذہن و مزاج میں تبدیلی آئی، اور علم کلام کی اس درجہ دیوانگی پر میرا ضمیر مجھے کوسنے لگا اور یہ احساس دلانے لگا کہ حضرات صحابہ جن کے فضل و کرم اور جن کی محنت و جاہ نشانی کے طفیل ہم تک دین پہنچا ہے ان کی زندگیاں تو



مناظروں اور مجادلانہ شورشوں سے یکسر خالی رہیں، انھوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے کنارہ کش رکھا اور شرعی علوم ہی کو اپنی علمی جولان گاہ بنایا۔ اس احساس نے مجھے نئی سمت اور نئی فکر عطا کی اور میں نے علم کلام کو خیر آباد کہہ دیا۔

اس زمانے میں کوفہ میں امام شعمیؒ بقید حیات تھے، اور وہ علم کلام کے حوالے سے میری لیاقت و قابلیت اور اس میں پیدا شدہ مہارت کا تذکرہ سن چکے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن میں بازار جا رہا تھا اور ان کی دور رس نگاہ مجھ پر پڑ گئی، انھوں نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ میاں کہاں جا رہے ہو، میں نے جواب دیا کہ بازار جا رہا ہوں، انھوں نے پوچھا کہ علمی مشغلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ علماء کے پاس تو میں بہت کم جاتا ہوں، اس پر امام شعمیؒ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ اس سلسلے میں غفلت نہ کرو، مطالعہ کو لازم پکڑو اور اہل علم کی صحبت کو اپنے لیے ضروری خیال کرو۔ اس لیے کہ تمہاری شخصیت میں مجھے ہونہاری، بیدار مغزی اور بالغ نظری دکھائی دیتی ہے۔ حضرت الامامؒ فرماتے ہیں کہ محدث شعمیؒ کی یہ نصیحت میرے دل میں گھر کر گئی اور میں ہر کام سے کنارہ کش ہو کر تحصیل علم میں مشغول ہو گیا۔

نگاہیں کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی  
کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر

۱۰۲ھ میں آپ کوفہ کے مشہور محدث و فقیہ اور نامور استاذ حضرت امام حمادؒ کے حلقہ درس سے وابستہ ہوئے اور پورے اٹھارہ سال تک ان کی صحبت اور معیت میں رہے، امام صاحبؒ اپنی خداداد ذکاوت و ذہانت اور تحصیل علم کے بے پناہ ذوق و شوق میں ہمیشہ اپنے رفقائے درس سے ممتاز رہے، استاذ کی باتوں کو بغور سننا اور بعد میں انھیں یاد کرنا اور یاد رکھنا آپ کا خصوصی وصف اور طرہ امتیاز تھا، خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت الاستاذ مسائل بیان فرماتے تو میں پوری توجہ سے انھیں سنتا اور ان کو یاد رکھتا تھا، صبح کو جب استاذ محترم ان مسائل کا اعادہ کرتے تو من و عن میں ان مسائل کو سنا دیا کرتا تھا، جب کہ میرے دوسرے احباب اس سلسلے میں غلطی کر جاتے تھے۔ میری اس محنت سے استاذ محترم بہت متاثر ہوئے اور ایک مرتبہ تو انھوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دوران سبق ابوحنیفہؒ کے علاوہ کوئی اور میرے سامنے نہ بیٹھے۔

اس طرح تقریباً اٹھارہ سال تک حضرت الامام کوفہ کے سب سے بڑے علمی حلقے سے وابستہ رہے اور اس دوران مختلف علوم و فنون کے گنجینوں سے اپنے سینے کو معمور کیا، دبستان حماد کے ہر گل سے خوشہ چینی کی اور چمنستان علم کے ہر پھول سے رس نکالا اور اسے جی بھر کے چوسا اور جب کوفہ کے پھولوں سے آپ کا جی بھر گیا اور تشنگی دامن گیر ہونے لگی تو آپ نے حرمین شریفین کے لیے زحمت سفر باندھا، ویسے تو سب سے پہلا حج آپ نے ۹۶ھ میں کیا اور حج کے ساتھ ساتھ حرمین کے شریفین کے مشہور و معروف محدثین و فقہاء سے استفادے کا رابطہ برابر جاری رہا۔ اور غالباً اسی استفادے اور تحصیل علوم کے پیش نظر آپ ۹۶ھ سے تادم حیات ہر سال سفر حج پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کے علماء و مشائخ اور حضرات محدثین و فقہاء سے علمی مذاکرے کیا کرتے تھے۔

حضرت حمادؒ کی مشفقانہ تربیت اور آپ کی توجہ و عنایت نے حضرت الامام کے علوم فنون کو جلاء بخشی اور کوفہ کے کونے کونے میں آپ کے علمی تبحر اور آپ کی فقیہانہ شخصیت کا بے مثال تصور قائم ہو گیا، اور یہ تصور اس قدر عام اور تام ہوا کہ اللہ نے اسے حقیقت و واقعیت کا جامہ عطا کر دیا اور عوام و خواص دونوں حلقوں میں آپ مقبول و محبوب ہو گئے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ ایک

مرتبہ آپ عباسی حکومت کے سربراہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے یہاں گئے، اس وقت دربار میں عیسیٰ بن موسیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عیسیٰ نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا اے امیر المؤمنین ہذا عالم الدنیا الیوم یہ شخص آج پوری دنیا کے عالم ہیں، ابو منصور نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کن لوگوں کے علوم حاصل کیے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت ابن عباس، اور حضرت ابن مسعود کے علوم سے میرا سینہ معمور ہے، اس پر خلیفہ ابو منصور کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ آپ تو علم کی مضبوط چٹان پر کھڑے ہیں۔

### سلسلہ تدریس کا آغاز اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی:

تختِ حصولِ علوم سے فراغت کے بعد ۱۲۰ھ سے آپ نے تدریسی زندگی کا آغاز فرمایا، اور اس کا اصل سبب یہ ہوا کہ ۱۲۰ھ میں آپ کے محسن و مربی اور مشفق معلم حضرت امام حماد دار البقاء کو سدھار گئے تو اہل کوفہ نے اتفاق رائے سے آپ کو ان کا جانشین مقرر کیا اور کوفہ کی مسجد میں حضرت حماد کی مسند پر جلوہ گر کر دیا اور علم حدیث اور علم فقہ دونوں علوم کی درس و تدریس آپ سے متعلق کر دی گئی۔ اور حضرت حماد کی وفات کے بعد ایک بار پھر سے کوفہ کی مسجد میں علم کا بول بالا ہوا، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کوفہ طالبین و متعلمین کی کثرت سے پر ہو گئی، حضرت الامام کی درسی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کوفہ کی تمام درس گاہوں کے طلباء کھینچ کھینچ کر آپ کے حلقہٴ درس میں شامل ہو گئے اور بہت سی درس گاہوں کے طلباء اور اساتذہ دونوں کسب فیض کرنے مسجد کوفہ آ پہنچے، مورخین کی صراحت کے مطابق آپ کے حلقہٴ درس میں، مکہ، مدینہ، دمشق، بصرہ، واسط، موصل، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، نیشاپور، بخارا، سمرقند، اور مدائن وغیرہ جیسے دور دراز ملکوں اور علاقوں کے طلباء و علماء شریک ہوتے تھے اور آپ کے بیان کردہ علمی نکات و لطائف سے دامن مراد بھرتے اور پوری کرتے تھے۔

آپ کے تلامذہ میں سے مشہور محدثین و فقہاء جو ہمہ وقت حاضر باش رہتے تھے ان کی تعداد تقریباً ۹۱۸ ہے، رد المحتار میں طحطاوی علی الدر کے حوالے سے مذکور ہے کہ تدوین فقہ کے موقع پر ایک ہزار علماء و فقہاء آپ کے ساتھ تھے جن میں سے چالیس حضرات درجہٴ اہتمام پر فائز تھے۔ فقہ کے علاوہ علم حدیث میں آپ کو وہ امتیازی شان حاصل تھی کہ سلسلہٴ حدیث کے مقبول اور معتبر امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعے میری فریاد رسی نہ کرتا تو میں بھی عام آدمیوں کی طرح ایک آدمی ہوتا۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اگر میں بعض بے وقوفوں کی بات پر رہتا تو ابو حنیفہ کی ذات اور ان کے علوم و معارف سے محروم رہتا۔ اور طلب علم کی راہ میں میری ساری محنت و مشقت رائیگاں ہو جاتی اور لاکھوں روپیوں کے صرف پر پانی پھر جاتا۔

انھی عبداللہ بن مبارک کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ علم حدیث کی تحصیل میں انھوں نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا اور اس دوران لاکھوں روپے صرف کیے، لیکن جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو اخیر تک آپ سے جدا نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد قبر اطہر پر کھڑے ہو کر زار و قطار روتے ہوئے یہ کہنے لگے، کہ ابراہیم خنی مرتے وقت حضرت حماد کو اپنا نائب بنا گئے تھے، حضرت حماد اس دنیا سے جاتے جاتے آپ کو اپنا نائب بنا گئے، خدا آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے اپنا کوئی نائب اور خلیفہ نہیں چھوڑا۔

یہی وہ عبداللہ بن المبارک ہیں جنہوں نے حضرت الامامؑ کی شان اقدس میں درج ذیل قصائد کے ذریعے آپ کی مدح سرائی کی ہے

لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابوحنيفة  
بآثار وفقه في حديث كآثار الزبور على الصحيفة  
فما في المشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة

**ترجمہ:** امام المسلمین، امام اعظم رضی اللہ عنہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے تمام شہروں کو زینت بخش دی، اور شہروں میں زندگی گزارنے والوں پر احسان فرمایا، یعنی آثار وفقہ کی ایسی دلنشین تشریح فرمائی جیسا کہ صحیفے میں زبور کی آیات جڑی ہوئی ہوں، چنانچہ ان کمالات کے حوالے سے نہ تو مشرق میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی مغرب اور کوفہ میں آپ کا کوئی ہم پلہ دکھائی دیتا ہے۔

**امام اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی:**

امام اعظم علیہ الرحمہ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن علمی کمالات، مجتہدانہ صفات، قوت حافظہ کی کرامات، فقہ و فتاویٰ کے تجربات اور قیادت و سیادت کی نوازشات کی بھرمار ہوئی اس کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیشین گوئی کا بہت بڑا عمل دخل تھا، اور چونکہ یہ پیشین گوئی زبان رسالت سے صادر ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو اسے سچ کر دکھانا ہی تھا، چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذ نزلت علیہ سورة الجمعة فلما قرأ و آخرین منهم لما يلحقوا بهم، قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم ير اجمعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی سأله مرة أو مرتین أو ثلاثا، قال وفینا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء.

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی و آخرین منهم لمتا يلحقوا بهم حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی! یہ آخرین منهم سے کون مراد ہیں؟ جو ابھی تک ہم سے ملے نہیں، آپ خاموش رہے، مگر پوچھنے والے نے دوبارہ اور سہ بارہ یہی سوال دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ ارشاد فرمایا اگر ایمان ستاروں کی جھمکٹ اور آسمانی کہکشاں میں بھی ہوگا تو ان کے کچھ آدمی اسے حاصل کر لیں گے۔

حافظ ابن حجر مکی نے جلال الدین سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث سے امام اعظم رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں، کیوں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی بھی امام کے علمی مقام اور فقہی قدر و منزلت کو نہیں پہنچ سکا تھا، اور آپ تو آپ، بل کہ آپ کے تلامذہ کا بھی کوئی ہم پلہ نہ ہوسکا۔

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ ہی اس کے مصداق ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے علم فقہ کی اشاعت کرائی، ان کے ذریعہ اہل اسلام کی اصلاح فرمائی، اور بالخصوص اس دور میں تو صرف یہ

بات ہی کافی ہے کہ تمام شہروں میں حنفی بادشاہ ہیں، حنفی قاضی ہیں، اور حنفی مدرسین ہیں۔

### شرف تابعیت:

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ تابعی ہیں، اور جلیل القدر تابعی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کوفہ کا کوئی صحابی اور تابعی ایسا نہیں چھوڑا جس سے ملاقات اور کسب فیض نہ کیا ہو، علامہ خوارزمی فرماتے ہیں کہ اتفاق العلماء علیٰ أنه روی عن أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنہم اختلفوا فی عددہم یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے صحابہ کرام سے روایات نقل کی ہیں، لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں امام صاحب نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے، جن میں عبداللہ بن ابی اوفی اور حضرت انس بن مالک سرفہرست ہیں۔

علامہ ابن حجر کئی نے لکھا ہے أدرك الامام الأعظم ثمانية من الصحابة یعنی امام اعظم علیہ الرحمہ نے آٹھ صحابہ سے ملاقات کی ہے۔

### حضرت الامام کا ورع و تقویٰ:

اس میں کوئی شک نہیں کہ علم ایک خداداد دولت ہے اور یہ دولت اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب صاحب علم اس دولت کی قدر کرے، اسے زلیغ و ضلال سے محفوظ رکھے اور اس کی تعمیر و ترقی کی خاطر ہمہ وقت کوشاں اور فکر مند رہے اور سب سے بڑا اہتمام یہ کرے کہ اس علم کے مطابق زندگی جینا شروع کر دے اور اپنے دل میں خدا کا خوف، اس کی خشیت اور تقویٰ اور اللہیت کو موجزن کر لے۔ ذیل میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ کے چند پہلوؤں کو تحریر کی لڑی میں پرویا جا رہا ہے جن سے ہم جیسے بے راہ رو طالب علموں کو راہ حق پر چلنے کی نئی سمت عطا ہوگی اور اس بات کا بخوبی احساس ہو جائے گا کہ حضرت الامام کی علمی عظمت و فوقیت اور ان کی فقہی بزرگی و برتری میں ان کے اخلاص و اللہیت اور خدا کے خوف اور اس کی خشیت کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔

ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، اچانک اس آدمی نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈرو، اتنا سنتے ہی امام صاحب کا چہرہ زرد ہو گیا، آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور اس آدمی سے کہنے لگے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جس وقت کسی کو اپنے علم پر ناز ہونے لگے اس وقت وہ شخص اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اسے کوئی خدا کی یاد دلا دے۔

اسی طرح ایک مرتبہ کسی شخص کے گھر کے باہر دھوپ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اسمعیل بغدادی نے کہا کہ اگر آپ دھوپ چھوڑ کر اس گھر میں بیٹھ جاتے تو بہت اچھا تھا، اس پر آپ نے فرمایا کہ اس مکان مالک پر میرا کچھ قرض ہے اور میں اس کے گھر کے سایہ کو استعمال کرنا مکروہ سمجھتا ہوں، کیوں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ نفع کے تحت داخل نہ ہو جائے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کل قرض جر نفعا فہو ربوا۔

### امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علماء و فقہاء اور معاصرین کی آراء:

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔

شداد بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے زیادہ جاننے والا نہیں دیکھا۔

ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ابوحنیفہ لوگوں میں سب سے زیادہ نمازی تھے، بڑے امانت دار اور بہت بامروت انسان تھے۔

دکجن بن الجراح فرماتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔

احمد بن حرب نیشاپوری سے مروی ہے کہ ابوحنیفہ علماء کے بیچ میں ایسے تھے جیسے امراء کے بیچ میں خلیفہ۔

امام مالک فرماتے ہیں میں نے ایک شخص ایسا دیکھا ہے کہ اگر وہ غیر سونا کو سونا کہہ دے تو دلیل سے اسے سونا بنا ڈالے گا،

یعنی ابوحنیفہ علیہ الرحمہ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء علوم فقہ میں ابوحنیفہ کے بچے ہیں۔

نکی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ روئے زمین میں سب سے زیادہ عالم آدمی تھے۔

نصر بن شمیل سے منقول ہے کہ لوگوں کو فقہ کی کوئی خبر نہیں تھی، ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے انھیں فقہ سے روشناس کرایا۔

### جاہ و منصب سے اعراض:

ابن عساکر کا بیان ہے کہ حکومت بنی امیہ نے اپنے خزانے کی کنجیاں حضرت الامام کے سپرد کرنا چاہی اور ساتھ ہی ساتھ یہ اشارہ بھی دے دیا کہ عدم تعمیل کی صورت میں ان پر کوڑے بھی لگائے جاسکتے ہیں، لیکن حضرت الامام نے حکومت کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا اور حکومت کی مقرر کردہ سزا کو بسر و چشم قبول کر لیا۔

حکومت بنی امیہ کا سب سے ممتاز سیاست داں یزید بن عمر بن ہبیرہ تھا، اس نے حضرت الامام کی طرف دوستانہ تعلقات کا ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے تمہاری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم مجھے اپنا قرب عطا کرو گے تو فتنے میں مبتلا کرو گے اور اگر قرب کے بعد مجھے اپنے سے دور کرو گے تو خواجواہ کے غم میں مبتلا کرو گے، اس لیے مجھے تمہاری یہ پیش کش منظور نہیں ہے۔

ابن ہبیرہ نے تجویز مسترد کیے جانے کے بعد آپ کو گورنر کے بعد سب سے زیادہ با اختیار وزیر بنانے کی پیش کش کی اور یہ حکم دیا کہ گورنر کی سرکاری مہران کے حوالے کر دی جائے، تاکہ نہ تو ان کی مہر تصدیق کے بغیر کوئی فرمان جاری ہو سکے اور نہ ہی بیت المال سے کوئی چیز نکالی جاسکے۔ لیکن چونکہ زہد و غناء اور توکل و استغناء آپ کی رگ و پے میں پیوست ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے اس تجویز کو بھی نامنظور کر دیا۔

ابن ہبیرہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے آپ کو زود و کوب کرنے کی قسم کھالی، اس پر داؤد بن ابی ہند، ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلی وغیرہ جیسے بڑے فقہاء کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، عدم تعمیل کی صورت میں گورنر نے آپ کو زود و کوب کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، اس لیے خدارا اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالیں اور بادل ناخواستہ ہی اسے قبول فرمائیے، دیکھیے ہم آپ کے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق کو ناپسند کرنے کے باوجود بدرجہ مجبوری قبول کر رہے ہیں، خدارا آپ بھی قبول فرمائیں۔

لیکن ان کے سمجھانے بھجانے کا بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بدستور آپ اپنے انکار پر جسے رہے، اس پر ابن ہبیرہ نے پندرہ دنوں تک آپ کو جیل کی سلاخوں میں دھکیل دیا اور اس دوران اس عہدے کو قبول کرنے کے متعلق پیہم اصرار ہوتا رہا، اخیر میں تھک ہار کر گورنر نے آپ کو عہدہ قضاء کی پیش کش کی اور تمام جلا دوں کے سامنے آپ کو بلا کر یہ تجویز آپ کے سامنے رکھی، اور یہ کہا کہ اگر اس پیش کش کو ٹھکرایا گیا تو میں کوڑے لگوانے سے باز نہیں آؤں گا، بل کہ جان سے بھی ختم کرا سکتا ہوں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر گورنر کی گونج گرج کا کوئی اثر نہیں ہوا اور آپ نے یہ کہہ کر اسے بھی لات مار دیا کہ ”واللہ لا أفعّل ولو قتلنی“ بخدا میں اسے بھی قبول نہیں کروں گا، اگر چہ ابن ہبیرہ مجھے جان ہی سے کیوں نہ مار دے۔

اتنا سننا تھا کہ ابن ہبیرہ کو بھی طیش آ گیا اور اس نے جلا دوں سے آپ کے جسم اطہر پر کوڑے برسوا دیے، مورخین نے لکھا ہے کہ کوڑے لگنے کے بعد جب آپ کو جیل لے جایا جا رہا تھا تو آپ کے سر پر مار کے نشانات پڑے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ سو جا ہوا تھا۔

اس کے بعد پھر عباسیوں نے کھل کر حکومت بنو امیہ کی بغاوت شروع کر دی اور جب اس بغاوت اور مخالفت کے شعلے بھڑکنے اور طول پکڑنے لگے تو حضرت الامام کوفہ سے مکہ معظمہ چلے گئے اور ۱۳۰ھ تک تقریباً چھ سال تک وہاں قیام پذیر رہے۔ اس دوران بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور عباسی تخت نشین ہو گئے، چنانچہ حکومت عباسیہ کا پہلا معمار اور دولت عباسیہ کا پہلا حقیقی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوبارہ کوفہ پہنچنے کے بعد آپ سے دوستی اور مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا اور یہ مفاہمت اس درجہ کامیاب ثابت ہوئی کہ جب خلیفہ نے بغداد کی تعمیر وترقی کا آغاز کرایا تو حضرت الامام کو اینٹ وغیرہ کی نگرانی سپرد کی گئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہدایا اور تحائف آپ کی خدمت میں بھیجے گئے، یہ تعلقات بھی زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکے اور بہت جلد اس تعلقات میں کشیدگی درآئی۔

لیکن ۱۳۵ھ میں دوبارہ منصور نے حضرت الامام سے تعلق قائم کیا اور اس مرتبہ آپ کو کوفہ سے بغداد بلا کر قاضی القضاة یعنی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، اور اسے قبول کرانے کے لیے تن من دھن ہر چیز کی بازی لگا دی، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور دوراندیشی نے بہت جلد یہ بھانپ لیا کہ یہ عہدہ قبول کروا کے منصور انھیں اپنے قابو میں لینا چاہتا ہے، اور اس سے خلاصی کے صرف دو ہی راستے ہیں (۱) یا تو اس پیش کش کو قبول کر کے منصور کی ماتحتی میں آجائیں (۲) یا پھر اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کے خاتمہ کا خطرہ مول لیں۔

حضرت الامام نے اس صورت حال میں بھی اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے ایک ہزار تلامذہ کو جمع کر کے انھیں اپنی زندگی کی آخری وصیت و نصیحت کی۔

چنانچہ آپ نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں یہ فرمایا کہ میرے دل کی مسرتوں کا سارا سرمایہ صرف تم لوگوں کا وجود ہے، تمہاری ہستیوں میں میرے حزن و غم کے ازالے کی ضمانت پوشیدہ ہے، میں نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ لوگ تمہارے نقش پا کی جستجو کریں گے اور تمہارے ایک ایک لفظ کو تلاش کریں گے اور تمہارے ہر ہر قدم کو نمونہ عمل اور مشعل راہ بنائیں گے، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے لوگوں کی گردنوں کو جھکا کر ہموار کر دیا ہے۔

آپ نے مزید تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے میری اعانت کرنے کا وقت آچکا ہے، تم میں سے ہر ایک عہدہ قضا کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور دس آدمی تو ایسے ہیں جو صرف قاضی ہی نہیں، بل کہ قاضیوں کی تربیت و تہذیب کا کام بھی بخوبی انجام دے سکتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ علم کو محکوم ہونے کی ذلت سے بچائے رکھنا، اور کسی بھی حال میں غلط اور نامناسب فیصلہ نہ کرنا، اور نہ ہی کسی دباؤ کے سامنے شریعت کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنا۔

ایک ہزار تلافیہ کے عظیم مجمع کی اہمیت اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر نے ابو جعفر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جس طرح بھی بن پڑے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد بلا لیا جائے، چنانچہ عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس ابو جعفر کا یہ فرمان پہنچا کہ ابو حنیفہ کو سوار کر کے فوراً میرے پاس روانہ کر دو، عیسیٰ بن موسیٰ نے ابو جعفر کے حکم کی تعمیل میں حضرت الامام کو بغداد روانہ کر دیا، ابو جعفر کے دربار میں آپ کی پیشی ہوئی، اور ابو جعفر نے پھر عہدہ قضا کو قبول کرنے کی پیش کش کی، امام صاحب نے حسب سابق اس بار بھی انکار کر دیا اور یہ کہا مجھ میں قضا کی صلاحیت نہیں ہے، ابو جعفر نے کہا تمہارے اندر ہی میں تو قضا کی صلاحیت ہے، کچھ دیر تک اسی طرح سوال و جواب کا رد و بدل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ابو جعفر غضب ناک ہو گیا اور قسم کھا بیٹھا کہ ابو حنیفہ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت الامام نے بھی پوری بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ یہ قسم کھالی کہ میں اس عہدے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، اس پر ابو جعفر نے آپ کو برا بھلا کہا، اور تیس کوڑے رسید کر دیے، اس کے باوجود بھی جب ابو حنیفہ کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں آئی اور اس قدر ظلم و جور سہنے کے باوجود بھی آپ عہدہ قضا قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ابو جعفر نے آپ کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا، اور جیلر کو یہ فرمان جاری کیا کہ ابو حنیفہ پر سختی کی جائے اور ہر طرح انہیں ستایا جائے، چنانچہ ان ظالموں نے کھانے اور پینے میں نہایت سختی کر دی، قید و بند میں بھی ہر حدیں پار کر گئے، یہاں تک کہ بقول بعضے آپ کو زہر پلا دیا گیا۔

### روئے زمین کا آخری سجدہ:

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت (۷۰) ستر کے قریب پہنچ چکی تھی، ذہن و جسم جواب دے چکے تھے، جیل میں کھانے پینے کی نکالیف اور قید و بند کی صعوبتیں اس پر مستزاد تھیں، ابو جعفر کے ظلم و ستم نے بوڑھی ہڈیوں میں آخر کیا باقی چھوڑا تھا، جو زندگی کا ساتھ دیتا، چنانچہ موت کے آثار نظر آنے لگے اور موت ہی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت الامام کو بھی جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو بارگاہِ صمدیت میں آپ نے اپنی جبین نیاز کو خم کر دیا، سجدہ میں چلے گئے اور اسی حال میں اپنی جان جان آفریں کے قدموں میں نچھاور کر دی۔

اب کیا ستائیں گی ہمیں دوران کی گردشیں  
اب ہم حدود سوز و زیاں سے گذر گئے

### نماز جنازہ اور تدفین:

یہ ہجرت کا ۵۰ اوں سال تھا، شعبان، یا بقول بعض رجب، یا شوال کا مہینہ تھا، آپ کے صاحبزادے حضرت حماد بغداد پہنچ چکے تھے، شہر کے قاضی حسن بن عمارہ نے جب غسل دینے کے لیے آپ کے کپڑوں کو اتارنا تو جسم پر کوڑوں اور مجاہدات کے نشانات کو دیکھ کر رو پڑے، خود قاضی صاحب کا حال یہ تھا کہ نہلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، شہر میں کسی قسم کی اطلاع نہیں دی گئی

تھی، سب کچھ مخفی رکھا گیا تھا، چار پانچ آدمی جنازہ اٹھانے والے تھے، لیکن جب خراسانی دروازوں کے طاقوں سے جنازے کا گذر ہوا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے شہر میں بجلی دوڑا دی ہو، اور قریب کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے لوگوں کا ازدہام اور سیلاب امنڈ آیا تھا، ہر کوئی مغموم ورنجیدہ تھا، اور حضرت الامامؑ پر ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے غمگین اور کبیدہ تھا۔

ابورجاء الہروی کہتے ہیں لم یر باکیا اکثر من یومئذ میں نے آپ سے پہلے اتنے آدمیوں کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس طرح تقریباً ۵۰ ہزار سو گواروں نے غمگین دلوں اور نمناک آنکھوں سے آپ کو سپردِ خاک کر دیا، کسی شاعر نے درج ذیل قصائد کے ذریعے آپ کی حیات طیبہ پر مختصر روشنی ڈالی ہے۔

میرے امام علم فقہ کے ہیں رازداں	یعنی ابوحنیفہ ہیں علم فقہ کی جاں
دور صحابہ دیکھا ہوئے آپ تابعی	کہیے تو کچھ سناؤں میں احوال واقعی
علم فقہ کو آپ ہی لائے وجود میں	کھلکے ہیں آپ بارہا چشمِ حسود میں
علم فقہ کی نوک پلک کو دیا سنوار	علم فقہ پہ آپ کے احسان ہیں ہزار
اسی میں جب ہوئی تھی ولادت امام کی	کس کو خبر تھی آپ کے اونچے مقام کی
ایک سو پچاس میں ہوئی جب آپ کی وفات	تب وقتِ غسل کہنے لگے قاضی القضاة
رحمت ہو تم نے روزے رکھے تیس سال تک	سوئے نہیں تھے رات کو چالیس سال تک
کنیت ابوحنیفہ تھی نعمان نام تھا	دنیا کو جس پہ فخر وہ میرا امام تھا
حضرت ابوحنیفہ پہ رحمت تمام ہو	روح ابوحنیفہ کو میرا سلام ہو

## ❁ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام مالک ہے، والد کا نام انس ہے، دادا کا نام مالک ہے، پردادا کا نام ابو عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان بن غنیل بن عمرو بن الحارث ہے، آپ کی والدہ کا نام عالیہ بنت شریک الأزدیہ ہے، شیخ الاسلام نجمۃ الامۃ، ابو عبد اللہ اور امام دارالہجرۃ آپ کے القاب تھے۔ (سیر اعلام النبلاء ۲۸/۸) قول محقق کے مطابق ۹۳ھ مطابق ۷۱۲ء میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کے آباء و اجداد کا اصلی وطن یمن تھا، مگر آپ کے پردادا ابو عامر مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تھے اور یہیں آپ کی ولادت ہوئی۔

آپ کا گھرانہ شروع ہی سے علم دین کا دلدادہ تھا، اس لیے ہر اعتبار سے آپ کو پڑھنے اور کسب فیض کرنے کا پورا پورا موقعہ ملا، بقول علامہ زرقانی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نو سو سے زائد علما و مشائخ سے کسب فیض کیا جن میں شہاب زہری، یحییٰ بن سعید انصاری، ہشام بن عروہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خصوصی شاگرد حضرت نافع وغیرہ کے نام نامی اور اسائے گرامی قابل ذکر ہیں، ان میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ حضرت نافع سے استفادہ کیا اور مورخین کے بقول ان سے استفادے کی مدت بارہ سال ہے۔



اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظے کی زبردست نعمت سے نوازا تھا، خود آپ کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں جس چیز کو ایک مرتبہ سن لیتا پھر اسے کبھی نہیں بھولتا تھا، حتیٰ کہ ایک ہی دن میں متعدد اساتذہ کرام سے کئی کئی سوحدیشیں سنتا اور ان سب کو ازبر کیے رہتا تھا۔ حافظے کی قوت اور پھر تحصیل علوم میں جاں نشانی و محنت نے بیس سال ہی کی عمر میں آپ کو درس و تدریس کا اہل بنا دیا تھا اور اس نوعمری کے زمانے میں بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت عمر رسیدہ، آزمودہ اور تجربہ کار مدرس درس دے رہا ہے، اسی لیے حضرت نافع کے انتقال کے بعد جب مدینہ منورہ میں مسند حدیث کی جگہ خالی ہوگئی، تو لوگوں کی نگاہ انتخاب حضرت امام مالکؒ پر جاٹھری اور آپ ہی اپنے شیخ کے علمی وارث اور جانشین قرار دیے گئے اور نصف صدی سے زائد عرصے تک اس مسند کو رونق بخشتے رہے اور اس دوران آپ نے علماء، محدثین اور فقہاء کا ایک جم غفیر تیار کر دیا۔

### درس و تدریس کی امتیازی شان:

حضرت امام مالکؒ کے درس کا خصوصی وصف یہ تھا کہ آغاز درس سے پہلے آپ نہایت اہتمام سے اس کی تیاری کرتے تھے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھتے تھے اور درس گاہ کو معطر رکھتے تھے، اور جب حدیث پاک کی درس و تدریس کا موقع آتا تو غسل فرماتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور پورے اہتمام کے ساتھ مسند درس پر رونق افروز ہوتے تھے، نظافت اور صفائی کا یہ عالم تھا کہ تین دن میں صرف ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بار بار بیت الخلاء آنے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔

جب کہ ذاتی اور نجی زندگی کا یہ عالم تھا کہ اتنی شہرت و ناموری کے باوجود بقدر کفاف روزی ہی پر اکتفاء کرتے تھے، حتیٰ کہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد بھی اپنے لیے کوئی ذاتی مکان نہ بنوا سکے تھے، بل کہ تادم حیات حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مکان میں کرایے پر زندگی بسر کردی۔ (مقدمہ أوجز المسالک ۱۰۱/۱)

### رسول اور دیار رسول سے محبت:

امام مالک علیہ الرحمہ نبی اکرم ﷺ کی محبت میں مست اور آپ کے عشق سے سرشار تھے جس کی بین دلیل درس حدیث کے موقع پر آپ کا اہتمام اور حسن انتظام ہے، عبداللہ بن المبارک مشہور محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت الامامؒ کے حلقہ درس میں پہنچا، حدیث شریف کا درس ہو رہا تھا اور ایک بچھو آپ کو ڈنک مار رہا تھا، لیکن اشتغال بالحدیث کی وجہ سے آپ نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، البتہ جب بھی بچھو ڈنک مارتا، اس وقت امام کا چہرہ انور کچھ متغیر ہو جاتا تھا، اس بچھو نے دوران درس سولہ مرتبہ آپ کو ڈنک مارا، لیکن احترام حدیث کی وجہ سے آپ نے جنبش نہیں کی، جب درس ختم ہو گیا اور تمام لوگ چلے گئے تو میں نے چہرہ انور کے متغیر ہونے کا سبب معلوم کیا اس پر آپ نے یہ واقعہ سنایا جس طرح آپ کو ذت الرسول علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی، اسی طرح مدینہ الرسول سے بھی حد درجہ شغف اور لگاؤ تھا، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام مالکؒ کبھی بھی مدینہ میں سواری پر نہیں سوار ہوئے اور پوچھے جانے پر وجہ یہ بتائی کہ جس سرزمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مدفون ہے اس سرزمین میں سوار ہو کر چلنا بے ادبی ہے۔

مدینہ منورہ سے واپسی اور شیفتگی آپ کے اس طرز عمل سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک اس شہر مبارک کی جدائی ناقابل برداشت تھی، آپ کی یہ دیرینہ تمنا تھی کہ مدینہ طیبہ ہی میرا دفن ہو، اس لیے مدینہ سے باہر کہیں نکلتے ہی نہ تھے اور غالباً اسی اندیشے کی وجہ سے حج کے لیے بھی ایک دو بار ہی تشریف لے گئے تھے۔

### امام مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کے تلامذہ اور ہم عصروں کی رائے:

سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یوشک ان یضرب الناس اکباد الإبل فی طلب العلم فلا یجدون عالماً أعلم من عالم المدینة کے مصداق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور ابن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز سے علم اٹھ جاتا۔ ایک دوسرے موقع پر امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار ان لفظوں میں کیا ہے کہ علماء کی صف میں امام مالک رضی اللہ عنہ کو ستارے کی حیثیت حاصل ہے، جو میرے استاذ ہیں اور میں نے انھی سے علم حاصل کیا ہے۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور لیث بن سعد نہ ہوتے تو ہم لوگ گمراہ ہو جاتے۔

### امام مالک رضی اللہ عنہ کی تالیفات:

امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے قلم صداقت رقم سے کئی ایک کتابوں کو تحریر کا جامہ پہنایا ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں مؤطا کو جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی وہ دوسری کتابوں کے حصے میں نہ آسکی۔ مؤطا کے سلسلے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہے کہ روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد مؤطا مالک سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب رونما نہیں ہوئی، ابن عربی مالکی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مؤطا اصل اور مغز ہے اور بخاری شریف اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔

مؤطا کی تالیف کے سلسلے میں سب سے قابل اعتماد رائے یہ ہے کہ جب ۱۵۰ھ میں خلیفہ منصور بغداد کی تعمیر و تکمیل سے فارغ ہوا تو اس نے حضرت الامام سے ایک نفع بخش کتاب لکھنے کی درخواست کی اور صحت کلام اور درستگی روایات پر نظر رکھنے کے حوالے سے زور دیا، چنانچہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس کی درخواست پر یہ بے نظیر کتاب تالیف فرمائی۔

### وفات حسرت آیات:

مؤطا کی تالیف کے بعد بھی حضرت الامام کئی سالوں تک بقید نجات رہے، اس دوران خلیفہ منصور سے ان کے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے اور بعد میں اس حوالے سے معافی تلافی بھی ہو گئی۔ عمر عزیز کے تقریباً ۸۶ سال مکمل کرنے کے بعد ۱۱ یا ۱۳ ربیع الاول ۱۷۹ھ میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور جنت البقیع کے گہوارے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے محو خواب ہو گئے۔ فرحمہ اللہ رحمة واسعة۔

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں  
تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں

## ✽ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام نامی محمد ہے، ابو عبد اللہ کنیت ہے اور شافعی کے نام سے آپ کی شہرت ہے، سلسلہ نسب اس طرح ہے محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد بنید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی ثم المطلبی الشافعی المکی عبد مناف پر جا کر امام شافعی کا سلسلہ نسب نبی اکرم ﷺ سے مل جاتا ہے۔

### ولادت اور تعلیم:

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس سال اس عالم رنگ و بو سے علم و فضل کا ایک آفتاب ماہتاب (حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ) غروب ہوتا ہے، اسی سال، بل کہ بعض روایات کے مطابق اسی دن ایک دوسرا سورج طلوع ہوتا ہے اور بہت حد تک ڈوبے ہوئے سورج کی روشنی اپنے اندر سمیٹ کر واپس لے آتا ہے، مؤرخین کی صراحت کے مطابق حضرت امام شافعیؒ ۱۵۰ھ میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن عہد طفولیت ہی میں آپ کے سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھالیا گیا اور وصف یتیمی کے ساتھ آپ نے نشوونما پائی، آپ کا اصل مولد تو غزہ نامی جگہ ہے، جو مصر کی طرف سے ملک شام کے کنارے ایک شہر ہے، لیکن پیدائش کے بعد آپ کی والدہ آپ کو مکہ لے کر آگئیں اور یہاں کے نورانی ماحول میں آپ کی نشوونما ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حافظے کی بے پناہ دولت سے نوازا تھا، جس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آپ نے عمر کی دسویں دہائی تک پہنچتے پہنچتے مؤطا امام مالک کو مکمل ازبر کر لیا تھا، تحصیل علوم میں اس درجہ مشغول و منہمک تھے کہ پندرہ سال کی عمر میں جملہ علوم متداولہ سے فارغ ہو چکے تھے، ربیع بن سلیمان کا بیان ہے کہ امام شافعیؒ نے پندرہ سال کی عمر سے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا اور تاحیات شب زندہ داری کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔

ہر چند کہ پندرہ سال ہی کی عمر میں آپ درس و تدریس اور فقہ و فتاویٰ کے اہل ہو گئے تھے، مگر تحصیل علم کے حوالے سے پیدا شدہ عشق کی آگ آپ کو بے چین کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے شیوخ و محدثین سے استفادہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ، یمن اور بغداد کے چشمہ ہائے علوم سے اپنی علمی تشنگی کو بجھایا، خود امام شافعی کا اپنا بیان ہے کہ جب میں امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے اپنی خداداد فراست سے میری علمی صلاحیت کا اندازہ لگا لیا اور پھر مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ خدا سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کر لو اور ہر قسم کے گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی شان و شوکت سے نوازیں گے۔

### تدریسی زندگی کا آغاز:

امام شافعیؒ نے جب مدینہ، یمن اور بغداد کے شیوخ سے اپنے دامن مراد کو بھریا تو پھر مکہ معظمہ واپس آگئے اور چند سال قیام کرنے کے بعد بغداد ہوتے ہوئے مصر تشریف لے گئے اور مصر ہی میں تدریسی زندگی کا آغاز فرمایا، اور تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی برابر جاری رکھا اور دین کے اصول و فروع پر کل ملا کر ایک سو سے زائد کتابیں تحریر فرمائیں۔

اس طرح آپ کی عمر مبارک کا قیمتی حصہ مصر میں گذرا، اس دوران بے شمار طالبین نے آپ سے استفادہ کیا جن میں امام احمد

بن حنبل، یونس بن عبدالاعلیٰ، حرملة بن یحییٰ، ربیع بن سلیمان مرادی، ربیع بن سلیمان مزنی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ (تہذیب الکمال ۲۰۹۶)۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان و بیان کی فصاحت اور حلاوت و سلاست سے بھی بہرہ ور فرمایا تھا، چنانچہ حسن بن محمد بن صباح فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؒ سے زیادہ فصیح کوئی انسان نہیں دیکھا، یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مبدأ فیاض نے امام شافعیؒ کو گفتگو کی شیرینی، فصاحت و بلاغت کی چاشنی، ذہن و دماغ کی تازگی اور قلب و نظر کی بالیدگی ہر چیز دے رکھی ہے۔

امام شافعیؒ نے جس طرح اپنے علوم کو تقسیم کرنے اور تشکان علم و معرفت کو سیراب کرنے میں کبھی دریغ سے کام نہیں لیا، اسی طرح مال و دولت کی تقسیم میں بھی ہمیشہ فراخ دلی اور کشادہ قلبی سے کام لیا اور کبھی بھی بخل کو اپنے قریب پھکنے نہیں دیا۔ امام حمیدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعیؒ دس ہزار درہم لے کر یمن سے مکہ آرہے تھے، مکہ پہنچنے سے پہلے ایک خیمہ میں فروکش ہو گئے اور لوگوں میں وہ درہم تقسیم فرمانے لگے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھے جب تک کہ وہ درہم ختم نہ ہو گئے۔

آپ کے شاگرد ربیع فرماتے ہیں کہ جب میں نے نکاح کیا تو حضرت الامام نے مجھ سے مہر کی بابت دریافت کیا کہ کتنا مہر متعین کیا ہے، میں نے کہا ۳۰ دینار، پوچھنے لگے دیا کتنا ہے میں نے کہا ۶ دینار، چنانچہ حضرت الامام نے میرے پاس ایک تھیلی بھیجی جس میں مہر کے بقیہ دینار موجود تھے۔ (الانقاء ص ۱۵۰)

مگر افسوس کی صرف ۵۴ سال کی قلیل مدت میں موت نے آپ کو اپنا لیا اور علم و عمل جو دستا اور اخلاق و مروت کا یہ عظیم مینارہ رجب ۲۰۴ھ میں مصر کی خاک میں دفن ہو گیا۔

گیا ہنستا ہوا دنیا سے لب پر نام حق لے کر  
خدا شاہد بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں

## ✽ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام احمد ہے، والد کا نام حنبل اور آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے أحمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادریس بن عبد اللہ بن حبان بن عبد اللہ بن انس بن عوف بن قاسط الذہلی الشیبانی المروزی ثم البغدادی۔

### ولادت:

اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ ۱۶۴ھ میں یمن میں ربیع الاول کو شہر بغداد میں آپ کی ولادت ہوئی، جب کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی ولادت مذکورہ تاریخ میں ”مرؤ“ میں ہوئی اور اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو بغداد لے آئیں۔ ابھی عمر عزیز کی تین بہاریں ہی گزرنے پائی تھیں کہ آپ سایہ پردی سے محروم ہو گئے اور آپ کی تربیت، تعلیم اور نگہداشت وغیرہ کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ کے کاندھوں پر آ پڑی۔

چوں کہ بغداد ہی میں آپ کی نشوونما ہوئی، اس لیے آپ کو تعلیم و تعلم کے بے پناہ ذرائع ہم دست ہوئے، کیوں کہ بغداد کو خلافت عباسیہ کے دور میں علوم و فنون کے حوالے سے مرکزیت حاصل تھی اور بقول حاکم نیشاپوری شہر بغداد بہت زمانے تک مدینۃ العلم رہا ہے۔ چنانچہ حضرت الامام نے اس شہر کے ہر کونے اور ہر گوشے سے کسب فیض کیا اور جب بغداد کے اطراف و اکناف اور وہاں کے شیوخ و مشائخ آپ کی علمی تشنگی کو نہ بجھا سکے تو پھر آپ نے کوفہ، بصرہ، شام اور یمن ہوتے ہوئے حرمین شریفین تک جتنے بھی علوم کے مراکز و مدارس تھے ان سب مقامات سے اپنی علمی پیاس کو آسودگی عطا کی اور مختلف علوم و فنون سے فارغ ہو کر ۱۸۰ھ میں علوم حدیث کی تعلیم و تکمیل میں منہمک ہو گئے، اس دوران آپ نے جن اساتذہ سے کسب فیض کیا ان میں امام ابو یوسف، بشر بن کفصل، اسماعیل بن علیہ، سفیان بن عیینہ، جریر بن عبد الحمید، یحییٰ بن سعید القطان، اور امام شافعیؒ وغیرہم قابل ذکر ہیں۔

خود ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث کا علم مجھے امام ابو یوسفؒ کی خدمت میں رہ کر حاصل ہوا۔ ۱۸۰ھ میں امام احمدؒ نے حجاز کا سفر کیا اور اس سفر میں وہاں کے نامور عالم، بل کہ علامہ حضرت امام شافعیؒ سے ملاقات ہوئی، پہلی ہی ملاقات میں حضرت الامام کو امام شافعیؒ کی علمی شخصیت نے اس قدر متاثر کیا کہ دوبارہ جب بغداد میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد سے امام شافعیؒ کی آخری سانس تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔

امام احمدؒ اپنے اس شیخ اور پیر کے علمی کمالات اور فقہی اوصاف کے حد درجہ مقرر اور معترف تھے، چنانچہ امام شافعیؒ کے احوال میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام احمدؒ رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں امام شافعیؒ رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں اور غالباً امام شافعیؒ پر وارفتگی اور شینگی کی بنیاد بھی یہی تھی۔

اور جیسا کہ سنا اور کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی تو یہ مثل ان دونوں استاذ شاگروں پر آج سے بہت پہلے ہی فٹ آچکی تھی، کیوں کہ اگر ایک طرف امام احمدؒ امام شافعیؒ کے قدردان اور ان کے علوم و معارف کا زندہ نشان تھے تو دوسری طرف امام احمدؒ بھی امام شافعیؒ کے منظور نظر اور ان کی نگاہ ناز اور عنایت خاص سے بہرہ ور تھے، جس کا اندازہ امام شافعیؒ کے اس فرمان سے ہوتا ہے، خرجت من بغداد وما ترکت فیہا أحفظ ولا أئبث ولا أعلم من أحمد بن حنبل۔ (تاریخ بغداد ۴/۴۲۱)

### تدریسی دور:

یوں تو دربار خداوندی سے امام احمدؒ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کے دینی علوم و فنون وافر مقدار میں عطا کیے گئے تھے، لیکن ان کی زندگی اور زندگی کے ہر گوشے میں علوم حدیث کا رنگ غالب تھا، حدیث کے متعلق جو بات بھی ان تک پہنچتی اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے اور حتی الامکان اس پر ہمیشگی بھی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ جب انھیں یہ حدیث پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچکچہ لگوا یا تھا اور حجام کو ایک درہم عنایت فرمایا تھا تو امام احمدؒ نے بھی ہچکچہ لگوا یا اور حجام کو ایک درہم عنایت فرمایا۔

حدیث پاک سے عقیدت و محبت کا ہی ثمرہ تھا کہ ۲۰۴ھ سے امام احمدؒ نے باضابطہ حدیث کا درس دینا شروع کیا اور دوران درس اس طرح کے قیمتی موتے پرتے اور احادیث کو اس طرح مست اور مگن ہو کر پڑھاتے تھے کہ طوالت وقت کے باوجود سامعین

ہل من مزید کی رٹ لگائے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے درس حدیث کو اتنا ممتاز اور پراثر بنایا تھا کہ ایک ایک سبق میں پانچ پانچ ہزار طلباء آپ سے حدیث پڑھتے تھے جن میں پانچ سو کے قریب تو صرف لکھنے والے ہوتے تھے۔

### امام احمد معاصرین کی نگاہ میں:

اللہ نے علوم و معارف میں آپ کو اس مقام پر فائز کر دیا تھا جو ہر طالب علم کی آخری خواہش اور اس کے طلب کی نہائی منزل ہوا کرتی ہے، جس زمانے میں آپ نے علوم و فنون کے حوالے سے شہرت پائی وہ زمانہ علماء اور ائمہ سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اس درجہ کی شہرت و رفعت اور مقبولیت و محبوبیت حاصل کر لینا عقل و فہم سے ماوراء ہے، لیکن یہ کوئی افسانہ نہیں بل کہ حقیقت ہے اور ایک مسلم حقیقت ہے۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علم چار لوگوں پر منتہی ہو گیا تھا (۱) امام احمد بن حنبلؒ پر (۲) علی بن مدینی پر

(۳) یحییٰ بن معین پر (۴) ابو بکر بن شیبہ پر۔

قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل امام الدنیا۔

نصر بن علی کا اعتقاد یہ تھا کان احمد بن حنبل افضل اہل زمانہ

### سفر آخرت:

امام احمد رضی اللہ عنہ نے کل ۷۷ سال کی عمر پائی۔ اور موت سے پہلے تقریباً ۱۹ دنوں تک بستر علالت پر موت سے بیچہ آزمائی کرتے رہے، لیکن تقدیر کا لکھنا غالب آ گیا اور تدبیر نے ہر طرح سے دم توڑ دیا حتیٰ کہ ۱۲ ربیع الاول ۲۴۱ھ کو جمعہ کے دن حضرات ائمہ کی یہ آخری کڑی بھی محو خواب ہو گئی اور ائمہ اربعہ کی چو کڑی والی آخری لڑی کو بھی زمین ہضم کر گئی۔ اور اس طرح ائمہ کا آخری سورج یہ کہتے ہوئے مالک حقیقی سے جا ملا کہ

سورج ہوں زندگی کی رمت چھوڑ جاؤں گا

میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا

اللہم ارحم علیہ و ادخلہ فسیح جنانہ

## حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام یعقوب ہے، کنیت ابو یوسف ہے اور سلسلہ نسب یہ ہے یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن خنیس بن سعد بن بجیر، بن معاویۃ الأنصاری الکوفی۔

### ولادت:

علم و عرفان کی سر زمین کوفہ میں ۱۱۳ھ مطابق ۷۳۱ء میں آپ کی ولادت ہوئی اور یہیں آپ پلے بڑھے، آپ کے والد ایک غریب انسان تھے اور محنت و مزدوری کر کے گذر بسر کرتے تھے، والد کی محنت و مزدوری ہی زندگی کی پونجی اور اصلی سرمایہ تھی، اور شاید اللہ کو یہ بھی منظور نہیں تھا، اسی لیے امام ابو یوسفؒ کی صغرتی ہی میں آپ کے والد بھی داغ مفارقت دے کر چلے گئے اور امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔

### تعلیمی زندگی کا آغاز:

خود امام ابو یوسفؒ کا اپنا بیان یہ ہے کہ میرے بچپن ہی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہم لوگ تنگی معاش سے دوچار اور گردش ایام سے بے زار تھے، اس لیے والدہ محترمہ کا مجھے کسی کام کی طرف متوجہ کرنا عین فطرت کے مطابق تھا، چنانچہ جب میں کچھ کر سکنے کے لائق ہوا تو وہ مجھے لے کر ایک دھوبی کے پاس گئیں اور وہیں چھوڑ دیا، اس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے علم و معرفت کا ستارہ عروج پر تھا، ہر چہار جانب آپ کی فقہی بصیرت اور مجتہدانہ صلاحیت کا چرچا تھا اور آپ کا حلقہ درس واردین و صادرین کے ہجوم سے پناہوار ہوتا تھا، چنانچہ جب بھی میں دھوبی کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو حضرت الامام کے حلقہ درس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، کسی طرح میری والدہ کو اس کی اطلاع ہو گئی اس پر وہ میرا پیچھا کرنے لگیں اور جب بھی میں درس میں جا کر بیٹھتا میری والدہ مجھے وہاں سے پکڑ کر لے جاتیں اور دھوبی کے پاس چھوڑ آتیں، لیکن حضرت الامام کی عقیدت و محبت اور ان کے درس میں حاضر باش رہنے کی اہمیت پہلے ہی دن سے میرے دل میں گھر کر گئی تھی، اس لیے اس دھوبی کے پاس میں نکلتا ہی نہیں تھا اور جیسے ہی مجھے کوئی موقع ملتا میں حاضر درس ہو جایا کرتا تھا، میری والدہ جب میری اس حرکت سے پریشان ہو گئیں تو بالآخر ایک دن انھوں نے لب سکوت کو توڑ ہی دیا اور حضرت امام اعظمؒ سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی گذر بسر کا کوئی انتظام نہیں ہے اور آپ نے نہ جانے کیا اسے گھول کر پلا دیا ہے کہ یہ کہیں نکلتا ہی نہیں ہے۔

اس پر حضرت الامام نے فرمایا کہ اس کی فکر نہ کریں، اسے اس کے حال پر رہنے دیں، یہ بچہ علم حاصل کرے گا اور دنیا کی عظیم سے عظیم نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ لگتا ہے بڑھاپا آپ پر بھی اثر انداز ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔

بہر حال اس واقعے کے بعد سے دوچار دن تک میں سبق میں نہیں آیا، مجھے غیر حاضر پا کر حضرت الامام نے میرے متعلق پوچھا اور پھر مجھے بلوا کر ایک تھیلی عنایت کی جس میں سو درہم موجود تھے اور مجھے یہ بھی فرمایا کہ جب ختم ہو جائے تو مجھ سے بتا دینا، لیکن پھر کبھی مجھے بتانے کی نوبت ہی نہ آئی اور ہمیشہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ مجھے ایک تھیلی تمھارا دیا کرتے تھے۔

## ذکاوت و ذہانت اور شوق علم:

اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کی نگاہ کو اتنا بصیرت افروز اور دور رس بنایا تھا کہ اس کی نظیر بعد میں خال خال ہی نظر آئی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پہلی ہی نگاہ میں حضرت امام ابو یوسفؒ کے چہرہ کو پڑھ لیا تھا اور ان کی ذکاوت و بیدار مغزی آپ پر منکشف ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت کا بارگراں اپنے کانڈھوں پر رکھ کر ان کی والدہ محترمہ کو اس سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا تھا۔ حضرت امام ابو یوسفؒ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت اور بلاء کی ذہانت و فطانت سے بھی نوازا تھا اور پھر حضرت امام اعظمؒ کی عنایت و تربیت نے اس میں مزید جلاء اور نکھار پیدا کر دیا تھا، خود حضرت الامام کو اپنے اس شاگرد پر بڑا ناز تھا۔

تخصیص علوم میں امام ابو یوسفؒ کے انہماک اور اشتغال کا یہ عالم تھا کہ شادی کے بعد بھی مستقل امام اعظم کی خدمت میں جے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لوگوں سے یہ کہلوا بھیجا کہ تم لوگ تجھیز و تکفین کر لو، میں نہیں آسکوں گا، کیوں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں آ گیا تو حضرت الامام کے علمی جواہر پاروں سے محروم ہو جاؤں گا اور اس طرح غمناک بغم کا مصداق بن جاؤں گا، کیوں کہ بیٹے کے انتقال کا غم ابھی بھی تازہ اور ہرا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ترک علوم کا غم اور اس کی حسرت بھی اپنے سینے میں جمع کروں۔

اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت امام ابو یوسف کی محنت و مشقت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور علوم و فنون کے اس مقام پر فائز کیا جو حضرت امام اعظم کے دیگر تلامذہ میں سے کسی کے حصے میں نہ آیا، آپ کی علمی شخصیت رفقاء و معاصرین کے لیے قابل رشک، علماء و محدثین کے لیے ذریعہ فخر اور طالبین دین کے لیے مشعل راہ اور نمونہ طلب تھی۔

آپ کی علمی صلاحیت و قابلیت کا اعتراف خود حضرت امام اعظمؒ کو اس درجہ تھا کہ ایک موقع پر آپ نے یوں فرمایا میں نے تیس ایسے تلامذہ کر دیے جن میں سے اٹھائیس قاضی بننے کے لائق ہیں، چھ مفتی قاضی دونوں کے اہل ہیں، جب کہ ان میں سے دو یعنی ابو یوسف اور زفر قاضیوں اور مفتیوں کی تادیب و اصلاح کی قابلیت رکھتے ہیں۔ طلحہ بن محمد کا بیان ہے کہ امام ابو یوسفؒ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ کے حامل تھے، فقہ و فتاویٰ اور مسائل قضاء میں انتہاء کو پہنچے ہوئے تھے اور ان کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مذہب ابوحنیفہ پر اصولی فقہ میں کتاب لکھنے اور مسائل کا املاء کرانے میں انھیں اولیت اور شرف سبقت حاصل ہے۔

## امام ابو یوسفؒ اور عہدہ قضا:

عہدہ قضا امام ابو یوسف کی زندگی کا سب سے زیادہ روشن اور تاب ناک پہلو ہے اور اس کی داستان یوں ہے کہ جب خلیفہ منصور امام ابوحنیفہؒ کے ذریعے قاضی القضاة کے عہدے کی قبولیت کے انکار سے عاجز آ گیا تو اس نے امام صاحبؒ کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچائیں حتیٰ کہ انھیں تکالیف کے نتیجے میں امام اعظم موت کی آغوش میں چلے گئے اور ابو منصور کو دین و شریعت سے ہٹ کر من مانی اور من چاہی کرنے کا ایک ظاہری موقع ہم دست ہو گیا، لیکن شاید وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ ابوحنیفہ جو آگ جلا کر گئے ہیں وہ اتنی تیز اور بھیانک ہو چکی ہے کہ فقہ حنفی کے بغیر عباسی حکومت کسی بھی طرح زندہ اور تابندہ و پابندہ نہیں رہ



سکتی، یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کی وفات کے بعد بھی یہ مشن آپ کے تلامذہ کے دلوں میں بالکل تروتازہ تھا اور اپنے قائد و مربی کی طرح آپ کے تلامذہ بھی اس مشن کی ترویج و ترقی کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار تھے، اور ہمہ وقت اس کے لیے فکر مند اور کوشاں رہا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منصور کے بعد ہارون رشید خلیفہ ہونے تک تقریباً ۲۲ علاقوں کے محکمہ ہائے عدالت میں حنفی قاضی قابض ہو گئے تھے اور امام ابوحنیفہؒ کی انقلابی سیاست کے دور رس نتائج و ثمرات اس درجہ عام اور تام ہو چکے تھے کہ عباسیوں کی ظالم و جابر حکومت بھی سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔

بالآخر جب ہارون رشید کو یہ یقین ہو گیا کہ فقہ حنفی کو قانونی حیثیت دیے بغیر حکومت تاراج ہو جائے گی تو اس نے امام ابو یوسفؒ کو قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز کر ہی دیا اور اس طرح سے امام ابوحنیفہؒ کی تیار کردہ اسیکیم کام یاب ہو گئی اور ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی کو قاضی ابو یوسفؒ نے فائز المرام کر دکھایا۔

خود قاضی ابو یوسف جب حضرت الامام کی دوراندیشی کو سوچ لیتے تو آب دیدہ ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے ابوحنیفہؒ کتنے بابرکت آدمی تھے کہ انھوں نے ہی ہم پر دنیا اور آخرت دونوں کی راہیں کھول دیں۔

تو اس طرح امام ابو یوسف محکمہ عدلیہ کے مطلق العنان وزارت پر براہمان ہوئے اور مشرق سے لے کر مغرب تک کے علاقوں میں قاضیوں کے تقرر وغیرہ کا عمل دخل آپ کے قبضہ اختیار میں آ گیا۔ اور آپ پوری جاں نثاری اور اخلاص و ولہیت کے بھرپور جذبے کے ساتھ لوگوں کے مسائل اور ان کی مشکلات کے حل میں لگ گئے، یہاں تک کہ جب مخالفین نے ان کی ذمہ داریوں اور ان کے اختیارات کو دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئے اور ہارون رشید سے آ کر غلط بیانی کرنے لگے، ایک دفعہ ہارون رشید نے کہا خدا کی قسم علم کے جس باب میں بھی میں نے قاضی ابو یوسف کو جانچا اس میں کامل اور ماہر پایا، میں ان کے دین کو آلودگیوں سے پاک سمجھتا ہوں آخر ان جیسا کوئی آدمی ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اس اعتبار سے امام ابو یوسف فقہ حنفی کے سب سے پہلے رجسٹرڈ قاضی ہیں، اور اصول ابوحنیفہ کی ترتیب و تدوین کے بانی مہانی بھی ہیں۔

امام ابو یوسفؒ کے قاضی القضاۃ بننے کے بعد تو فقہ حنفی نے نیارنگ و روپ اختیار کر لیا، اس میں اتنی تراوٹ اور تازگی آ گئی کہ مشرق و مغرب تک اسے آئینی اور دستوری حیثیت حاصل ہو گئی اور چہار دانگ عالم میں بڑی تیزی اور روانی کے ساتھ اس کی ترویج اور اشاعت ہونے لگی اور ۵۳۰ سالوں تک فقہ حنفی ملک کے دستور کی حیثیت سے نافذ العمل رہا۔

خود امام ابو یوسفؒ نے ۱۶۶ھ سے ۱۸۲ھ تک تقریباً ۱۶ سالوں تک پورے انہماک اور لگن کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، بل کہ نمایاں رول ادا کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔

ہر چند کہ لوگوں پر حکومت عباسیہ کا رعب و دبدبہ قائم تھا اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کے بے جا ظلم و ستم کی وحشت و دہشت ہمہ وقت موجود رہتی تھی، لیکن قاضی ابو یوسفؒ نے کبھی بھی کسی معاملے میں حکومت کی نہ تو رعایت کی اور نہ کوئی پرواہ کی، بل کہ جسے حق سمجھا اس کے اظہار اور اس کے نفاذ میں ذرہ برابر تامل نہیں کیا اور پوری آزادی و بے باکی کے ساتھ اپنے مفوضہ امور انجام دیتے رہے۔ اور اس دوران عبادت و ریاضت اور ذکر و اذکار کا اہتمام و انتظام امور قضا اور مشغولیت قضا پر مستزاد تھا۔

محمد بن ساعد فرماتے ہیں کہ دن کو قضاء کے امور میں مشغول رہتے تھے، رات کو حدیث و فقہ کا درس دیتے تھے، اور پھر بھی

روزانہ دوسورکعات نوافل ادا کرتے تھے۔ اور صبح کو پھر ہشاش بشاش اور بالکل تازہ دم ہو کر مسند قضاء پر رونق افروز ہو جایا کرتے تھے، نہ معلوم یہ سکت اور قوت کہاں سے حاصل تھی اور کس طرح اتنے امور انجام دے لیا کرتے تھے، مگر یہ حرف بہ حرف درست اور صحیح ہے اور کذب و اشتباہ کے لیے اس میں پرمانے کی گنجائش نہیں ہے۔

اور جس طرح آپ کی پوری زندگی محنت و مجاہدہ سے لبریز تھی، اسی طرح آپ کا وداعی اور آخری وقت بھی علمی اشتغال و انہماک ہی میں گذرا، چنانچہ ابراہیم بن جراح فرماتے ہیں کہ میں مرض الموت میں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس وقت بھی علمی گفتگو چل رہی تھی، اسی دوران آپ پر غشی طاری ہو گئی اور جب افاقہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے لگے بتاؤ سوار ہو کر رمی جمار کرنا افضل ہے یا پیدل، میں نے کہا پیدل فرمایا غلط میں نے کہا سوار ہو کر اور یہ کہہ کر میں اٹھا اور دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ آپ کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی اور ملک و ملت کا ایک عظیم مسیحا، فقہ و فتاویٰ اور قضاء کا بے تاج بادشاہ، امام اعظم رضی اللہ عنہ کا دست راست، تشنگانِ علوم و معرفت کا دریائے رواں یعنی امت محمدیہ کا نیر تاباں ۵ ربیع الاول ۸۲ھ بروز جمعرات بوقت ظہر اپنی ابدی اور دائمی زندگی کے سفر پر روانہ ہو گیا اور کہنے والوں کو یہ کہنے پر مجبور کر گیا کہ

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی  
اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے

## امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام حسن ہے، دادا کا نام فرقد ہے، ابو عبد اللہ آپ کی کنیت ہے، ولاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شیبانی کہا جاتا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ آپ کے اجداد دمشق میں رہتے تھے، اور دمشق کے ”خزینا“ نامی گاؤں میں ان کی بود باش تھی، آپ کے والد وہاں سے عراق آگئے تھے اور ۱۳۲ھ میں مقام واسط میں آپ کی ولادت ہوئی اور کوفہ میں آپ کی پرورش و پرداخت ہوئی۔

### تعلیم و تربیت:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی خوبی سے نوازا تھا اور اتنا حسین و جمیل اور بارعب بنایا تھا کہ اچھے اچھے لوگ مرعوب ہو جایا کرتے تھے، ان کے رفیق درس حضرت وکیع کا بیان ہے کہ ہم لوگ علم حدیث کے سبق میں امام محمدؒ کے ساتھ نہیں جاتے تھے، کیوں کہ وہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کا ساتھ ہمیں ناگوار ہوتا تھا۔

ظاہری حسن جمال کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حافظہ میں بھی جمال اور کمال عطا فرمایا تھا اور پھر والد محترم کی ثروت و وسعت نے اس میں مزید چار چاند لگا دیے تھے، چنانچہ کوفہ کے قدیم دستور کے مطابق سن تمیز کو پہنچتے ہی آپ کو حفظ قرآن کے لیے بٹھا دیا گیا اور توفیق الہی سے جو کچھ بھی میسر ہو سکا قرآن کریم سے حفظ کر لیا پھر عربی اسباق کی طرف متوجہ ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ حدیث و فقہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، یہاں تک کہ جب عمر مبارک کی چودھویں بہار میں داخل ہوئے تو حضرت الامام اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور پھر اسے احتلام ہو جائے تو کیا وہ

عشاء کی نماز کا اعادہ کرے؟

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ ہاں اسے اعادہ کرنا چاہیے، چنانچہ یہ گئے اور عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنے لگے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی اس اطاعت و فرماں برداری کو دیکھا تو فرمایا **إِنْ هَذَا الصَّبِيِّ يَفْلِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ**۔ اس دعا اور تمنا کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ علوم و فنون کے دیوانے ہو گئے اور اپنے والد محترم کے ہمراہ حضرت الامام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورے چار سال تک جب تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے مسلسل ان کی خدمت میں لگے رہے یہاں تک کہ جب ۱۵۷ھ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف کی خدمت میں گئے اور آپ ہی سے علوم و فنون کی تکمیل کی۔

علم فقہ کے ساتھ ساتھ علم حدیث سے بھی آپ کو خصوصی لگاؤ تھا اور اپنے زمانے کے مشہور محدثین سے آپ نے استفادہ بھی کیا تھا جن میں امام اعظم، سفیان ثوری، مسعر بن کدام، مالک بن انس، سفیان بن عیینہ، امام اوزاعی اور عبداللہ بن المبارک وغیرہ سرفہرست ہیں۔

آپ کی ذات میں تحصیل علوم کا جذبہ اس قدر بھرا ہوا تھا کہ آپ نے حجازی، شامی، عراقی اور حنفی ان چاروں فقہ میں پی، ایچ، ڈی کی، چنانچہ فقہ حنفی کی تعلیم و تکمیل امام ابو یوسف سے ہوئی، فقہ حجازی امام مالک سے حاصل کی، فقہ شامی امام اوزاعی سے پڑھی، اور امام ثوری کے حلقہ درس میں شامل ہو کر فقہ عراقی کی تکمیل کی۔

اور اس کے بعد جب آپ کو منصب قضاء پر فائز کیا گیا تو آپ کی فکر و نظر میں وسعت پیدا ہوئی اور چار علاقوں کے فقہی گنجینے کو اپنے سینے میں سمو لینے کی وجہ سے آپ ہر ایک کے منظور نظر اور ہر دل عزیز تھے، بل کہ ہر کسی کی ضرورت تھے اور بالخصوص طالبین و متعلمین کے لیے تو آپ کا وجود نعمت غیر مترقبہ تھا، اس لیے ہمہ وقت آپ ہجوم کار کے شکار رہتے تھے، یہاں تک کہ راتوں کو بھی بہت معمولی اور انتہائی مختصر آرام فرماتے تھے، محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی رات کے تین حصے بنائے تھے، پہلا حصہ آرام کے لیے تھا، دوسرا حصہ نوافل اور تہجد گزاری میں صرف ہوتا تھا اور تیسرا حصہ درس و تدریس کے لیے مختص تھا۔

زمانہ طالب علمی ہی سے تہجد گزاری اور شب زندہ داری کے عادی تھے اور یہ عادت تادم حیات سابقہ آن بان کے ساتھ ہی باقی و برقرار تھی، حتیٰ کہ بڑھاپے کی وجہ سے جب کافی کم زور اور نحیف و ناتواں ہو گئے تھے اس وقت بھی بیداری شب کے معمول میں کوئی خلل نہ ہونے دیتے تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت والا آپ نے تو ماشاء اللہ اپنے کئی جانشین تیار کر دیے ہیں، آخر اس بڑھاپے میں تو آپ کو تھوڑا بہت تو آرام کر لینا چاہیے، اس پر آپ نے فرمایا کہ سنو! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بھروسے پر سو رہی ہے کہ محمد بن حسن ان کے مسائل کو حل کر رہا ہے، بتائیے اگر میں بھی سو جاؤں گا تو امت کا کیا ہوگا؟

**امام محمد ہم عصر علماء کی نظر میں:**

اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت اور اصابت رائے میں آپ کو اس درجہ امتیاز اور تفوق بخشا تھا کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے علماء و فقہاء بھی اس برتری کے قائل تھے، اور سب کے سب آپ کے فضل و کمال کے معترف اور مدح خواں تھے، امام شافعی تو آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا، وہ خوش شکل اور

خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ خوش صوت اور خوش الحان بھی تھے اور جب بھی قرآن پڑھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن کریم ابھی بھی نازل ہو رہا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ کتاب اللہ سے واقفیت رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے زیادہ حلال و حرام اور ناخ و منسوخ کے متعلق جاننے والا کوئی دوسرا پایا۔

امام احمد بن حنبلؒ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں تین لوگوں کے اقوال ہوں تو اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، لوگوں نے پوچھا وہ تین لوگ کون ہیں فرمایا ابوحنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمدؒ، ابوحنیفہ قیاس میں ماہر ہیں ابو یوسف احادیث میں ماہر ہیں اور امام محمدؒ عربیت اور لغت میں ماہر ہیں۔

علامہ سبط بن جوزیؒ نے مرآة الزمان میں لکھا ہے کہ تمام اہل سیر اس بات پر متفق ہیں کہ امام محمدؒ جملہ علوم کے سلسلے میں حجت اور دلیل ہیں۔

### امام محمدؒ کے تصنیفی کارنامے:

اس بات پر جمہور علمائے سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت میں امام محمدؒ کی کتابوں کا بہت وافر حصہ ہے، بل کہ اگر یہ کہا جائے کہ فقہ حنفی کا مرجع و منبع اور اس کا تمام تر دار و مدار امام محمدؒ ہی کتابوں پر ہے تو نہ ہی اس میں مبالغہ ہوگا اور نہ ہی بیجا آرائی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ ان کی چھ کتابوں کو ”اصول“ کہا جاتا ہے، کیوں کہ ان پر فقہ حنفی کا انحصار ہے۔ وہ چھ کتابیں یہ ہیں:

(۱) **مبسوط**: اس کتاب کا نام ”اصل“ ہے، لیکن مبسوط ہی کے نام سے اس کی شہرت ہے، یہ کتاب امام محمدؒ کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ طویل ہے اور تقریباً تیس ضخیم جلدوں میں ہے، امام محمدؒ نے حلال و حرام سے متعلق دسیوں ہزار مسائل کو اس کتاب میں جمع فرما دیا ہے۔

(۲) **الجامع الصغیر**: اس کتاب کے جملہ مسائل امام ابو یوسفؒ سے مروی ہیں، چنانچہ ہر باب کے شروع میں محمد عن یعقوب عن أبي حنيفة رضی اللہ عنہما کی عبارت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، امام محمدؒ نے اس کتاب میں کل ملا کر ۱۵۳۲ مسئلے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ۱۷۰ مسئلے مختلف فیہ ہیں، اور بقیہ سب متفق علیہ ہیں اور صرف دو مسئلے قیاسی اور استحسانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اصل کی طرح اس کتاب کو بھی بہت مقبولیت سے نوازا اور مرجع عوام و خواص بنا دیا۔

(۳) **الجامع الکبیر**: یہ کتاب بھی اسم با سُمی ہے اور امام محمدؒ نے اس کتاب میں عیون الروایات اور متون الدرایات کو جمع فرمایا ہے، اس کے علاوہ عراقی فقہاء سے اخذ کردہ روایات، علماء کرام کی ذاتی ڈائریوں میں محفوظ مرویات اور اپنی ذہنی محفوظات و یادداشت کو بھی اس کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔

(۴) **السیر الکبیر** (۵) **والسیر الصغیر**! یہ دونوں کتابیں بھی اپنے موضوع پر انتہائی لاجواب اور بے نظیر ہیں اور ان میں احکام جہاد، احکام صلح، احکام امان، احکام غنائم اور اس طرح کے بے شمار مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلی کتاب السیر الصغیر ہے، جب یہ کتاب ملک شام کے مشہور عالم امام عبدالرحمن بن اوزاعی کی نظر سے گذری تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کس کی

تصنیف ہے، جو اب دیا گیا کہ محمد بن حسن عراقی کی، اس پر امام اوزاعی نے کہا کہ ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب، یعنی اہل عراق کو اس سلسلے میں کتاب لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ نے ججاز اور شام وغیرہ کے علاقوں میں غزوات اور سرایا میں حصہ لیا ہے، عراق میں ان حضرات نے کوئی جنگ نہیں کی، عراق تو بعد میں فتح ہوا ہے، اس لیے عراقیوں کو اس سلسلے میں کوئی چیز لکھنے کا حق نہیں ہے۔

جب امام محمدؒ کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت ملول ہوئے اور اسی وقت سے سیر کبیر کی تصنیف شروع کر دی اور بہت محنت و جاں فشانی کے ساتھ رات دن ایک کر کے اس کتاب کو تیار کیا، جب امام اوزاعیؒ نے اس کتاب کو دیکھا تو بے اختیار یہ کہہ اٹھے کہ بخدا اگر اس میں احادیث نہ ہوتیں تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ امام محمد کا وضع کردہ علم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے امام محمدؒ کی رائے میں درستگی جواب کو محدود اور محصور فرما دیا ہے، سچ ہے و فوق کل ذي علم عليم۔

پھر امام محمدؒ نے ساٹھ رجسٹروں میں اس کتاب کو منتقل کر لیا اور ہارون رشید کے دربار میں لے گئے، خلیفہ نے جب اس کتاب کو دیکھا تو انگشت بدندان رہ گیا اور اسے اپنے زمانے کا سب سے قابل فخر کارنامہ قرار دیا اپنے دونوں بیٹے امین اور مامون کو از اول تا آخر یہ کتاب سنوائی۔ (مقدمہ رد المحتار ۱۳۳/۱) اسی لیے اکثر فقہاء و محدثین اور حقیقت پسند مورخین کی رائے یہ ہے کہ السیر الکبیر امام محمدؒ کی سب سے آخری تصنیف ہے۔

(۶) کتب ظاہر الروایات میں سے چھٹی کتاب الزيادات ہے، اور اس کی وجہ تالیف یہ ہے کہ جب امام محمدؒ جامع کبیر کی تالیف سے فارغ ہو گئے تو بہت ساری فروعات چھوٹ گئیں، انہی کی تکمیل اور اتمام کے لیے کتاب الزيادات لکھی، مگر پھر بھی کچھ فروعات باقی رہ گئیں تو ان کے احاطے کے لیے زیادات الزيادات لکھی۔ واللہ أعلم بحقیقة الحال۔

ان کے علاوہ بھی حضرت الامام کے اشہب قلم سے بہت سے لعل و گہر اور اراق و صفحات میں پیوست ہیں اور کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات وغیرہ کے نام سے موسوم ہیں، ان میں ایک بیش قیمت گوہر وہ ہے جو حدیث پاک کے سلسلے میں مؤطا امام محمد کے نام سے موسوم ہے اور بیشتر دینی مدارس کے نصاب ہائے تعلیم و تکمیل کا جزو لاینفک ہے، اس میں امام مالکؒ سے ایک ہزار سے زائد مرفوع اور موقوف احادیث مروی ہیں اور امام مالک کے علاوہ تقریباً ۴۰ چالیس شیوخ سے ۱۷۵ احادیث مزید مروی ہیں۔

### ہجوم کار سے رہائی اور آخرت کے لیے روانگی:

جس طرح امام محمدؒ سے پہلے بے شمار علماء و فقہاء اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے روئے زمین کو معطر اور منور کرنے کے بعد ایک ایک دن ابدی نیند سو گئے، اسی طرح امام محمدؒ کے قافلے پر بھی ایک دن بند لگا دی گئی اور امام اعظم کی صفحہ خاص کا یہ آفتاب جہاں تاب بھی تقریباً ۵۷ سالوں تک پوری دنیا کو اپنی ضیاء پاش کرنوں سے منور کرتا ہوا ۱۸۹ھ میں شہر ”رے“ کے افق میں ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن امام النخوع علامہ کسائی کی بھی وفات ہوئی، چنانچہ خلیفہ ہارون رشید نے اس وقت یہ جملہ کہا دفنت الیوم الفقه والعربیة بالری یعنی آج شہر رے میں فقہ اور عربیت دونوں چیزیں مدفون ہو گئیں۔

آہ! اشکوں کو نہ ان کا ہوسکا دامن نصیب

دفن ہم نے خاک میں ہر اک ستارہ کر دیا

## صاحب ہدایہ کے مختصر حالاتِ زندگی

آپ کا نام نامی اسم گرامی برہان الدین ہے، والد کا نام علی ہے، دادا کا نام ابو بکر اور پردادا کا نام عبدالجلیل ہے، ابوالحسن آپ کی کنیت ہے اور شیخ الاسلام کے لقب سے آپ مشہور ہیں، ۸ رجب ۵۱۵ھ بروز دوشنبہ بعد نماز عصر آپ کی ولادت ہوئی۔ عام طور پر آپ کے نام کے ساتھ مرغینانی لکھا جاتا ہے جیسا کہ بیشتر کتابوں میں مذکور ہے جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ کا وطن مرغینان ہی تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مرغینان آپ کا وطن اصلی اور مولد نہیں تھا، بل کہ آپ کا تعلق تھا اور اسی تعلق کے ایک گاؤں ”رشدان“ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور یہ آپ کا مولد ہے، لیکن تعلقہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر مرغینان ہی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے اس زمانے میں مثلاً اگر کوئی شخص بستی ضلع کے کسی گاؤں کا باشندہ ہوتا ہے، تو گاؤں کی طرف نسبت نہ کر کے ضلع اور شہر کی شہرت کی بنا پر اسی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے بستوی لکھ دیا جاتا ہے۔

### تعلیمی زندگی کا مختصر خاکہ:

صاحب ہدایہ نے اپنی وسعت اور بساط کے مطابق اپنے زمانے کے ہر بڑے عالم سے کسب فیض کیا تھا، چنانچہ شیخ نجم الدین ابو حفص نسفی سے ان کی بعض تصانیف کے ساتھ ساتھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں اور مسندات خصاف کی سماعت کی تھی، شیخ ابواللیث نسفی اور شیخ ابوالفتح مروزی سے بخاری شریف کا اکثر حصہ پڑھا تھا، شیخ ضیاء الدین سے فقہ کی تعلیم حاصل کی جب کہ ضیاء الدین نامی دوسرے شیخ سے ترمذی شریف پڑھی اور ان کے علاوہ بھی بے شمار اساتذہ و شیوخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کر کے علم و عرفان کی وادیاں طے کیں اور جب علوم متداولہ سے فارغ ہوئے تو ایسے بن سنور کر اور نکھر کر سامنے آئے کہ کہنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے لم تر العیون مثله فی العلم و الأدب یعنی علم و ادب میں کوئی آپ کا ثانی نہیں نظر آتا ہے اور دور دور تک آپ کی علمی عبقریت، ادبی مہارت اور بے پناہ صلاحیت و لیاقت کا چرچا اور غوغا ہے۔

### تدریس و تعلیم:

یوں تو مبدأ فیض نے آپ کو ہر طرح کے علوم و فنون سے وافر حصہ عطا کیا تھا، اور ہر فن اور ہر علم میں امام کا درجہ حاصل تھا، لیکن فن فقہ سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا اور اس فن میں آپ اتنا آگے نکل گئے تھے کہ اپنے بہت سے استاذوں سے بھی بازی جیت چکے تھے، بیان دلائل اور استخراج مسائل میں آپ کو درک حاصل تھا اور افہام و تفہیم میں بھی خصوصی ملکہ حاصل تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے درس میں بے انتہاء اژدہام ہوتا تھا اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ سے پڑھنے اور استفادہ کرنے کے لیے آپ کے علمی دربار کا رخ اور سفر کیا کرتے تھے اور آپ پوری دل جمعی اور دل چسپی کے ساتھ آنے والوں کے دامن مراد کو علم و فضل کے

بیش قیمتی جواہر پاروں سے لبریز کر دیا کرتے تھے۔

درسی اور زبانی افادے کے علاوہ صاحب ہدایہ نے قلمی اور تحریری طور پر بھی اپنے علوم کو دوسروں تک منتقل فرمایا اور ہدایہ کے علاوہ کفایہ، منقہ، تجنیس، مزید، مناسک حج اور نشر المذہب وغیرہ کو ملا کر تقریباً ایک درجن سے زائد کتابیں تصنیف و تالیف فرمائیں اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک علمی ذخیرہ تیار کر دیا۔

### ہدایہ کی وجہ تالیف:

صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے اپنی ولی آرزو کی تکمیل کے لیے بدایۃ المبتدی کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کی تالیف سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مختصر اور آسان عبارت میں فقہی احکام و مسائل کو جمع کر دیا جائے، تاکہ لوگ طوالت کلام سے بچ جائیں اور زیادہ کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بجائے ایک ہی کتاب میں مختصر سے وقت کے اندر دینی احکام و معارف سے واقف ہو جائیں، لیکن یہ کتاب کچھ زیادہ ہی مختصر ہوگئی، اس لیے کفایۃ المنتہی کے نام سے اس کی ایک ضخیم شرح تیار فرمائی اور یہ شرح اتنی طویل ہوئی کہ اسی جلدوں میں سما سکی، اب صاحب کتاب نے ایجاز میں بھی مبالغہ کر دیا اور طوالت میں بھی سارے حدود تجاوز کر گئے، اس کے بعد جب خود انھیں بھی اس طوالت کا احساس ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں طویل بیانی کی وجہ سے میری محنت پر پانی نہ پھر جائے اور اصل کتاب ہی کو لوگ ترک نہ کر دیں تو دوبارہ عزم و ہمت کو جواں کیا اور ۳۵ھ ذی قعدہ کے مہینے میں چہار شنبہ کے دن سے الہدایۃ نامی کتاب کی تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا اور اس مرتبہ ان کی یہ کوشش رہی کہ الہدایۃ نہ تو اتنی مختصر ہو کہ پڑھنے والے کو کچھ پلے ہی نہ پڑے اور نہ ہی اتنی طویل ہو کہ خلل کا باعث بن جائے۔

الحمد للہ مسلسل تیرہ سال کی عرق ریزی و جاں فشانی اور قلم کی روانی کے نتیجے میں ان کی یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی اور منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہی عوام و خواص کا مرجع بن گئی۔

یہ محض اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے صاحب ہدایہ کی اس کتاب کو وہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی جو دیگر مصنفین و مؤلفین کے حصے میں نہ آسکی، بلاشبہ ہدایہ فقہ حنفی کا جزلائفک جزء ہے اور حنفی کتابوں میں اسے ایک معتبر اور معتمد متن کی سند اور حیثیت حاصل ہے۔

ہدایہ کی یہ مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ہدایہ کے حوالے سے، طالبین دین متین کی شغف اور ان کی چاہت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اس کتاب کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی بھی گمراہی اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اور غور و فکر سے پڑھنے والے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خود اعتمادی اور دوسرے کلام کے صحیح معانی و مطالب اخذ کرنے کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔

کسی شاعر نے ہدایہ کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے درج ذیل اشعار کہے ہیں۔

إن الہدایۃ کالقرآن قد نسخت  
فاحفظ قرأتها والزم تلاوتها  
ماصنفوا قبلها فی الشرع من کتب  
یسلم مقالک من زبغ ومن کذب

یعنی قرآن کریم کی طرح ہدایہ نے بھی شریعت کے سلسلے میں لکھی گئیں اپنے سے پہلی تمام تصنیفات کو منسوخ کر دیا، لہذا اسے مخاطب تم ہدایہ کی تعلیم و تعلم کو لازم پکڑ لو، تمہاری گفتگو کذب و کجی سے محفوظ رہے گی۔

امام الہند علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک موقع پر فرمایا کہ الحمد للہ میں تمام کتابوں کے مخصوص طرز پر کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہوں، مگر چار کتابیں ایسی ہیں جن پر خامہ فرسائی نہیں کر سکتا۔ (۱) قرآن پاک (۲) بخاری شریف (۳) مشنوی اور (۴) ہدایہ۔

مختصر اعرض یہ ہے کہ ہدایہ اپنی گونا گوں افادیت اور اہمیت کے حوالے سے ہر زمانے میں ہر دل عزیز رہی، لوگوں نے اس پر خاطر خواہ توجہ دی اور ہر طرح سے اسے سمجھنے اور اس کے لطائف و حقائق سے لعل و گہر نکالنے میں مشغول و مصروف رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو اور عربی وغیرہ کو ملا کر اب تک ۳۰ سے زائد اس کی شروحات منظر عام پر آچکی ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے۔

## الہدایۃ میں صاحب ہدایہ کا انداز تحریر

کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کے مؤلف و مصنف کی طرز تحریر اور طریقہ تالیف و تصنیف سے واقفیت کے ساتھ ساتھ کتاب میں استعمال کردہ اشارات و کنایات کی وضاحت اور مختلف النوع تعبیرات کی حقیقت سے باخبر ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، اسی لیے ذیل میں صاحب ہدایہ کی ان خصوصیات اور امتیازات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو الہدایۃ میں مذکور ہیں تاکہ اس سلسلے میں آپ کو بصیرت حاصل ہو اور اس کی روشنی میں آپ کے لیے کتاب فہمی سہل اور آسان ہو جائے۔

① شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”مدارج النبوة“ میں ذکر کیا ہے کہ صاحب ہدایہ جب ”قال رضی اللہ عنہ“ کہتے ہیں تو اس سے مراد خود ان کی ذات ہوتی ہے۔ شیخ ابوالسعود فرماتے ہیں کہ جہاں موصوف نے اپنی طرف سے کوئی خاص تصرف ذکر کیا ہے وہاں ان کی اصل عبارت ”قال العبد الضعیف عفا عنہ“ تھی مگر آپ کی وفات کے بعد بعض تلامذہ نے اس کو ”قال رضی اللہ عنہ“ سے بدل دیا، واما لم یذکر نفسہ بصیغۃ المتکلم تحرزا عن توہم الانانیۃ۔

② نہایہ کی کتاب ادب القاضی کے آخر میں، عنایہ کے باب البیع الفاسد میں اور فتح القدیر کی کتاب الصرف میں ہے کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک جو مذہب مختار ہوتا ہے اس کی دلیل بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ نتائج الافکار میں ہے کہ مصنف کی عام عادت یہی ہے کہ وہ اقوال مختلفہ کو ذکر کرتے وقت قوی دلیل کو آخر میں لاتے ہیں، تاکہ یہ تمام اقوال متقدمہ کی طرف سے جواب کا کام دے، گو نقل اقوال کے وقت بہت سی جگہ قوی کو مقدم بھی کیا ہے۔

③ عنایہ میں ہے کہ جب صاحب ہدایہ ”مشایخنا“ کہتے ہیں تو اس سے مراد ماوراء النہر (بخارا اور سمرقند) کے علماء ہوتے ہیں۔

④ اور جب ”فی دیارنا“ کہتے ہیں تو شہر ہائے ماوراء النہر مراد ہوتے ہیں۔ کذا یفہم من ”فتح القدیر“۔

⑤ نتائج الافکار کی کشف الرموز ولاسرار میں ہے کہ موصوف سابق میں ذکر کردہ آیت کو ”بما تلونا“ سے بیان کرتے ہیں اور دلیل عقلی کو ”بما ذکرنا“ اور ”لما بیئنا“ سے اور حدیث کو ”بما روینا“ سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کتاب و سنت



اور معقول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی ”لما بینا“ کہتے ہیں (کذا يفهم من الكفاية) مفتاح السعاده میں ہے کہ موصوف اکثر اوقات قول صحابی کو اثر سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض اوقات خبر و اثر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

نتائج الافکار میں ہے کہ بسا اوقات علتہ النص کو اصل مسئلہ کے لیے مستقل دلیل عقلی بنا دیتے ہیں تاکہ دہرا فائدہ ہو جائے۔

مفتاح السعاده میں ہے کہ دلیل عقلی کو فقہ سے تعبیر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں ”والفقه فيه كذا“۔

نتائج الافکار میں ہے کہ صاحب ہدایہ کی عادت ہے کہ مدعی کی دلیل عقلی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ”وهذا لان اه“ اور اس سے دلیل اِنّی کے بعد دلیل لَمّی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

شرح حمید الدین میں ہے کہ جہاں موصوف ”الاصل“ بولتے ہیں اس سے مراد امام محمد کی مبسوط ہوتی ہے۔

جب آپ لفظ ”المختصر“ اور ”الکتاب“ بولتے ہیں تو اس سے مختصر القدوری کتاب ہی مراد ہوتی ہے، البتہ بعض شراح نے بعض مواضع میں لفظ الکتاب کی تفسیر جامع صغیر سے اور بعض مواضع میں مختصر القدوری سے اور بعض مواضع میں المتن سے کی ہے۔

غایۃ البیان میں ہے کہ جب موصوف کوئی مسئلہ قدوری یا جامع صغیر کا ذکر کرتے ہیں یا وہ ہدایہ میں مذکور ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ”قال“ لاتے ہیں، مفتاح السعاده اور عنایہ میں ہے کہ اگر وہ مسئلہ ان کے علاوہ میں ہو تو قال نہیں لاتے، مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اکثری ہے نہ کہ کلی، کیوں کہ اوائل کتاب الاقرار میں ہے ”قال وإن قال له علیّ أو قبلی“ اور اس کی بابت صاحب نتائج الافکار نے تصریح کی ہے کہ امام محمد کا یہ قول جامع صغیر میں نہیں ہے، بل کہ مبسوط میں ہے، نیز کتاب الحدود میں ”باب الوطی الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ“ کے ہی ذیل میں ”قال الوطی الموجب للحد اه“ کی عبارت درج ہے، اور یہ قول نہ تو مختصر القدوری میں ہے اور نہ ہی جامع صغیر میں۔

صاحب مفتاح السعاده نے کہا ہے کہ جب موصوف ”هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى كَذَا“ کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ائمہ حدیث نے اس کو اس معنی پر محمول کیا ہے اور جب ”نَحْمَلُهُ عَلَى كَذَا“ کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ائمہ حدیث نے اس معنی پر محمول نہیں کیا لیکن اسی معنی پر محمول ہونی چاہیے۔

مفتاح السعاده میں ہے کہ جب صاحب ہدایہ ”عند فلان“ کہتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قول فلاں کا مذہب ہے اور جب ”عن فلان“ کہتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں سے روایت ہے، علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں کہا ہے کہ کلمہ عن غیر ظاہر الروایہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ابن الہمام فرماتے ہیں کہ کلمہ عند دال بر مذہب ہوتا ہے۔

جہاں قدوری اور جامع صغیر کی عبارت میں کسی طرح کی مخالفت ہوتی ہے تو جامع صغیر کے الفاظ کی تصریح کرتے ہیں

صاحب نہایہ نے کتاب الغصب کے آخر میں کہا ہے کہ صاحب ہدایہ لفظ ”قالوا“ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں اختلاف ہو، کیوں کہ اجماعی حکم تو الفاظ کو ان کے اطلاق پر رکھنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن فتح القدر کتاب الصوم میں ہے کہ یہ ایسے موقع میں استعمال کرتے ہیں جن میں خلاف مع الضعف ہو، علامہ تفتازانی نے بھی حواشی کشاف میں آیت صوم کے ذیل میں اس کی تصریح کی ہے۔

- ۱۶) موصوف کی عام عادت یہی ہے کہ سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں اور سوال و جواب کی تصریح نہیں کرتے یعنی یوں نہیں کہتے فان قيل كذا، قلنا كذا وغيره، البتہ چند جگہوں میں اس طرح کی تصریح بھی کی ہے مثلاً کتاب الاقرار کے باب الاستثناء کے آخر میں ہے فان قال قائل الاعطاء اه فنقول قد يكون اه اس طرح كتاب الحجر کے آغاز میں كتاب الاضحية کے آخر میں اور باب الرهن الذي يوضع على يد العدل کے آخر میں بھی سوال و جواب کی تصریح کی ہے۔
- ۱۷) خطیب خیر الدین کے فتاویٰ خیریہ میں ہے کہ جب موصوف ”والتخریج كذا“ کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی اپنی تخریج ہوتی ہے اور جب دوسروں کی تخریج مقصود ہوتی ہے تو صراحت کے ساتھ اسے صاحب تخریج کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ (احوال المصنفین از صفحہ ۲۶۲ تا ۲۶۴)

### زندگی کے آخری لمحات:

ہدایہ کی تصنیف کے بعد تقریباً ۷ سال تک آپ بقید حیات رہے لیکن کل نفس ذائقة الموت کی اہل حقیقت سے بے بس ہو کر بالآخر ہر طرح کی تحریکات کو موقوف کر دیا اور اس کے بعد ۱۳ رزی الحجہ ۵۹۳ھ یا ۵۹۶ھ بروز سہ شنبہ عالم فانی سے عالم دائمی کے سفر پر روانہ ہو گئے اور سمرقند کے شہر ”ماکردین“ میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے،

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا  
تمھی سو گئے داستاں کہتے کہتے



## مَقَدِّمَةٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْلَى مَعَالِمَ وَأَعْلَامَهُ، وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، وَبَعَثَ رَسُولًا وَأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، إِلَى سُبُلِ الْحَقِّ هَادِينَ، وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، يَسْلُكُونَ فِيهَا لَمْ يُؤْتَرُ عَنْهُمْ مَسَلَكُ الْاجْتِهَادِ، مُسْتَرَشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، وَحَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِينَ بِالتَّوْفِيقِ، حَتَّى وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ جَلْبِيٍّ وَدَقِيقٍ، غَيْرَ أَنَّ الْحَوَادِثَ مُتَعَابِقَةَ الْوُقُوعِ، وَالتَّوَازِلَ بِضَيْقٍ عَنْهَا نِطَاقِ الْمَوْضُوعِ، وَاقْتِنَاصِ الشُّوَارِدِ بِالِاقْتِنَاصِ مِنَ الْمَوَارِدِ، وَالِاعْتِبَارِ بِالْأَمْثَالِ مِنْ صُنْعَةِ الرِّجَالِ، وَبِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَأْخِذِ يَعْضُ عَلَيْهَا بِالتَّوَجُّدِ، وَقَدْ جَرَى عَلَيَّ الْوَعْدُ فِي مَبْدَأِ "بِدَايَةِ الْمُتَبَدِّي" أَنْ أُشْرَحَهَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى شَرْحًا أَرْسَمُهُ بِـ "كِفَايَةِ الْمُتَبَدِّي" فَشَرَعْتُ فِيهِ وَالْوَعْدُ يَسُوعُ بَعْضَ الْمَسَاحِ، وَحِينَ أَكَادُ أَنْكِي عَنْهُ اتِّكَاءَ الْفَرَاغِ تَبَيَّنَتْ فِيهِ نَبْذًا مِنَ الْإِطْنَابِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَهْجَرَ لِأَجْلِ الْكِتَابِ، فَصَرَفْتُ عِنَانَ الْعِنَايَةِ إِلَى شَرْحِ آخِرِ مَوْسُومٍ بِـ "الْهِدَايَةِ" أَجْمَعُ فِيهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ عِيُونِ الرِّوَايَةِ وَمُتُونِ الدِّرَايَةِ، تَارِكًا لِلزَّوَائِدِ فِي كُلِّ بَابٍ، مُعْرِضًا عَنْ هَذَا النَّوعِ مِنَ الْأَسْهَابِ، مَعَ مَا أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَصُولٍ تَنْسَجِبُ عَلَيْهَا فُصُولٌ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤَفِّقَنِي لِإِمَامِهَا وَيَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اخْتِمَامِهَا، حَتَّى إِنْ مَنْ سَمَتْ هِمَّتُهُ إِلَى مَزِيدِ الْوُقُوفِ يَرْعَبُ فِي الْأَطْوَلِ وَالْأَكْبَرِ، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، وَالْفَنُّ خَيْرٌ كُلُّهُ. ثُمَّ سَأَلَنِي بَعْضُ إِيَّانِي أَنْ أُمْلِيَ عَلَيْهِمُ الْمَجْمُوعُ الثَّانِي، فَافْتَحْتُهُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ تَعَالَى فِي تَحْرِيرِ مَا أَقَاوِلُهُ مُتَضَرِّعًا إِلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ لِمَا أَحَاوِلُهُ، إِنَّهُ الْمَيْسَرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ، وَهُوَ عَلَيَّ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

**ترجمہ:** تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے علم کے اثرات و نشانات کو بلند کر رکھا ہے۔ اور شریعت (محمدیہ) کی علامات اور اس کے احکامات کو واضح کر دیا ہے۔ اور حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی راتوں کی راہوں کا رہبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے

اور علمائے کرام کو حضرات انبیاء و رسل کے بعد ان کے طریقہ ہائے کار کا داعی بنایا ہے، جو (علمائے کرام) حضرات انبیاء و رسل سے غیر منقول (شرعی) امور میں اللہ سے ہدایت طلب کر کے اجتہاد کی ڈگر پر چلتے ہیں، اور بلاشبہ اللہ ہی ہدایت کا والی ہے۔ (اور اللہ کا ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ) اس نے ہمارے پیش رو مجتہدین کو ایسی خاص توفیق بخشی تھی جس کے نتیجے میں ان حضرات نے ہر طرح کے نمایاں اور غیر نمایاں مسائل کو مرتب کر دیا، لیکن پھر بھی نت نئے مسائل دھڑا دھڑ جنم لے رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اصول شرع سے مسائل کا اخذ و استنباط پد کے ہوئے جانوروں کے شکار ہی کی طرح مشکل ہے، جب کہ مثالوں پر قیاس کر کے مسائل کا استخراج کرنا ماہرین فن کا کام ہے اور احکام کے مآخذ پر مطلع ہونا بڑے جگر گردے کی چیز ہے۔

البتہ بدلیۃ المبتدی کے مقدمے میں، میں یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر توفیق خداوندی شامل حال رہی تو کفایۃ المُنْتَهِی کے نام سے اس کی ایک شرح تیار کروں گا، چنانچہ اسی سابقہ وعدے کے مطابق میں اس کام میں لگ گیا ہوں، اور وعدے میں تھوڑی بہت گنجائش تو ہوتی ہی ہے۔ پھر جب میں اس کام سے فارغ ہونے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ طوالت در آئی ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس طوالت کی وجہ سے اصل کتاب ہی نہ ترک کر دی جائے، لہذا میں نے ہدایہ نامی ایک دوسری شرح کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی، جس میں نصرت الہی کے ذریعے ہر باب میں زوائد کو ترک کر کے، لایعنی طوالت کو پس پشت ڈالتے ہوئے پسندیدہ روایات اور نفع بخش نکات کو جمع کر رہا ہوں، مگر پھر بھی وہ ایسے اصول پر مشتمل ہوگی جن پر تفصیلاً متفرع ہو سکیں گی۔ اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے اس شرح کو مکمل کرنے کی توفیق بخشے اور اس کی تکمیل کے بعد میرے لیے خاتمہ بالخیر بھی مقدر کر دے۔

بہر حال جو شخص زیادہ واقفیت کا طالب ہو اسے چاہیے کہ شرح اکبر (کفایۃ المُنْتَهِی) کی طرف راغب ہو اور جسے وقت مہلت نہ دے وہ شرح اصغر (ہدایہ) ہی پر اکتفاء کر لے۔ اور اپنی دل چسپی کے اعتبار سے لوگوں کی عادتیں مختلف ہوا کرتی ہیں اور ہر فن اپنی جگہ بہتر ہوا کرتا ہے۔

پھر میرے بعض احباب نے اس دوسرے مجموعے (ہدایۃ) کو الملاء کرانے کی درخواست کی ہے اس لیے اب میں اس کا آغاز کر رہا ہوں، درستگی کلام کے سلسلے میں اللہ کی نصرت و اعانت کا طالب ہوں اور آسانی مقصد کے لیے بصد عجز و نیاز اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، بلاشبہ اللہ پاک ہر مشکل کو آسان کرنے والے ہیں، جو چاہیں اس پر قادر ہیں اور وہی درخواست منظور کرنے کے قابل ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ودانی ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔

### مقدمہ کی تشریح مع حل لغات:

خدا ترس مصنفین اور مخلص مؤلفین کی طرح صاحب ہدایہ شیخ الاسلام امام برہان الدین علی بن ابوبکر مرغینانی (۵۹۳ھ) رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ نے بھی اپنی اس انوکھی اور البیلی شرح کا آغاز بسملہ اور حمد لہ سے کیا ہے، جس میں ایک طرف قرآن کریم کی اقتداء اور فرمان نبوی کل أمر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فهو أقطع (ہر وہ مہتم بالشان کام) جس کے شروع میں بسم اللہ نہ کی جائے وہ ناقص اور ناتمام رہتا ہے) کی اتباع اور اہتمام ہے، تو دوسری طرف امت کے چیدہ اور چنیدہ قلم کاروں بالخصوص دینی

موضوعات پر خامہ فرسائی کرنے والوں کے طریقہ ہائے نگارشات اور ان کے تحریری و تصنیفی لوازمات کا التزام ہے، اور اسی التزام و حسن انتظام کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت سے نوازا ہے کہ اسلامی لائبریری تصنیفات کی بھرمار اور ہر چہار جانب سے تالیفات کی بوجھار کے باوجود آج تک اس کتاب کا بدل نہ پیش کر سکی، اللہ پاک صاحب کتاب کی اس خدمت کو قبول فرمائیں اور مقدمہ کتاب میں مانگی ہوئی دعا کے مطابق اسے ان کے حق میں باعث سعادت اور ذریعہ نجات بنائیں۔ آمین۔

### حل لغات مع بیان نکات:

الحمد، آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں الحمد کا لام جنس اور استغراق دونوں کے لیے ہے، اہل لغت اور شارحین کے یہاں حمد کی تعریف یہ ہے ”الحمد هو الفناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمة کان او غیرها“ یعنی محمود اور صاحب اختیار کی طرف منسوب عمدہ اوصاف کو زبان سے ادا کرنے کا نام حمد ہے، خواہ حمد کی یہ ادا نیکی نعمت کے مقابلے میں ہو جیسے حمدتہ علیٰ انعامہ (میں نے اس کی بخشش پر اس کی تعریف کی) یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو، جیسے حمدتہ علیٰ شجاعته (میں نے اس کی بہادری کا چرچا کیا) اس کے علاوہ حمد، مدح، شکر کا باہم مقابلہ اور ایک دوسرے سے ان کا موازنہ نیز لفظ اللہ کی تحقیق وغیرہ دوسری کتابوں سے متعلق ہے، اسی لیے علامہ ابن الہمام وغیرہ نے ان بحثوں کو یہاں نہیں چھیڑا ہے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔  
والکلام فی اسم الجلالة من کونه منقولاً أو مرتجلاً الخ ..... لیس مما یہمنا الآن۔

مَعَالِمٌ مَعْلُومٌ کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے موضع، جگہ، اثر، نشان، یہاں اس سے اصول شرع مراد ہیں جو کتاب، سنت اجماع اور قیاس کا مجموعہ ہیں۔ اور انھی پر علوم شرعیہ کا مدار ہے۔  
عِلْمٌ جمع عُلُومٌ، اس کا لغوی معنی ہے، معرفت، تعلیم، جان کاری، یہ جہل کی ضد ہے۔ علم کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔ صفة یتجلی بہا المذکور لمن قامت بہ ہی یعنی علم ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ جس شخص میں یہ صفت پیوست ہو جاتی ہے وہ نکھر جاتا ہے۔

اعلام یہ علم کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے، پرچم، جھنڈا، بینر، یہاں اس سے علماء مراد ہیں، بالغ نظر محققین کی یہی تحقیق ہے اور قرینہ قیاس بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شریعت کے اصول اربعہ کو بھی محفوظ کر رکھا ہے اور پھر علماء کو ان اصول کا محافظ اور حامل بنا کر انھیں بھی عزت و رفعت سے نواز رکھا ہے، اس سلسلے میں خود قرآن کریم کی شہادت یہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔

صاحب بنایہ علامہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو پہاڑ کے معنی میں لے کر اس موقع پر ایک بڑی عمدہ بات لکھی ہے، کہ علماء کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے اور جس طرح پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے عماد اور ستون بنایا ہے اور پہاڑ زمین کو حرکت کرنے، اپنی جگہ سے ہلنے اور ٹٹنے سے روکے ہوئے ہیں، اسی طرح علماء کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عمود اور ستون بنایا ہے اور یہ حضرات لوگوں کو زلیغ و ضلال سے روکتے ہیں اور انھیں حرام و حلال کا امتیاز بتلاتے ہیں۔

شَعَائِرٌ، شَعِیْرَةٌ کی جمع ہے، لغوی معنی ہے، خاص علامت، خاص نشان، یہاں اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی

اطاعت اور اس کی عبادت کی علامت ہو۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے وہ عبادات مراد ہیں جو اعلانیہ طور پر ادا کی جاتی ہیں، جیسے نماز باجماعت، جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ (بحوالہ بنایہ)

الشرع: فتح یفتح سے شَرَعَ یَشْرَعُ کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں قانون، ضابطہ، شرع سے اصطلاحاً یہاں مشروع مراد ہے۔

احکام حکم کی جمع ہے، بمعنی فیصلہ، اور اصطلاح میں الْأَثَرُ الْمُؤْتَبَرُ عَلَى الشَّيْءِ (کسی چیز پر مرتب اور ثبوت ہونے والے اثر) کو حکم کہتے ہیں، مثلاً کسی چیز کا جائز ہونا، فاسد ہونا، یا حلال یا حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔

صاحب فتح القدر کی تحقیق یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے خطبہ میں احکام کا تذکرہ کر کے براءت استعمال سے کام لیا ہے بایں معنی کہ ان کی یہ کتاب بھی احکام و مسائل ہی پر مشتمل ہے۔ رُسُلُ رَسُولِ كِي جَمْعٌ بِمَعْنَى قَاصِدٍ، پیغام بر، اصطلاحی معنی، مَنْ بُعِثَ لِتَبْلِيغِ الْوَحْيِ وَمَعَهُ كِتَابٌ -

انبیاء نبی کی جمع بمعنی نخبہ، اور اصطلاح میں نبی اس کو کہتے ہیں مَنْ بُعِثَ لِتَبْلِيغِ الْوَحْيِ مُطْلَقًا سِوَا كَانُ بَكْتَابٍ أَوْ بِلَا كِتَابٍ، کیوشع و ہذ هو الفرق البین بین الرسول والنبی۔ (بنایہ، فتح القدير)

سُبُلٌ وَاٰحِدُهَا سَبِيْلٌ بِمَعْنَى رَاسِتَةٍ۔

ہادین، انبیاء کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، ہادی کی جمع بمعنی راہ دکھلانے والا۔

أَخْلَفَ إِخْلَافًا بَابِ أَعْمَالٍ سَعَى بِمَعْنَى نَائِبٍ بِنَائِنَا، خَلِيفَةً بِنَائِنَا، قَائِمٌ مَقَامَ بِنَائِنَا، صَاحِبُ كِتَابٍ كِي يَهْ عِبَارَتِ فَرْمَانِ نَبَوِي الْعُلَمَاءِ وَرِثَةِ الْأَنْبِيَاءِ كِي تَرْجَمَانِي كَر رَهِي هے۔

سَنَنٌ بِفَتْحِ السِّينِ وَالنُّونِ مَفْرُودٌ بِمَعْنَى طَرِيقَةٍ۔

سُنَنٌ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ النُّونِ بِمَعْنَى الطَّرِيقَةِ الْمَسْلُوكَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الدِّينِ، دِينِ مِثْلُ رَاجِحٍ لِسُنَنِهِ طَرِيقَةٍ (بحوالہ بنایہ ج ۱ ص ۱۷۷ بیروت) بعض لوگوں نے دونوں کو بضم السین وفتح النون پڑھا ہے، بہر دو صورت ترجمہ وہی ہوگا جو کیا گیا ہے، یعنی چون کہ علماء انبیاء کرام کے نائب اور قائم مقام ہیں، اب ظاہر ہے حضرات انبیاء کی سی تبلیغ کرنے کے لیے انھیں بھی انھیں راہوں پر چلانا ہوگا جو انبیاء و رسل کی رہ گذر ہوا کرتی تھیں ورنہ نیابت مکاھتہ ادا نہیں ہو پائے گی۔

مَسْلُوكٌ بِمَعْنَى طَرِيقٍ، رَاسِتَةٍ، جَمْعٌ مَسَالِكٍ۔

الاجتهاد مشتق من الجهد بمعنی المشقة، وعند الفقهاء، بذل المجهود لنيل المقصود (دینی مقصد کی تحصیل کے لیے تگ و دو کرنے) کا نام اجتہاد ہے۔

مسترشدين يسلكون کی ضمیرہم سے حال واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے استرشدا استرشادا باب استفعال، رشد و ہدایت طلب کرنا۔ أوائل أول کی جمع بمعنی مقدم، پہلا۔

المستبتطين، استبتط استبتاطا استفعال بمعنی استخراج کرنا، دریافت کرنا، کھوج کرنا، أوائل المستبتطين سے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے اصحاب مراد ہیں، کیوں کہ انھی حضرات نے سب سے پہلے استخراج و استنباط کا فریضہ

انجام دیا ہے۔

جلی بمعنی ظاہر، واضح، یہ خفی کی ضد ہے، جلی سے مراد وہ مسائل ہیں جو قیاسی ہیں، اور علم و ادراک کے ذریعہ جلدی سمجھ میں آجاتے ہیں۔

دقیق بمعنی خفی، اسی خلاف الظاہر، اس سے مراد وہ مسائل ہیں جو مبنی بر استحسان ہیں اور تحقیق و تعمق کے بغیر پلے نہیں پڑتے۔

جلی اور دقیق دونوں کی مشترکہ مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک کنوپس میں میٹنگی گرگئی تو اب قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ پورا پانی ناپاک ہو جائے، کیوں کہ نجاست ماء قلیل میں گری ہے، لیکن استحسان کا مقتضی یہ ہے کہ پانی ناپاک نہ ہو، اس لیے کہ چو پائے جنگلات وغیرہ کے کنوؤں کے آس پاس آکر میٹنگی کر دیتے ہیں جو ہواؤں کے رحم و کرم سے کنوپس میں جا پڑتی ہیں، اس لیے اب اس طرح کی صورت حال میں قلیل و کثیر کو معیار بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر نجاست کثیر ہے تب تو معاف نہیں ہے، ہاں اگر قلیل اور تھوڑی ہے تو بر بنائے ضرورت اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ (بنایہ)

الحوادث، حادثہ کی جمع ہے بمعنی واقعہ، یہاں اس سے وہ مسائل مراد ہیں جو عوام الناس کے مابین واقع ہوتے رہتے ہیں۔

متعاقبہ باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی لگا تار آنا، پے در پے آنا، یکے بعد دیگرے آنا۔

غیر أن الحوادث الخ یہ عبارت مقدمے کی پہلی عبارت حتی وضوعاً سے مستثنیٰ ہے، اور اس استثناء میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب سابقہ مجتہدین ظاہر اور غیر ظاہر ہر طرح کے مسائل کا استخراج و استنباط کر چکے ہیں، تو بعد والوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا، پھر کیوں بعد میں لوگ اس کام سے وابستہ ہوئے۔ اور تو اور آپ نے کیوں ہدایہ جیسی معرکتہ الآراء شرح لکھ دی۔

صاحب کتاب یہاں سے اسی کا جواب دے رہے ہیں جو جواب ہونے کے ساتھ ساتھ کفایۃ المنتہیٰ اور ہدایہ وغیرہ کی وجہ تصنیف بھی ہے، گویا صاحب کتاب نے اس موقع پر ایک ہی تیر سے دو شکار کر کے مسائل اور معترض کو چاروں خانے چت کر دیا ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے ہر چند کہ پیش رو مجتہدین نے استخراج و استنباط جیسی دنوار گزار وادیوں کو عبور کر لیا ہے اور اپنے وقت، حالات اور زمانے کے اعتبار سے اس سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، مگر پھر بھی زمانے کی تبدیلی، وقت کی برق رفتاری اور حالات کی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے قیام قیامت تک نئے مسائل جنم لیتے رہیں گے اور ہر دور کے علماء کا یہ فریضہ ہوگا کہ وہ حالات سے آگاہ رہیں اور قرآن وحدیث کی روشنی میں زمانے کے رنگ و روپ کو بھانپ کر مسائل کے استخراج و استنباط میں لگ جائیں۔

النوازل، نازلۃ کی جمع ہے، بمعنی لوگوں کے امور و معاملات النوازل، الحوادث پر معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب

نطاق بکسر النون بمعنی منطقہ، علاقہ، حلقہ، ایریا یہاں نطاق سے وہ جوابات مراد ہیں جو حضرات سلف سے فتاویٰ میں منقول ہیں، اور ضیق النطاق کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیگر معاملات میں ایک علاقے اور حلقے کے تمام تر مسائل کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح متقدمین حضرات سے بھی جملہ حوادث و نوازل کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے، کیوں کہ ہر آن ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔

اقتصاص، اقتنص اقتناصا باب افعال بمعنی شکار کرنا، الشوارد شاردة کی جمع ہے بمعنی بھاگی ہوئی اونٹنی، بدکنے والی اونٹنی۔ الاقتباس، باب افعال سے بمعنی لینا، اخذ کرنا۔ الموارد، مورد کی جمع بمعنی مقامات، مراد اصول ہیں۔ اس پوری تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بھاگے اور بدکنے ہوئے جانور کو پکڑنا اور اس کا شکار کرنا انتہائی دشوار گزار کام ہے، ٹھیک اسی طرح اصول اربعہ سے مسائل کا استخراج و استنباط بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، (ہر مدعی کے واسطے دار و درن کہاں) اس کام کو وہی انجام دے سکتا ہے جسے مبدأ فیض سے بیدار مغزی، حاضر باشی اور بالغ نظری عطاء کی گئی ہو، اسی کا بیان والاعتبار بالامثال من صنعة الرجال میں ہے، اعتبار باب افعال کا مصدر ہے بمعنی رَكُ الشئِ اِلَى نظیرہ یعنی ایک چیز کو اس کی ہم مثل دوسری چیز پر قیاس کرنا۔

امثال بکسر الیم مثل کی جمع ہے جیسے اَشْبَاهٌ بِشَبِّهِ کی جمع ہے، بمعنی مشابہ اس سے مقیس علیہ مراد ہے، مَاخِذْ مَاخِذْ کی جمع ہے بمعنی اصل، طریقہ۔ يَعْصُ عَصًا (ن) کاٹنا، فواجذ ناجذ کی جمع ہے بمعنی داڑھ کا آخری حصہ عض بالنواجذ کے ذریعہ ضبط و اتقان کے کمال سے کنایہ کیا گیا ہے۔

علامہ ابن الہمام اور صاحب بنایہ کی تحقیق یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے والا اعتبار بالامثال الخ سے اپنی بے بضاعتی اور کسر نفسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ باور کرایا ہے کہ استخراج و استنباط کے میدان میں قدم رکھنا بڑے جگر گردے کا کام ہے اور مجھ جیسے نحیف و ناتواں کے لیے اس میدان میں قدم رکھنا تو درکنار اس حوالے سے سوچنا بھی تعجب خیز ہے، مگر چون کہ ہدایہ البتدی کے آغاز میں اس موضوع پر کچھ کام کرنے کا وعدہ کر آیا ہوں، اس لیے جو کچھ بھی ہے، خود سرائی اور احساس دانائی کے بغیر اسی وعدے کی سمت ایک قدم ہے، اللہ کرے کہ میرے قدم اور قلم دونوں لغزشوں اور ٹھوکروں سے محفوظ رہیں اور میرے ذہن و دماغ کی پونجی صحیح سالم رہے، تاکہ اپنے وعدے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔

یسوغ یہ بڑا متازع فعل ہے، صاحب بنایہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ باب نضر ہے، لہذا اسے محفف (يَسُوغُ) پڑھا جائے، جب کہ علامہ ابن الہمام وغیرہ کے یہاں اسے باب تفعیل سے مان کر يَسُوغُ پڑھا گیا ہے، بہر دو صورت اس کے معنی ہیں مباح کرنا، مہلت دینا، یہاں مفہوم یہ ہے کہ اپنے عدے کے مطابق میں کفایۃ السنہ کی تشریح و توضیح میں لگ گیا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تکمیل کب ہوتی ہے، کیوں کہ وعدہ تو بہر حال وعدہ ہی ہوتا ہے۔

أتكى عنه إتكاء الفراغ اصل میں إتكاء الفراغ عنه ہے، مگر المساغ اور الفراغ میں رعایت جمع کے پیش نظر عنه کو مقدم کر دیا گیا ہے، إتكاء بمعنی ٹیک لگانا، سہارا لینا، یہ ایک محاورہ ہے جو کسی بڑے کام سے فارغ ہونے پر بولا جاتا ہے۔ نَبَذَ مصدر بمعنی معمولی سا، تھوڑا، الاطناب، مبالغہ، کثرت، اطناب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارف بها، کھودا پہاڑ نکلی چوبیا۔



الکتاب، یہاں اس سے کفایۃ المنتہی مراد ہے۔  
العنان بکسر العین گھوڑے کی لگام، جمع أَعْنَة یہاں اس سے دل کی توجہ مراد ہے۔ عیون الروایۃ، عُیُون عَیْن کی جمع ہے بمعنی عمدہ، پسندیدہ، الروایۃ، رَوَای (ض) کا مصدر ہے بمعنی مرویات، عیون الروایۃ سے علمائے مجتہدین کی پسندیدہ مرویات مراد ہیں۔

متون، متن کی جمع ہے بمعنی قوی، مضبوط، مستحکم، الدرایۃ دری (ض) کا مصدر ہے بمعنی جاننا، متون الدرایۃ سے مضبوط و مستحکم نکات مراد ہیں۔ (بنایہ، فتح القدر)

اسہاب باب افعال کا مصدر ہے بمعنی اِکْثَار یعنی بات کو طول دینا۔ تَنْسَحِب انْسَحَب انْسَحَابَا باب افعال بمعنی گھسٹنا، کھینچنا مراد متضرع ہونا۔ سَمَتْ سَمَى سَمَوَا (ن) بلند ہونا، الھَمَّة بکسر الباء عزم، حوصلہ، ارادہ، جمع هَمَم۔ الأطول والاکبر اس سے کفایۃ المنتہی مراد ہے، جب کہ الأصغر والأقصر سے الھدایۃ مراد ہے۔ أعجله أعجل (افعال) جلدی کرانا أعجل أحدا الوقت، جس سے وقت جلد بازی کرائے، مراد مہلت نہ دے۔ وللناس فیما یعشقون مذہب یہ عربی کے مشہور شاعر ابو فراس کے کہے ہوئے شعر کا دوسرا مصرع ہے اور پورا شعر یوں ہے:

وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا  
وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعُشِقُونَ مَذَاهِبُ

الفن سے بعض لوگ ہر شخص کا پسندیدہ فن مانتے ہیں، اس لیے کہ جو شخص جن فن سے لگاؤ رکھتا ہو، وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے۔ لیکن علامہ ابن الہمام وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے فن فقہ مراد ہے۔

أقاول من المقاولۃ باب مفاعلتہ سے بمعنی بحث و مباحثہ کرنا، یہاں کہنا اور املاء کرنا مراد ہے۔

أحاول من المحاولۃ (مفاعلتہ) بمعنی کوشش کرنا، ارادہ کرنا۔ متضرع أصيغۃ اسم فاعل من التضرع (تفعل) عاجزی

کے ساتھ کوئی چیز طلب کرنا، عاجزانہ درخواست کرنا۔

صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی اپنی تہی دامن اور کسر نفسی کا اظہار کر چکے ہیں، اخیر میں تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے ایک بار پھر یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے جو کچھ بھی بن سکا ہے اس کی انجام دہی میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا گیا ہے۔ اب آگے کا مرحلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ فارغ البال ہیں، آپ کے پاس وقت کا سرمایہ موجود ہے اور تعلیم و تعلم کے ذرائع ہم دست ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شرح اکبر (کفایۃ المنتہی) کو اپنے مطالعے اور ملاحظے کا محور بنائیں، اور اگر آپ تنگی وقت کا شکار اور نامساعد حالات سے بیزار ہیں تو پھر شرح اصغر (الہدایۃ) سے بھرپور استفادہ کریں، اس کے ہر باب کو اپنے ذہن و دماغ کے قالب میں اتارنے اور اس کے ہر پھول سے رس چوسنے کی کوشش کریں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# کِتَابُ الطَّهَارَاتِ

یہ کتاب احکام طہارت کے بیان میں ہے

عربی شارحین نے اس موقع پر بڑی معرکہ الآراء بحثیں کی ہیں، جو اتنی طویل اور دراز نفس ہیں کہ اگر من وعن انہیں قید تحریر میں لایا جائے تو شاید ابھی سے ہدایہ کے طلباء اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، اس لیے اختصار کے ساتھ ضروری اور اہم مباحث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے جو کتاب الطہارات کا عنوان قائم کیا ہے، اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں تین اقوال ذکر کیے گئے ہیں:

- ① یہ جملہ، مبتدا محذوف ہذا کی خبر ہے اور پوری عبارت یوں ہے ہذا کتاب الطہارات۔
- ② یہ جملہ خود مبتدا ہے اور اس کی خبر ہذا محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی کتاب الطہارات ہذا۔
- ③ یہ جملہ کسی فعل محذوف کا مفعول بہ واقع ہے اور اصل عبارت خذ کتاب الطہارات ہے، ان تینوں میں پہلا قول زیادہ بہتر ہے اور وہی دل کو بھاتا بھی ہے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے عنوان میں کتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، باب وغیرہ کو نہیں ذکر کیا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا لفظ عام ہے جو باب اور فصل سب کو شامل ہے، عام طور پر اس طرح کی کتابوں میں تین الفاظ سے عناوین قائم کیے جاتے ہیں: ① کتاب ② باب ③ فصل۔

- ① کتاب اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں مختلف الاجناس اور متحد الانواع مسائل کو ذکر کیا جائے۔
- ② باب اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں مختلف الانواع اور متحد الاشخاص مسائل کو بیان کیا جائے۔ اور
- ③ فصل اس مجموعے کا نام ہے جس میں متحد الاشخاص مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔

کتاب کے لغوی معنی ہیں جمع ہونا، اس لیے کہ اس میں لاتعداد حروف جمع ہوتے ہیں۔ اور اصطلاح میں عنوان لمسائل

مستقلة یعنی اس مجموعے کا نام ہے جس میں مستقل اور بالذات مسائل کو جمع کیا گیا ہو۔ (کذا فی الدر المختار)

(۳) تیسری بات طہارات سے متعلق ہے، طہارات طہارۃ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں نظافت، پاکی، صفائی، اسی لیے طہارت کو وضو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اصطلاح میں الطہارۃ عبارة عن صفة تحصل لمزيل الحدث أو الخُبث، یعنی طہارت اس وصف کا نام ہے جو حدث یا جنابت دور کرنے کے لیے حاصل کیا جائے۔ یہ لفظ جس طرح بفتح الطاء پڑھا جاتا ہے، اسی طرح بضم الطاء طہارۃ بمعنی وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جائے اور بکسر الطاء طہارۃ بمعنی آلہ نظافت بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور چون کہ طہارت کی بہت ساری قسمیں اور شکلیں ہیں اسی وجہ سے صاحب کتاب نے طہارات کو جمع کے صیغے سے بیان کیا ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن اور عبادت نماز ہے جو صرف اور صرف خالص اللہ کا حق ہے اور قرآن کریم کی آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا کامل مصداق ہے، اس لیے ابتداء اور آغاز تو اسی سے ہونا چاہیے تھا، مگر چون کہ طہارت نماز کی شرط ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ شرط الشيء يتقدم على ذلك الشيء (یعنی شرطی شئی پر مقدم ہوتی ہے) اور پھر حدیث پاک میں بھی مفتاح الصلاة الطهور فرما کر طہارت کے تقدم اور اس کی اولیت کو آشکارا کر دیا گیا ہے، اسی لیے صاحب کتاب بھی طہارۃ ہی سے اپنی اس عظیم کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں۔ (بحوالہ: بنایہ، فتح القدر، عنایہ)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [سورة المائدة] الْآيَةَ فَقَرُضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ. بِهَذَا النَّصِّ، وَالغَسْلُ هُوَ الْإِسْأَلَةُ، وَالْمَسْحُ هُوَ الْإِصَابَةُ، وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى أَسْفَلِ الدَّقْنِ وَإِلَى شَحْمَتِي الْأُذُنَيْنِ، لِأَنَّ الْمَوَاجِهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُسْتَقْبَلٌ مِنْهَا.

**ترجمہ:** اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو (الآیۃ) لہذا تینوں اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا اس نص قرآنی کی رو سے وضو کے فرائض میں داخل ہے۔ اور غسل پانی بہانے کا نام ہے اور مسح پانی پہنچانے کا نام ہے۔ اور چہرے کی حد بال اگنے کی جگہ سے لیکر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی دونوں لوتک ہے، اس لیے کہ مواجہۃ ان تمام سے حاصل ہوتی ہے اور وجہ مواجہت ہی سے مشتق ہے۔

### اللغات:

﴿إِسْأَلَةُ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ پانی وغیرہ کو بہانا، گرانا، اٹھیلنا۔ ﴿إِصَابَةُ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ پہنچانا، لگانا۔ ﴿قُصَاصِ﴾ بال اگنے کی جگہ۔ ﴿دَقْنِ﴾ ٹھوڑی۔ ﴿شَحْمَةِ﴾ کان کا نرم حصہ۔

### وضو کی فرضیت اور فرائض کا بیان:

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاحب کتاب کی بیان کردہ آیت فرضیت وضو پر دلیل ہے، فرضیت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور

ضابطے کے تحت دلیل کو دعوے سے مؤخر ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی دو وجہوں سے یہاں دعوے پر دلیل کو مقدم کیا گیا ہے (۱) یہ آیت طہارت کے جملہ مسائل کے استنباط و استخراج کے لیے اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور ظاہر ہے عمارت کی بناء سے پہلے نہ صرف یہ کہ بنیاد تعمیر کی جاتی ہے، بل کہ ہر طرح سے اسے محکم اور مستحکم بھی کیا جاتا ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے تیمن اور تبرک کے طور پر اس آیت کو دعوے سے پہلے بیان کیا ہے۔ بہر حال فقہائے کرام نے اسی آیت کے ذریعے وضو کے فرائض اربعہ کی تعیین و تحدید فرمائی ہے اور امت کے سامنے اپنا یہ متفقہ فیصلہ سنایا ہے کہ وضو میں چار چیزیں فرض ہیں (۱) چہرے کا دھونا (۲) دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا (۳) سر کا مسح کرنا (۴) دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ چونکہ آیت میں غَسْل اور مَسْح دو طرح کے لفظ وارد ہوئے ہیں، اس لیے صاحب ہدایہ دونوں کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غَسْل کے معنی ہیں پانی بہانا، یعنی اعضائے وضو پر اتنی مقدار میں پانی ڈالا جائے کہ وہ پانی پورے عضو کو تر کر دینے کے بعد وہاں سے بہنے اور ٹپکنے لگے، واضح رہے کہ یہ لفظ غین کے فتح کے ساتھ غَسْل بمعنی دھونا ہے، ورنہ غین کے ضمے کے ساتھ غَسْل کے معنی ہیں نہانا، پورے بدن کو دھونا، اور غین کے کسرہ کے ساتھ غَسْل صابون اور عطمی وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہے۔

دوسرا لفظ ہے مَسْح اس کے لغوی معنی ہیں پونچھنا، رگڑنا، صاحب کتاب نے إصَابَة بمعنی پہنچانا جو مسح کا معنی بیان کیا ہے وہ لغوی نہیں، بل کہ مرادی معنی ہے، اس لیے کہ کوئی چیز اسی وقت پونچھی جائے گی جب اس پر دوسری چیز کو لاکر پہنچایا اور گھمایا جائے۔  
وحد الوجه الخ یہاں سے صاحب کتاب چہرہ کی حد بندی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سر کے بال اُگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں جو حصہ موجود ہے وہی چہرہ کہلاتا ہے اور وضو میں اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے، اس پورے حصے کے چہرہ میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وجہ مواجہت سے مشتق ہے اور مواجہت اسی حد سے ثابت ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے۔

آیت وضو میں جو حکم دیا گیا ہے وہ مطلق اور عام نہیں ہے کہ جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ با وضو ہو یا بے وضو ہو جیسا کہ اصحاب ظواہر کا یہی مذہب ہے، بل کہ یہ آیت اور اس میں بیان کردہ حکم ”محدث“ کی قید کے ساتھ مقید ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُحَدَّثُونَ فَاغْسِلُوا الْخُ۔ اگر ایسا نہ مانا جائے تو ہر با وضو شخص کے لیے قیام إلى الصلوة کے وقت وضو کرنا ضروری ہوگا ہر چند کہ وہ پہلے سے با وضو ہو۔ اس طرح وضو پر وضو کر کے انسان حرج میں مبتلا ہوگا اور مقصود اصلی کو کما حقہ نہیں ادا کر پائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دلالة النص کے ذریعے وجوب وضو کے لیے حدیث شرط ہے اور دلالة النص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فميموا صعيداً طيباً میں تیمم کو اصغر اور اکبر دونوں کے ساتھ ملایا ہے اور یہ آسانی مہیا فرمائی ہے کہ اے میرے بندو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کر لو، خواہ تم محدث ہو یا جنبی ہو۔ اس آیت سے وجہ استدلال باس طور ہے کہ تیمم وضو کا نائب اور بدل ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز بدل میں منصوص ہوتی ہے وہ اصل میں بھی منصوص ہوتی ہے، لہذا جب تیمم کے سلسلے

میں نص موجود ہے تو وضو کے سلسلے میں تو بدرجہ اولیٰ نص موجود مانی جائے گی۔ اور چون کہ بدل یعنی تیمم میں حدیث کی صراحت ہے، اس لیے اصل یعنی وضو میں بھی اس صراحت کی رعایت کی جائے گی۔

رہا یہ سوال کہ پھر آیت وضو میں محدثوں کو مقدر کیوں مانا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت طہارۃ کو حدیث کے ساتھ ملا کر ذکر کرنے کو مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھا گیا، اسی لیے محدثوں کو مقدر مان لیا گیا۔ (عمانیہ)

﴿وَالْمُرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغُسْلِ﴾ عِنْدَنَا خَلَاْفًا لِرُفْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هُوَ يَقُولُ الْغَايَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتِ الْمَغْيَا كَاللَّيْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ، وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ لِاسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا، إِذْ لَوْلَاهَا لَأَسْتَوْعَبَتِ الْوَضِيْفَةُ الْكُلَّ، وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إِلَيْهَا، إِذِ الْإِسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً، وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِيءُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَمِنْهُ الْكَاعِبُ .

**ترجمہ:** دونوں کہنیاں اور دونوں ٹخنے ہمارے یہاں غَسْل (دھونے) میں داخل ہیں، امام زفر کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غایت مغیا کے تحت داخل ہی نہیں ہوتی جیسا کہ باب صوم میں لیل ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غایت اپنے علاوہ کو ساقط کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر غایت کا تذکرہ نہ ہوتا تو وظیفہ غَسْل پورے ہاتھ کو شامل ہوتا۔ اور روزے کے باب میں غایت لیل تک حکم کو کھینچ کر لے جانے کے لیے ہے، کیوں کہ (کھانے، پینے اور جماع کرنے سے) تھوڑی دیر رکنے پر بھی صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور کعب وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہی صحیح ہے اور اسی سے کاعب مشتق ہے۔

## اللغات:

﴿مُرْفَقٌ﴾ کہنی۔ ﴿كَعْبٌ﴾ ٹخنہ۔ ﴿غَايَةٌ﴾ انتہاء۔ ﴿مَغْيَا﴾ ابتداء سے لے کر انتہاء سے پہلے تک۔ ﴿وَضِيْفَةٌ﴾ مقدار لازم، مقرر مقدار۔ ﴿عَظْمٌ﴾ ہڈی۔ ﴿نَاتِيءٌ﴾ ابھرا ہوا، اونچا۔

## کہنیوں اور ٹخنوں کے وضو میں داخل ہونے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات فقہاء اس باب پر تو متفق ہیں کہ وضو میں دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کا دھونا فرض ہے، لیکن ہاتھ اور پیر کی حد بندی میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، چنانچہ اس سلسلے میں امام صاحب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، صاحبین، امام شافعی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اور امام احمد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے جائیں گے، اسی طرح پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ اور ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے، امام مالک رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بھی ایک روایت میں اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کے برخلاف شہنشاہ قیاس حضرت امام زفر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر علی الترتیب کہنیوں اور ٹخنوں تک ہی دھوئے جائیں گے اور کہنیوں اور ٹخنوں کا دھونا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ یہی امام مالک کی ایک روایت ہے۔ (بنایہ)

امام زفر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد بیان کی جاتی ہے وہ مغیا اور محدود میں داخل نہیں ہوتی، ورنہ تو حد اور غایت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیا دیکھتے نہیں کہ روزے کے باب میں أتموا الصيام إلى الليل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے

لیل کو صوم کی حد اور غایت قرار دیا ہے اور ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ روزہ صرف دن ہی میں رکھا جاتا ہے، رات اس میں داخل نہیں ہوتی۔ لہذا جس طرح لیل صوم میں داخل نہیں ہے، اسی طرح مرفق اور کعب بھی غسل ید اور رجل میں داخل اور شامل نہیں ہوں گے۔

ولنا الخ ہماری دلیل یہ ہے کہ صاحب، غایت کی دو قسمیں ہیں (۱) غایت اثبات (۲) غایت اسقاط، غایت اثبات کا مطلب یہ ہے کہ غایت حکم میں شامل نہ ہو مگر اس حکم کو کھینچ کر اپنے مغیا تک پہنچا دے، اور غایت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ غایت خود تو حکم میں شامل ہو، لیکن اپنے علاوہ کو اس حکم میں شامل نہ ہونے دے، بل کہ کنارے کر دے۔ اب غایت اثبات اور اسقاط کے فیصلے کا دارومدار صدر کلام پر ہے، یعنی اگر صدر کلام (ابتدائی کلام) بالفاظ دیگر مغیا غایت کی جنس سے ہے تو وہ غایت، غایت اسقاط کہلائے گی اور حکم میں شامل ہوگی۔ اور اگر مغیا غایت کی جنس سے نہ ہو تو پھر وہ غایت غایت اثبات کہلائے گی اور حکم میں داخل نہیں ہوگی۔

اس تجزیے کے بعد ہم دیکھتے ہی کہ صورت مسئلہ میں مرفق اور کعب دونوں ید اور رجل کی جنس سے ہیں، لہذا ان کی غایت، غایت اسقاط کہلائے گی اور مغیا کے حکم میں داخل ہوگی، اور چون کہ مغیا یعنی ید اور رجل کا دھونا وضو میں ضروری ہے، لہذا ان کی غایت یعنی مرفق اور کعب کا دھونا بھی ضروری اور لابدی ہوگا۔ البتہ مذکورہ غایت چوں کہ غایت اسقاط ہے، اس لیے مرفق اور کعب کے علاوہ دیگر حصے مغیا کے حکم سے خارج ہو جائیں گے اور ان کا دھونا ضروری نہیں ہوگا، صاحب ہدایہ نے اذلولوھا الخ سے اسی کو بیان کیا ہے۔

اس کے برخلاف لیل چوں کہ صوم کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے اتموا الصیام الی اللیل والی غایت، غایت اثبات ہوگی اور غایت اثبات میں غایت مغیا کے حکم میں شامل اور داخل نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی لیل صوم میں داخل نہیں ہوگی، اور آپ کا مرفقین وغیرہ کو اس پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ البتہ لیل والی غایت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حکم صوم کو اپنے تک کھینچ لائے گی یعنی رات صوم میں داخل تو نہیں ہوگی، مگر صوم رات تک کا ہی ہوگا اور سورج ڈوبنے نیز رات آنے سے پہلے روزہ مکمل نہیں ہوگا، جس کے ہم بھی قائل ہیں۔

وفي باب الصوم الخ ہر چند کہ اس کی تشریح صورت مسئلہ کے ضمن میں آچکی ہے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے مختصراً عرض یہ ہے کہ اس عبارت سے صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ اتموا الصیام الخ میں جو غایت ہے وہ غایت اثبات ہی ہے اور اس کا صاف سیدھا مطلب وہی ہے جو ہم نے سمجھا اور بیان کیا ہے کہ یہ غایت حکم صوم کو لیل تک کھینچنے اور دراز کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ مانا جائے تو لیل کو صوم میں داخل ماننا پڑے گا، کیوں کہ بہ نیت صوم کھانے، پینے اور جماع سے تھوڑی دیر رکنے کا نام بھی روزہ ہے، جب کہ لیل میں کوئی روزے کا قائل نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خرابی یہ لازم آئے گی کہ پھر لیل میں بھی تحقق صوم کا قائل ہونا پڑے گا، حالانکہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔

والکعب الخ صاحب ہدایہ کعب یعنی ٹخنے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پنڈلی سے نیچے جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہی کعب کہلاتی ہے اور اس سلسلے میں یہی قول مختار اور صحیح ہے، صاحب کتاب نے ہو الصحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا

ہے جسے ہشام نے حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ کعب اس جوڑ کا نام ہے جو وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں اسی کعب سے کاعب مشتق ہے، کاعب اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کعب نخنے ہی کو کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے۔

﴿قَالَ وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارِ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ﴾ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضی اللہ عنہ  
 أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَتَى سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَخُفْيِهِ، وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ فَالْتَحَقَ بِبَيَانِ  
 بِهِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رضی اللہ عنہ فِي التَّقْدِيرِ بِثَلَاثِ شَعْرَاتٍ، وَعَلَى مَالِكٍ رضی اللہ عنہ فِي الْإِسْتِعَابِ،  
 وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَدْرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِثَلَاثِ أَصَابِعِ الْيَدِ، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْآلَةِ الْمَسْحِ .

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ سر کے مسح میں ناصیہ کی مقدار فرض ہے اور وہ چوتھائی سر ہے، اس حدیث کی وجہ سے جسے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھور پر تشریف لائے، آپ نے پیشاب کیا، وضو کیا اور اپنی ناصیہ اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ اور قرآن کریم کی آیت مجمل ہے، لہذا یہ حدیث بیان بن کر اس کے ساتھ لاحق ہوگئی۔ اور یہ حدیث تین بالوں کے ساتھ اندازہ لگانے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور استیعاب کی شرط لگانے میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے خلاف حجت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہمارے چند احباب نے ہاتھ کی تین انگلیوں کے ساتھ مقدار ناصیہ کا اندازہ لگایا ہے، اس لیے کہ تین انگلیاں آگے مسح میں اصل (ہاتھ) کا اکثر حصہ ہیں۔

### اللغات:

﴿ناصیة﴾ ہاتھ، پیشانی۔ ﴿سباطة﴾ گندگی، اروڑی، گندگی ڈالنے کی جگہ۔ ﴿تقدیر﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ مقرر کرنا، حد بندی کرنا۔

### تخریج:

① اخرجہ الإمام المسلم فی کتاب الطہارات، حدیث رقم: ۸۳۔  
 و أبو داؤد فی السنن کتاب الطہارة، باب رقم ۸۵ و أيضا ابن ماجہ فی الطہارة باب رقم ۸۹۔

### مسح راس کی فرض مقدار کا بیان:

صورت مسئلہ کی توضیح و تشریح سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ناصیہ کے معنی ہیں پیشانی، اور کونہ، کنارہ جمع ناصیات، سباطة بضم السین ہے اس کے اصل معنی ہیں کوڑا، کرکٹ، لیکن ذکر الحال و إرادة المحل کے قبیل سے سباطة سے یہاں گندگی اور غلاظت ڈالنے کی جگہ مراد ہے۔  
 صاحب ہدایہ ہاتھ اور پیر وغیرہ کے احکام بیان کرنے کے بعد یہاں سے وضو کے چوتھے فرض یعنی مسح کی مقدار اور اس

حوالے سے حضرات فقہاء کی قائم کردہ دیوار اور اس کی حد بندیوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں علی الاطلاق چوتھائی سرکاسح کرنا فرض ہے خواہ جس سمت سے بھی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مطلق سرکاسح فرض ہے، خواہ ایک بال کا ہو یا تین بال کا، امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ پورے سرکاسح فرض ہے، اگر تھوڑا سا حصہ بھی باقی رہ گیا تو مسح نہیں ہوگا۔

اس سلسلے میں اصل اور بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت ہے وامسحوا برؤسکم اور یہی آیت تمام فقہاء کا مستدل ہے، البتہ وجہ استدلال اور طریقہ استدلال میں اختلاف ہے، امام مالک کا وجہ استدلال یہ ہے کہ برؤسکم میں ب زائدہ ہے، اور اصل حکم وامسحوا برؤسکم کا ہے، رؤس راس کی جمع ہے اور راس پورے سر کو کہتے ہیں نہ کہ بعض کو، لہذا پورے سرکاسح فرض ہوگا نہ کہ تہائی اور چوتھائی کا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ مذکورہ آیت مسح راس کے سلسلے میں مطلق ہے، اور اس میں مقدار ناصیہ یا استیعاب وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا جب یہ مطلق ہو تو المطلق یجوز علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت مطلق راس کا مسح فرض ہوگا، خواہ ایک بال پر مسح کیا جائے یا تین بالوں پر بہر صورت فرض ادا ہو جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ آیت مطلق نہیں، بل کہ مجمل ہے۔ اور مجمل وضاحت اور بیان کا متقاضی ہوتا ہے، اور آیات قرآنیہ کی سب سے عمدہ توضیح و تشریح احادیث سے ہوتی ہے، چنانچہ غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت جو کتاب میں مذکور ہے وہ اس اجمال کی اچھی تفصیل ہے اور اس کے علاوہ حضرت حذیفہ کے حوالے سے بخاری و مسلم کی یہ حدیث اثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم فبال قائم نام دعا بماء فجنتہ بماء فتوضا اور حضرت انس سے مروی ابوداؤد کی یہ روایت رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا وعليه عمامة قطرية فادخل يديه من تحت العمامة فمسح مقدم راسه بھی اس سلسلے میں نہایت مفصل اور واضح ہیں اور اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ مسح راس میں استیعاب یا اطلاق نہیں ہے، بل کہ صرف اور صرف چوتھائی سرکاسح فرض ہے۔

ہو حجة الخ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ وغیرہ کی احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں کے خلاف حجت ہیں، اس لیے کہ بقول امام مالک اگر استیعاب ضروری ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی سرکاسح پر اکتفاء کر کے اپنی امت کو اندھیرے میں نہ رکھتے۔

اسی طرح اگر ربع راس سے کم پر مسح کا جواز ہوتا تو بیان جواز کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربع راس سے کم پر مسح فرماتے، حالاں کہ پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ چوتھائی سر سے کم پر مسح درست نہیں ہے۔ اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احناف کا مذہب درست ہے، کیوں کہ یہ استیعاب اور اطلاق دونوں سے ہٹ کر بین بین ہے اور خیر الامور اوساطہا کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔

وفي بعض الخ فرماتے ہیں کہ علمائے احناف میں سے کچھ لوگوں نے تین انگلیوں کو مقدار ناصیہ کی مقدار بتلایا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے مسح کا آلہ ہاتھ ہے اور انگلیوں ہی سے مسح کیا جاتا ہے، لہذا اب اگر کوئی تین انگلیوں کی مقدار مسح کر لیتا ہے تو للاکثر حکم الکمل والے قاعدے کے تحت اس کے مسح کو شرعاً درست اور معتبر مان لیا جائے گا۔ بعض الروایات سے نوادرات میں امام محمد کی مرویات مراد ہیں۔ (بنا یہ شرح عربی ہدایہ)



﴿قَالَ وَسُنُّنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّعُ مِنْ نَوْمِهِ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ①  
 إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمَسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ،  
 وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةَ التَّطْهِيرِ فَيَسُنُّ الْبُدَايَةَ بِتَنْظِيفِهَا، وَهَذَا الْغُسْلُ إِلَى الرَّسْغِ بِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ جب وضو کنندہ نیند سے بیدار ہو تو اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے انھیں دھونا وضو کی سنتوں میں سے (ایک سنت) ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈبوئے، یہاں تک کہ اسے تین مرتبہ دھولے، کیوں کہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گذاری ہے۔

اور اس لیے بھی کہ ہاتھ پاک کرنے کا آلہ ہے، لہذا شروع میں اس کا بھی صاف پاک کرنا مسنون ہوگا۔ اور یہ غسل گٹوں تک ہے، اس لیے کہ گٹوں تک دھلنے سے پاکیزگی میں کفایت ہو جاتی ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿إِنَاءٌ﴾ برتن۔ ﴿اسْتَيْقَظَ﴾ باب استفعال؛ جاگنا، جاگا۔ ﴿يَغْمَسَنَّ﴾ غَمَسَ يَغْمِسُ، باب ضرب؛ ڈبونا، پانی میں ڈالنا۔ ﴿بَاتَتْ﴾ بات بیبت، باب ضرب؛ رات گزاری۔ ﴿تَنْظِيفٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا۔ ﴿رَسْغٌ﴾ کٹائی کی ابھری ہوئی ہڈی، گٹ۔

## تخریج:

① هذا الحديث فدا تفق عليه أصحاب الكتب الستة فأخرجه البخاري في الوضوء، باب رقم: ١٦.

و مسلم في الطهارات حديث رقم ٨٧ و ابوداؤد في الطهارة باب ٨٩ و ترمذی في الطهارة باب ١٩.

## وضو کی سنتیں:

صاحب کتاب نے اس سے پہلے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے وضو کی سنتوں کو بیان کر رہے ہیں اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرائض کا مقام و مرتبہ سنت کے مقابلے بڑھا ہوا ہے، اس لیے الاولی فالاولیٰ کے تحت پہلے فرائض کو بیان کیا، پھر سنن کی طرف متوجہ ہوئے۔

سُنُّنُ سَنَةِ كِي جَع هِي بِمَعْنَى طَرِيقَةٍ، اصْطِلَاحٌ مِّنَ الطَّرِيقَةِ الْمَسْلُوكَةِ فِي الدِّينِ، دِينٌ مِّنْ رَّانِحٍ طَرِيقَةٍ كَانَامُ سَنَةِ هِي۔ صَاحِبٌ بَنَا يَهُ نِي سَنَةٍ كِي تَعْرِيفُ يُونِ كِي هِي مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَتْرَكَهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، لِيَعْنِي سَنَةً اِيَا طَرِيقَةً هِي كِي اِيَكُ دَوْمَرْتَبَةٍ كِي عِلَاوَهُ نَبِي كَرِيمٌ ﷺ اِنِّي كَبَحِي اَسِي تَرَكَ نِي كِيَا هُو۔

اس موقع پر علامہ ابن الہمام، صاحب عنایہ اور صاحب بنایہ وغیرہ نے ایک اور مفید بات تحریر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے فرائض وضو کو بیان کرتے ہوئے ففرض الطہارۃ کہہ کر فرض کو بصیغہ واحد ذکر کیا ہے، جب کہ وضو کی سنتوں کو بیان

کرتے ہوئے سنن جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرض مصدر ہے اور مصادر ثنئیہ، جمع سے پاک ہوا کرتے ہیں، اور ان کا واحد ہی قلیل و کثیر سب کو شامل ہوتا ہے، اس کے بالمقابل سنۃ مصدر نہیں ہے، اسی لیے اس کو صیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔  
دوسری وجہ یہ ہے کہ فرض کے مقابلے سنت کی فروعات اور مشمولات زیادہ ہیں اسی لیے اس کو بصیغہ جمع ذکر کیا، تاکہ جملہ انواع و اقسام کو محیط ہو جائے۔ واللہ اعلم (عناہ، بناہ)

ان تمہیدات کے بعد عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص وضو کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھو لے، اور یہ حکم (غسل ید کا) عام ہے، خواہ وضو کرنے والا سوکر بیدار ہوا ہو، یا پہلے سے بیدار ہو اور وضو کرنے جا رہا ہو، رہا یہ مسئلہ کہ جب یہ حکم عام ہے تو پھر حدیث پاک میں من منامہ کی قید کیوں لگائی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر سونے میں انسان غافل رہتا ہے اور نیند میں ادھر ادھر ہاتھ چلا جاتا ہے، اس لیے تو ہم نجاست کے پیش نظر من منامہ کی قید لگائی گئی، ورنہ اگر نجاست کا یقین ہو تب تو اس کا دھلنا واجب اور ضروری ہوگا، اور تو ہم جس طرح سوئے ہوئے شخص میں موجود ہے، اسی طرح بیدار شخص میں بھی موجود ہے، (بل کہ آج کی دنیا میں بیدار لوگ اس کے زیادہ شکار ہیں) اسی لیے حضرات فقہاء اور ہدایہ کے بیشتر شراح نے من منامہ کی قید کو ”اتفاقی“ مانا ہے۔

بہر حال ہاتھ دھونے کی ایک علت تو وہی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، اور دوسری عقلی علت یہ ہے کہ ہاتھ آگہ تطہیر ہے اور ہاتھ ہی کے ذریعے وضو وغیرہ کے جملہ امور انجام دیے جاتے ہیں، اب اگر ہاتھ ہی صاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بقیہ اعضاء کا کیا حال ہوگا، اس لیے بھی شروع میں ہاتھ کی دھلائی اور اچھی طرح اس کی صفائی ضروری ہے۔

وہذا الغسل الخ فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کا جو حکم ہے وہ گٹوں تک کے لیے ہے، کیوں کہ عام طور پر انگلیوں اور ہتھیلیوں وغیرہ میں ہی نجاست وغیرہ لگتی ہے، اور گٹوں تک دھونے میں یہ سب صاف اور پاک ہو جاتی ہیں، اس لیے حکم غسل گٹوں تک محدود ہوگا۔

﴿ قَالَ وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ، وَالْمَرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَإِنْ سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةٌ، وَيُسَمِّي قَبْلَ الْإِسْتِنْبَاجِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے تسمیہ نہ کیا ہو، اور اس سے فضیلت کی نفی مراد ہے، اور صحیح یہ ہے کہ تسمیہ مستحب ہے، ہر چند کہ قدری میں اس کو سنت کہا ہے، اور استنجاء سے پہلے اور استنجاء کے بعد بھی تسمیہ پڑھے، یہی صحیح ہے۔

**تخریج:**

① أخرجه ابوداؤد في الطهارة باب رقم ٤٨ حديث رقم ١٠١.

و ابن ماجه في الطهارة باب رقم ٤٩ حديث رقم ٣٩٩.



اس قول کی دلیل یہ ہے کہ استنجاء سے پہلے تو اس لیے تسمیہ پڑھے کہ استنجاء وضو کے ملحقات میں سے ہے، لہذا تسمیہ پڑھ لے، تاکہ وضو کا ہر حصہ مع تقدم و تاخر علی التسمیہ واقع ہو۔ اور بعد میں اس لیے پڑھے کہ اب وضو کا آغاز کر رہا ہے اور بہر حال وضو سے پہلے تسمیہ پڑھنا مسنون ہے، اس لیے یہ صورت زیادہ بہتر اور درست ہے۔

﴿وَالسَّوَاكُ﴾ لِأَنَّهُ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُوَاطِبُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْأَصْبِعِ، لِأَنَّهُ ② عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ، ﴿وَالْمُضْمَضَةُ وَالِاسْتِشْقَاقُ﴾ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ③ فَعَلَهُمَا عَلَى الْمَوَاطِبَةِ، وَكَيْفِيَّتَهُمَا أَنْ يُمَضِّمَ ④ ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ كَذَلِكَ هُوَ مَحْكِيُّ مِنْ وَضُوئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

**ترجمہ:** اور مسواک کرنا (بھی سنت وضو ہے) اس لیے کہ آپ ﷺ اس پر ہمیشگی فرماتے تھے، اور مسواک نہ ملنے کی صورت میں انگلی سے کام چلا لے، کیوں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایسا ہی کیا ہے۔

اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، کیوں کہ آپ ﷺ نے پابندی کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ کلی کرے اور ہر بار نیا پانی لے، پھر اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالے، یہی طریقہ آپ ﷺ کے وضو سے نقل کیا گیا ہے۔

### اللغات:

﴿يُوَاطِبُ﴾ باب مفاعلة؛ پابندی کرنا، ایک کام کو ہمیشہ کرنا۔ ﴿يُعَالِجُ﴾ باب مفاعلة؛ کوشش کرنا، تدبیر کرنا، لگا دینا، لگے رہنا۔ مراد انگلی سے ملنا۔

### تخریج:

- ① روى هذا الحديث الإمام البخارى فى الوضوء باب رقم ٣٧ وفى الجمعة باب رقم ٨. و مسلم فى الطهارة حديث رقم ٤٦.
- ② اخرج البيهقى فى السنن الكبرى فى باب الاستياك بالأصابع ج ١ ص ٤١.
- ③ اخرج امام البخارى فى الوضوء باب رقم ٣٩. و مسلم فى الطهارة حديث رقم ١٨. و ابوداؤد فى الطهارة باب رقم ٥١.
- ④ روى هذا الحديث امام طبرانى فى معجم ج ١ ص ٢٣٢.

### وضو میں مسواک کی سنیت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ بوقت وضو مسواک استعمال کی جائے، اس سے سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خود انسان کا اپنا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے منہ کی حفاظت ہوگی، منہ کی بدبو اور دانتوں کی سڑن دور ہوگی اور

وہ شخص ہر مجلس و محفل میں آزاد ہو کر گفتگو کرے گا اور کسی کو بھی اس سے تعفن اور تکدر نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے مسنون ہونے کی دلیل نبی اکرم ﷺ کی جانب سے اس عمل پر ہمیشگی کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے آپ ﷺ نے کبھی کبھار نہیں بھی کیا ہے، نیز ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ایک دیہاتی کو وضو کی تعلیم دی اور اس میں مسواک کا تذکرہ نہیں کیا جب کہ ایک اعرابی اور دیہاتی کو اس کی ضرورت زیادہ ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ عمل مواظبت مع الترتیب کے قبیل سے ہے اور مواظبت مع الترتیب سے سنت کا ثبوت ہوتا ہے، لہذا مسواک کرنا سنت ہے۔

انسان کو چاہیے کہ ہر ممکن اس سنت کا التزام و اہتمام کرے، البتہ اگر کبھی مسواک میسر نہ ہو تو ہاتھ کی انگلیوں سے مسواک کا کام چلا لینا چاہیے، اس لیے کہ مقصود نظافت ہے جو اس سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ نیز اس سلسلے میں صاحب فتح القدر نے بیہمتی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے، ملاحظہ ہو، یجزی من السواک الاصابع یعنی مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلیاں اس کا کام کر دیتی ہیں۔

والمضمضة الخ فرماتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی وضو میں مسنون ہے، اس لیے کہ اس پر بھی آپ ﷺ نے مداومت فرمائی ہے، صاحب فتح القدر علامہ ابن الہمام اور صاحب بنایہ رحمہ اللہ نے تو اس موقع پر تقریباً بائیس صحابہ کرام کے حوالے سے آپ ﷺ کے وضو میں مضمضہ اور استنشاق کا ہونا ذکر کیا ہے۔ (فتح القدر ۲۴۲/۲۳۲ زکریا دیوبند۔ بنایہ ۱۵۱/۱۵۱ بیروت)

ان کے مسنون ہونے کی دوسری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ہماستان فی الوضوء واجبتان فی الغسل یعنی مضمضہ اور استنشاق وضو میں سنت اور غسل میں فرض ہیں۔

و کیفیتہا الخ صاحب کتاب مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ پر نقد اور طنز بھی کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جتنے صحابہ کرام نے آپ ﷺ کا وضو نقل کیا ہے ان میں سے بیشتر نے مضمضہ اور استنشاق کو الگ اور علاحدہ ہی بیان کیا ہے، اس لیے ان کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے تین مرتبہ الگ الگ پانی لے کر کلی کی جائے اور پھر تین مرتبہ علاحدہ علاحدہ پانی لے کر ناک میں ڈالا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی ڈنڈے سے ناک اور منہ دونوں کو بانکا جائے، جیسا کہ شوافع کا یہی مذہب ہے، بل کہ مضمضہ الگ ہوگا اور استنشاق الگ ہوگا۔

اور آپ ﷺ سے جو کہیں ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق دونوں ثابت ہیں وہ بیان جواز کے لیے ہیں، انھیں جواز کی حد تک محدود رکھا جائے اور امت کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو کہالت اور تساہل پر نہ اکسایا جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب ناک اور منہ دونوں مستقل دو عضو ہیں تو پھر انھیں ایک ہی چھری سے کیوں ذبح کیا جائے؟ جس طرح دیگر اعضاء میں ماء جدید لیا جاتا ہے اور انھیں الگ الگ دھویا جاتا ہے، اسی طرح انھیں بھی ماء جدید کے ساتھ الگ الگ کر کے دھویا جائے گا۔

**فائدہ:**

مضمضہ کہتے ہیں منہ میں پانی لے کر ادھر ادھر گھمانا، تاکہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ استنشاق کہتے ہیں ناک

میں پانی ڈال کر ہلکی سانس لینا تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے اور اچھی طرح صفائی ہو جائے۔

استنشاق سے ملتا جلتا ایک لفظ استنثار آتا ہے، اس کے معنی ہیں استنشاق میں جو پانی اوپر چڑھایا گیا ہے اسے باہر

نکالنا۔

﴿وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ﴾ وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، وَالْمَرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُونَ الْخِلْقَةِ .

**ترجمہ:** اور دونوں کانوں کا مسح کرنا (بھی سنت ہے) اور یہ مسح سر کے پانی سے مسنون ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”دونوں کان سر میں سے ہیں“ اور (اس فرمان سے) آپ کی مراد حکم کو بیان کرنا ہے نہ کہ پیدائش کو۔

**تخریج:**

① خرجه الإمام ابو داؤد فی الطہارۃ باب رقم ۵۹.

و الترمذی فی الطہارۃ باب رقم ۲۹.

وابن ماجہ فی الطہارۃ باب رقم ۵۳ حدیث رقم ۴۴۴.

**کانوں کے مسح کی وضاحت:**

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات ائمہ کے یہاں بالاتفاق کانوں کا مسح مسنون ہے، البتہ طریقہ مسح میں اختلاف ہے، چنانچہ احناف کے یہاں کانوں کا مسح سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی سے کرنا مسنون ہے اور مسح اذنین کے لیے ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں جس طرح دیگر اعضاء میں ماء جدید کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح مسح اذنین کے لیے بھی ماء جدید شرط ہے اور سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی کے ذریعے کانوں کا مسح نہیں کیا جائے گا۔

ان حضرات کی دلیل حضرت حبان بن واسع کی روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنہ سمع عبد اللہ بن زید یذکر أنه رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لראسه یعنی عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دوران وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح اذنین کی جو کیفیت بیان کی ہے اس میں مسح کے لیے جو پانی لیا گیا تھا وہ ماء رأس کے علاوہ تھا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مسح اذنین کے لیے ماء جدید ضروری اور مسنون ہے۔

احناف کی پہلی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے الأذنان من الرأس۔ اور بعینہ یہی حدیث ابن ماجہ میں عباد بن تمیم نے حضرت عبد اللہ بن زید کے حوالے سے بیان کی ہے، اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے حکم کو بیان کیا ہے اور یہ اشارہ دیا ہے کہ جب ظاہری احکام میں کانوں کو سر کے تابع اور سر کا بعض اور جز شمار کیا جاتا ہے تو شرعی احکام میں بھی ان کی بعضیت اور جزئیت برقرار رہے گی اور مسح رأس کے لیے لیا گیا پانی مسح

اذین کے لیے بھی کافی و وافی ہوگا، ولا یحتاج المتوضی الی ماء جدید۔ اور آپ ﷺ کے فرمان کو بیان حکم پر اس لیے محمول کیا جا رہا ہے کہ آپ کی بعثت احکام و مسائل کی تشریح و توضیح کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ خلقت اور پیدائش کی وضاحت کے لیے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن الہمام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے جب آپ ﷺ کے ہاتھوں کی تری خشک ہوگئی ہو اور آپ نے ماء جدید لے کر ہاتھوں کو تر کر کے پھر مسح کیا ہو، ورنہ عام حالتوں میں تو یہی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ﷺ مسح رأس ہی سے اذین کا بھی مسح فرمایا کرتے تھے۔

﴿قَالَ وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ﴾ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ① أَمَرَهُ جَبْرِئِيلُ ﷺ بِذَلِكَ، وَقِيلَ هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَانِزٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّ السُّنَّةَ إِكْمَالَ الْفَرَضِ فِي مَحَلِّهِ، وَالذَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرَضِ .

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ ڈاڑھی کا خلال کرنا (بھی مسنون ہے) اس لیے حضرت جبریل نے آپ ﷺ کو اس کا حکم دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ تخلیل لحيہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے یہاں سنت ہے اور حضرات طرفین کے یہاں جائز ہے، اس لیے کہ وضو میں سنت یہ ہے کہ اس کے محل میں فرض کو پورا کیا جائے اور (ڈاڑھی کا) اندرونی حصہ محل فرض نہیں ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿تَخْلِيلٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ خلال کرنا۔ ﴿إِكْمَالٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ پورا کرنا، مکمل کرنا۔

## تخریج:

① روى هذا الحديث الامام الترمذی كتاب الطهارة باب ۲۳ حديث رقم ۲۹.

و ابن ماجه كتاب الطهارة باب رقم ۵۰ حديث رقم ۴۲۹.

## داڑھی میں خلال کرنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی سنتوں میں سے ڈاڑھی کا خلال کرنا بھی ایک سنت ہے، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو تخلیل لحيہ کا حکم دیا تھا، عنایہ وغیرہ میں آپ ﷺ سے یہ الفاظ منقول ہیں ”نزل علیّ جبریل علیہ السلام وأمرني أن أدخل لحيتي إذا توضأت“ اس کے علاوہ ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور ابن حبان وغیرہ میں بھی تخلیل لحيہ کے متعلق آپ ﷺ کا معمول منقول ہے۔ (ملاحظہ ہو فتح القدر ۱/۲۹۹ رزکریادوبند)

وقيل الخ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے میں تخلیل لحيہ کا مسنون ہونا تھا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور حضرات طرفین کے یہاں یہ عمل مسنون نہیں ہے، البتہ اس کے کرنے کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہر حال آپ ﷺ سے تخلیل لحيہ کا عمل ثابت ہے۔

اور یہ مسنون اس وجہ سے نہیں ہے کہ وضو میں سنت کا مطلب یہ ہے کہ محل وضو میں فرض کی تکمیل کی جائے اور ڈاڑھی کا

اندرونی حصہ محل فرض نہیں ہے، کیوں کہ ڈاڑھی کے اندرونی حصہ میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، لہذا جب لہجہ کا اندرونی حصہ محل فرض نہیں ہے تو اس کی تکمیل بھی مسنون نہیں ہوگی۔

﴿قَالَ وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① «خَلِلُوا أَصَابِعَكُمْ كَمَا لَا تَتَخَلَّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ» وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، ﴿قَالَ وَتَكَرَّارُ الْغُسْلِ إِلَى الْفَلَاحِ﴾ لِأَنَّ النَّبِيَّ ② عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وَضُوءٌ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ، وَتَوَضَّأَ ③ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وَضُوءِي وَ وَضُوءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي فَمَنْ زَادَ عَلَيَّ هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ، وَالْوَعِيدُ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ سُنَّةً.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ انگلیوں کا خلال کرنا (بھی سنت) ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے تم لوگ اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو، تاکہ انگلیوں کے مابین جنم کی آگ نہ گھس سکے، اور اس وجہ سے بھی (یہ عمل مسنون ہے) کہ یہ فرض کا اپنے محل میں اکمال ہے۔

فرماتے ہیں کہ غسل کو تین کے عدد تک مکرر کرنا بھی (مسنون) ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا اور یوں فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو نہیں قبول فرماتے۔ نیز آپ ﷺ نے دو دو مرتبہ وضو کیا اور یوں فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب کو دو گنا کر دیتا ہے۔ اور (ایک مرتبہ) آپ ﷺ نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور یوں فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں کا وضو ہے، چنانچہ جس نے اس پر زیادہ کیا یا (اس سے) کم کیا تو اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ اور یہ وعید ایسا کرنے والے کے لیے تین مرتبہ سنت نہ جاننے کی جہ سے ہے۔

## اللغات:

﴿أَصَابِعُ﴾ اسم جمع، واحد إصبع؛ انگلیاں۔ ﴿يُضَاعِفُ﴾ باب مفاعل؛ دُگنا کر دے گا۔ ﴿تَعَدَّى﴾ باب تفاعل؛ حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا۔

## تخریج:

- ① أخرجه دارقطنی فی کتاب الطہارة باب وجوب غسل القدمین رقم ۳۶ حدیث رقم ۳۱۴.
- ② أخرجه البيهقی فی السنن الكبرى فی باب الوضوء مرة مرة ج ۱ ص ۸۰. و ایضاً.
- ابن ماجه فی السنن کتاب الطہارة باب رقم ۴۷ حدیث رقم ۴۱۹.
- ③ أخرجه دارقطنی باب وضوء رسول الله ﷺ باب رقم ۲۷ حدیث رقم ۲۶۰. ایضاً.
- البخاری فی الوضوء باب رقم ۳۸ حدیث رقم ۱۸۵.



## تحلیل اصابع اور تمسیت کا بیان:

اس عبارت میں وضو کی سنتوں میں سے دو سنتوں کا تذکرہ ہے ان میں سے (۱) پہلی سنت تو یہ ہے کہ دوران وضو ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا مسنون ہے، یہ عمل آپ ﷺ سے منقول ہے اور زبان رسالت سے اس کے اہتمام و انتظام کا فرمان صادر ہوا ہے، چنانچہ اس سلسلے کی پہلی حدیث تو وہی ہے جسے صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس باب کی سب سے اہم حدیث وہ ہے جو سنن اربعہ میں مذکور ہے اور جسے علامہ ابن البہائم نے بیان کیا ہے، حدیث کے راوی حضرت لقیط بن صبرہ ہیں وہ فرماتے ہیں ”قال رسول اللہ ﷺ إذا أتوا وضأت فأسبغ الوضوء واخلل بين الأصابع“ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جب تم وضو کرو تو کامل وضو کرو اور انگلیوں کے مابین خلال کر لیا کرو۔ امام ترمذی نے اس حدیث پر حسن صحیح کا لیبل لگا کر اس کی افادیت کو دو چند کر دیا ہے۔

ولأنه الخ یہاں سے تحلیل اصابع کے مسنون ہونے کی عقلی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کا دھونا وضو میں فرض ہے اور ان میں خلال کرنے سے محل فرض میں فرض کی تکمیل ہوتی ہے اور جس عمل کے ذریعے محل فرض میں فرض کی تکمیل ہوتی ہے وہ عمل سنت کہلاتا ہے، اس لیے تحلیل اصابع بھی مسنون ہوگا۔

## انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ:

ہدایہ کے عربی شارحین نے خلال کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے آپ کے فائدے کی خاطر یہاں اسے بھی تحریر کیا جا رہا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ہتھیل کی طرف سے ڈالے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بالکل ایک دوسرے سے ملا لے، دوسرا طریقہ یہ ہے انگلیوں کو ہتھیلیوں کی پشت پر لے جائے اور پھر جہاں سر اور ناخن ہے وہاں سے شروع کرے اور پہلے دائیں ہاتھ میں پھر بائیں ہاتھ میں خلال کرے۔ اور یہی طریقہ عام طور پر رائج ہے۔ پیروں میں خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی خنصر (چھوٹی انگلی) سے دائیں ہاتھ کی خنصر کے مابین خلال کرنا شروع کرے اور پھر اسے پیر کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے خنصر پر ختم کرے۔ (ھکذا فی فتح القدیر ۱/۳۱)

(۲) و تکرار الغسل یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عمل غسل میں تکرار بھی مسنون ہے یعنی ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے، صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ صاحب کتاب نے غسل کی قید لگا کر یہ اشارہ دیا ہے کہ تکرار کا عمل غسل کے ساتھ ہی خاص ہے اور مسح میں تکرار نہیں ہے۔ عنایہ ہی میں ہے کہ بعض لوگوں نے پہلے غسل کو فرض، دوسرے کو سنت اور تیسرے کو اکمال فی محل الفرض قرار دیا ہے۔

اور بعض لوگوں نے پہلے غسل کو فرض اور دوسرے اور تیسرے کو سنت کہا ہے جب کہ کچھ لوگوں نے دوسرے کو سنت اور تیسرے کو نفل کہا ہے، بہر حال تین مرتبہ دھونا مسنون ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور حضرات خلف و سلف سے یہی منقول ہے، اسی کے مطابق وضو کرنا چاہیے، اب اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھ کر اس میں کمی زیادتی کرتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مجرم ہے اور عتاب خداوندی کا مستحق ہے، ہاں اگر کوئی شخص پانی کم ہونے یا تین مرتبہ دھو لینے کے بعد اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس وعید سے خارج ہے، وعید صرف اسی شخص کے لیے ہے جو اسے سنت نہ گردانے۔

﴿قَالَ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ﴾ فَالِنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَرْضٌ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ كَالْتِيْمِمْ، وَلِنَّا أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ قُرْبَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ، لِكِنَّهُ يَفْعَلُ مَفْتَحًا لِلصَّلَاةِ لَوْ قُوِعَهُ طَهَارَةٌ بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ، بِخِلَافِ التِّيْمِمْ، لِأَنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ هُوَ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا مستحب ہے، چنانچہ ہمارے یہاں وضو میں نیت کرنا مستحب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرض ہے، اس لیے کہ وضو ایک عبادت ہے، لہذا بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ تیمم، ہماری دلیل یہ ہے کہ نیت کے بغیر وضو عبادت تو نہیں ہوگا، لیکن نماز کے لیے مفتاح تو بن ہی جائے گا، اس لیے کہ پاک کرنے والے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے وضو طہارت ہو گیا ہے، برخلاف تیمم کے، اس لیے کہ مٹی ارادہ صلاۃ کی حالت ہی میں مطہر ہے، یا یہ کہ تیمم (خود ہی) قصد کی خبر دیتا ہے۔

### اللغات:

﴿يُنَوِّي﴾ نوئی یعنی، باب ضرب؛ پختہ ارادہ کرنا۔ ﴿مَفْتَحٌ﴾ چابی، مجازاً ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی دوسری چیز تک رسائی ہو سکے۔ ﴿تُرَابٌ﴾ مٹی۔

### وضو اور تیمم میں نیت کی حیثیت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ طہارت اور حصول طہارت کی نیت کر لے، یا زوالِ حدث کی نیت کر لے، یا ایسی عبادت ادا کرنے کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مرحلہ تو نیت کرنے کا ہے، رہا یہ مسئلہ کہ نیت کا کیا حکم ہے؟ سو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، احناف کا کہنا یہ ہے کہ وضو میں نیت کرنا سنت ہے، لہذا بدون نیت بھی وضو درست ہو جائے گا اور ائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے کہ نیت کرنا فرض ہے اور جو شخص نیت کے بغیر وضو کرے گا اس کا وضو ہی درست نہیں ہوگا۔

ان حضرات کی پہلی دلیل حدیث إنما الأعمال بالنیات ہے اور وجہ استدلال یہ ہے کہ الأعمال سے پہلے تصحیح نفل مقدر ہے اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اعمال کی صحت اور عدم صحت کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت ہے تو عمل درست ہے ورنہ نہیں، اور وضو بھی چون کہ ایک عمل ہے، اس لیے اس کی بھی صحت نیت پر موقوف ہوگی اور نیت کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل کتاب میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی، لہذا وضو بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب کی بیان کردہ یہ دلیل دراصل قرآن کریم کی اس آیت وما أمروا إلا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدين سے ماخوذ ہے، جس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نیت کے بغیر اخلاص ممکن نہیں ہوتا۔

ان حضرات کی تیسری دلیل قیاس ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تیمم وضو کا نائب اور بدل ہے اور بالاتفاق سب کے یہاں تیمم میں نیت شرط ہے، لہذا جب نائب اور بدل میں نیت شرط ہے تو اصل اور مبدل میں تو بدرجہ اولیٰ نیت شرط اور ضروری ہوگی۔ ولنا الخ ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے وضو کا جو طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتلایا ہے اس میں

کہیں بھی نیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اگر نیت وضو کے لیے فرض اور شرط ہوتی تو حضرات صحابہ کے بتائے ہوئے طور و طریقے میں کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی اس کی وضاحت ضرور ہوتی۔

دوسری دلیل جسے صاحب ہدایہ نے پیش کی ہے (جو درحقیقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی بیان کردہ دوسری دلیل کا جواب بھی ہے) یہ ہے کہ اس بات کو برسو چشم قبول کرتے ہیں کہ نیت کے بغیر وضو میں عبادت کا وصف متحقق نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات کو آپ بھی تسلیم کیجیے کہ نیت کے بغیر بھی وضو مفلاح صلاۃ بن سکتا ہے، کیوں کہ صلاۃ کی مفلاح طہارت ہے اور طہارت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں *وانزلنا من السماء ماء طهوراً کونیت وغیرہ کی قید سے پاک صاف کر رکھا ہے۔* اس لیے جب بھی کوئی شخص ماء مطہر کو استعمال کرے گا اور وضو کے فرائض اربعہ کی تکمیل کرے گا تو بلاشبہ اس کا وضو متحقق ہو جائے گا، خواہ وہ نیت کرے یا نہ کرے۔

بخلاف التیمم سے ائمہ ثلاثہ وغیرہ کی تیسری دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وضو کو تیمم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے اور اس قیاس کے درست نہ ہونے کی دو وجہیں ہیں (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر اور مطہر دونوں بنایا ہے اور مٹی طاہر تو ہوتی ہے، مگر مطہر نہیں ہوتی یعنی جس طرح پانی اپنی حقیقت اور اپنی بناوٹ کے اعتبار سے پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، مٹی میں یہ وصف معدوم ہوتا ہے، البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں ارادہ صلاۃ کے وقت خلاف قیاس مٹی کو مطہر بنا دیا جاتا ہے، جسے فقہاء کی اصطلاح میں امر تعبدی کہا جاتا ہے اور نیت کے بغیر امر تعبدی کا تحقق نہیں ہو سکتا، اس لیے تیمم میں نیت شرط اور ضروری ہے، لیکن اس ضرورت کو وضو کے لیے ضروری نہیں قرار دیا جاسکتا۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ تیمم کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور چون کہ امور شرعیہ میں لغوی معنی کی رعایت کی جاتی ہے اور قصد و ارادے ہی کا نام نیت ہے، اس لیے تیمم میں نیت کو مشروط کیا گیا ہے اور وضو کو اس سے پاک رکھا گیا ہے۔

ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم کی پیش کردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ الأعمال سے پہلے *تَصَحُّحٌ* نہیں، بل کہ *تَنَابُ* کا لفظ مقدر ہے اور حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نیت کے بغیر اعمال کا ثواب نہیں ملتا اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ نیت کے بغیر وضو کا ثواب نہیں ملتا، لیکن بہر حال وضو صحیح ہو جاتا ہے اور نماز ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

﴿وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ﴾ وَهُوَ سُنَّةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمۃ اللہ علیہ السُّنَّةُ هُوَ التَّلْثِثُ بِمِائِهِ مُخْتَلِفَةً اِعْتِبَارًا بِالْمَغْسُولِ، وَلَنَا اَنَّ اَنْسَا <sup>①</sup> رحمۃ اللہ علیہ تَوْضًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِي يُرْوَى مِنَ التَّلْثِثِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلٰی مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ، وَلَاِنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا وَلَا يَكُونُ مَسْنُونًا فَصَارَ كَمَسْحِ الْحُفِّ، بِخِلَافِ الْغُسْلِ، لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّكْرَارُ.

**ترجمہ:** اور وضو کرنے والا اپنے پورے سر کا مسح کرے، یہی سنت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ پانی سے تین مرتبہ مسح کرنا سنت ہے (عضو مغسول پر قیاس کرتے ہوئے)۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور

سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا اور یوں فرمایا یہی آپ ﷺ کا وضو ہے۔ اور تین مرتبہ مسح کرنے کی روایت ایک پانی سے مسح کرنے پر محمول ہے اور یہ مشروع بھی ہے جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ (سر میں) مسح فرض ہے، اور مسح میں تکرار کرنے سے وہ غسل بن جائے گا اور مسنون نہیں رہے گا، لہذا یہ موزے پر مسح کرنے کی طرح ہو گیا، برخلاف غسل کے، اس لیے کہ غسل کے لیے تکرار مضر نہیں ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿يَسْتَوْعِبُ﴾ استوعب يستوعب، باب استفعال؛ کسی چیز کو مکمل ڈھانپ لے۔ ﴿تَغْلِيثٌ﴾ کسی کام کو تین بار کرنا۔ ﴿مِيَاهٌ﴾ اسم جمع، واحد ماء؛ پانی۔ ﴿خُفٌّ﴾ موزہ۔

## تَخْرِيجُ:

① اخرجہ بیہقی باب التکرار فی مسح الرأس رقم ۷۰ حدیث رقم ۲۹۲ و ایضاً الدارقطنی فی سننہ۔

## سارے سر کا مسح کرنے کا حکم اور مسح رأس میں تثلیث نہ ہونے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ متوضی اپنے پورے سر کا مسح کرے، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے اور پورے سر کا مسح مسنون ہے اور اس سنت میں ہمارے یہاں تثلیث نہیں ہے، البتہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ہاں استیعاب کے ساتھ ساتھ الگ الگ پانی سے تثلیث بھی مسنون ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کی دلیل قیاس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اعضائے مغسولہ یعنی ہاتھ، منہ اور پاؤں وغیرہ کو الگ الگ پانی سے تین مرتبہ دھونا مسنون ہے، اسی طرح الگ الگ پانی سے تین مرتبہ سر کا مسح کرنا بھی مسنون ہوگا۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتاب میں موجود ہے اور جس میں صرف ایک مرتبہ مسح کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ مصنف بن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے جس میں بھی ایک ہی مرتبہ آپ ﷺ کے مسح کا تذکرہ ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں عن علی رضی اللہ عنہ أن النبی ﷺ كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح فإنه مرة مرة۔ یعنی آپ ﷺ مسح کے علاوہ وضو کے ہر عضو میں تثلیث کا عمل کرتے تھے، اس کے علاوہ ابوداؤد شریف میں حضرت ابن عباس اور دارقطنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے بھی ایک ہی مرتبہ مسح کرنے کی روایات موجود ہیں جو مسلک حنفی کی مؤید ہیں۔

والذی یروی الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض روایات میں آپ ﷺ سے جو تین مرتبہ مسح کرنا نقل کیا گیا ہے، اس کی علماء نے مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں (۱) تثلیث ایک ہی پانی سے تھی اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے ایسا منقول بھی ہے۔ (۲) دوسری توجیہ یہ ہے کہ الگ الگ تین پانی سے مسح کرنا آپ ﷺ کا دائمی معمول نہیں تھا، بل کہ گرمیوں میں کبھی کبھار آپ ایسا کر لیا کرتے تھے۔

ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ سر میں مسح فرض ہے نہ کہ غسل، اب اگر ہم مسح میں تثلیث اور تکرار مان لیں تو یہ مسح نہیں رہے گا، بل کہ غسل ہو جائے گا جو شریعت کے اصول، صاحب شریعت کے معمول اور ناقلین شریعت کی نقل اور ان سے منقول امور کے

خلاف ہے۔

پھر یہیں نہیں بل کہ اور جگہ بھی جہاں مسح کا حکم ہے وہاں بھی تثلیث نہیں ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص نھین (چمڑے کے موزے) پہنے ہوئے ہے تو پیروں کے متعلق اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کے بجائے مسح کرے اور یہ مسح بھی صرف ایک بار کرے، لہذا جس طرح مسح خف میں تثلیث نہیں ہے اسی طرح مسح راس میں بھی تثلیث نہیں ہوگی، البتہ غسل میں تثلیث ہوگی اور وہ اس لیے ہوگی کہ تکرار اور تثلیث غسل کے لیے مفید ہیں نہ کہ مضر۔

﴿قَالَ وَيُرْتَبُ الْوُضُوءُ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْيَمَانِ، وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَضَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" الْآيَةَ، وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، وَلَنَا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ الْوَاوِ وَهِيَ لِمَطْلَقِ الْجَمْعِ بِاجْتِمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ، فَتَقْضَى إِعْقَابَ غَسْلِ جُمْلَةِ الْأَعْضَاءِ، وَالْبَدَاءَةُ بِالْيَمَانِ فَضِيلَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ① إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْيَمَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى التَّنَعُّلُ وَالتَّرَجُّلُ.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ (وضو کرنے والا) ترتیب سے وضو کرے، چنانچہ اسی عضو سے وضو شروع کرے جس کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اور دہنی جانب سے وضو کرے۔ اور وضو میں ترتیب ہمارے نزدیک سنت ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے یہاں فرض ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے "فاغسلوا وجوهکم" اور فاء تعقیب کے لیے ہے۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت میں حرف واؤ مذکور ہے جو اہل لغت کے متفقہ فیصلے سے مطلق جمع کے لیے ہے، لہذا یہ تمام اعضاء کو دھلنے کے بعد میں ہونے کا تقاضا کرے گا۔ اور دائیں جانب سے شروع کرنا باعث فضیلت ہے، کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں دہنی جانب کو پسند فرماتے ہیں یہاں تک کہ جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں بھی۔

## اللغات:

﴿يَمَانٍ﴾ اسم جمع، واحد يمين؛ دایاں۔ ﴿تَعْقِيبٍ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ بعد میں لانا، پیچھے کرنا۔ ﴿إِعْقَابَ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ بعد میں ہو جانا، پیچھے ہونا۔

## تخریج:

① هذا الحديث اتفق عليه اصحاب الكتب الستة بخارى في الصلوة باب رقم ۴۷ مسلم في الطهارة حديث رقم ۶۶ باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم ۱۹.

## وضوء میں ترتیب کی حیثیت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی ترتیب کے مطابق وضو کرے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت فاعسلوا وجوهکم الخ میں بیان فرمائی ہے، رہا یہ سوال کہ اس ترتیب کا حکم اور اس کی حیثیت کیا ہے؟

تو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی مختلف رائیں ہیں، چنانچہ احناف کی رائے تو یہ ہے کہ مذکورہ ترتیب سنت ہے اور اگر کوئی شخص بدون ترتیب بھی وضو کر لے تو بہر حال اس کا وضو تو ہو ہی جائے گا۔

اس کے برخلاف حضرات ائمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب فرض ہے اور جو شخص ترتیب کے بغیر وضو کرے گا اس کا وضو ہی نہیں صحیح ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے فاغسلوا وجوهکم الخ اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ فاغسلوا میں فاء مذکور ہے جو تعقیب (بعد میں کرنے) کے لیے ہے اور تعقیب سے ترتیب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لہذا اس نقطہ نظر سے آیت قرآنی کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے سب سے پہلے اپنا چہرہ دھونا چاہیے اور جب غسل وجہ میں ترتیب ثابت ہوگی تو دیگر اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہوگی، اس لیے کہ وہ سب فاغسلوا وجوهکم پر معطوف ہیں اور کسی بھی مرتب پر معطوف ہونے والی چیز بھی مرتب ہوا کرتی ہے۔

ان حضرات کا دوسرا استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پیروں کو دھلنے کا حکم مسح راس کے بعد بیان کیا ہے، اب آپ ہی سوچئے کہ اگر ترتیب فرض اور ضروری نہ ہوتی تو غسل رجلین کے حکم اور بیان کو تذکرہ مسح سے مقدم کر کے مغسولات کے ساتھ بیان کر دیا جاتا اور پھر اخیر میں مسح کا تذکرہ ہوتا، حالاں کہ ایسا نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضو میں ترتیب ضروری اور فرض ہے۔

ولنا الخ یہاں سے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں فاء کے بعد حرف واؤ ہے یعنی فاغسلوا وجوهکم کے بعد واؤ کے ذریعہ ایڈیکم وغیرہ کو اسی پر معطوف کیا گیا ہے اور اکثر نحویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اب یہاں فاء اور واؤ دونوں جمع ہیں اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے، چنانچہ غور و فکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فاغسلوا کا فاء تعقیب کے لیے نہیں، بل کہ اذا قمتم کے ذریعہ جو شرط بیان کی گئی ہے اسی شرط کے جواب میں واقع ہے، لہذا جب یہ تعقیب کے لیے نہیں ہے تو اس سے ترتیب کا اثبات چہ معنی دارد؟۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فاء کو تعقیب کے لیے مان بھی لیں تو اس صورت میں آیت قرآنی کا مطلب یہ ہوگا کہ اعضاء اربعہ کا وظیفہ اور ان کا عمل (غسل و مسح) قیام الی الصلاة پر موقوف ہے اور اس توجیہ پر قیام الی الصلاة اور اعضاء اربعہ کے مابین ترتیب ثابت ہوگی، نہ کہ خود اعضاء اربعہ میں ترتیب کا ثبوت ہوگا، اس لیے کہ ان کے مابین واؤ موجود ہے اور واؤ کے ہوتے ہوئے ترتیب کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی، تاہم واؤ ترتیب کے خلاف علم بغاوت بھی نہیں بلند کرتی، اس لیے ہم احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ترتیب فرض اور واجب تو نہیں، البتہ مسنون ہے۔

والبداءة بالمیامن الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ دائیں جانب سے وضو کا آغاز کرنا عمدہ بھی ہے اور باعث فضیلت بھی ہے، اس لیے کہ یہی طریقہ نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے اور آپ ﷺ جملہ معمولات میں دائیں جانب سے ابتداء اور آغاز کو خود بھی پسند فرماتے تھے، حضرات صحابہ کو بھی اس کی تلقین و تاکید فرماتے تھے اور اپنے اس ارشاد سے انھیں ابتداء بالمیمن کی اہمیت بتلاتے تھے۔ ان اللہ یحب الیامین فی کل شیء حتی التعل والترجل یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں ابتداء بالمیمن پسند ہے، یہاں تک کہ جو تا پہننے اور کنگھا کرنے جیسے معمولی امور میں بھی یہ عمل عند اللہ محبوب ہے۔



# فَصْلٌ فِي نَوَاقِصِ الْوُضُوءِ

فصل وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے وضو کے فرائض، سنن اور آداب و مستحبات کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے ان امور کو بیان کر رہے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ وضو کرنا اور انسان کا با وضو ہونا اصل ہے جب کہ وضو کا ٹوٹنا اور انسان کا محدث ہونا عارض ہے اور عارض معروض سے متاخر ہوا کرتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے پہلے وضو کے حصول کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد وضو کے انقطاع اور زوال کو بیان کر رہے ہیں۔

نواقص ناقصہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں ابطال التالیف فی البناء یعنی عمارت وغیرہ کی ترکیب اور بناوٹ کو ختم کرنا اور یہاں چونکہ معانی کی طرف منسوب ہے اس لیے اس کا مطلب ہوگا وضو کو اس کے مطلب بہ (جو چیز اس سے طلب کی جائے) یعنی اس وضو سے نماز کے مباح ہونے کو باطل کر دینا۔

﴿الْمَعَانِي النَّاقِصَةُ لِلْوُضُوءِ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ (الآيَةُ) وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا الْحَدِيثُ؟ قَالَ ① مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَكَلِمَةٌ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ، ﴿وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ، وَالْقَيْ مَلَأَ الْقَمِ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَقْضِي الْوُضُوءَ لِمَا رُوِيَ ② أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَآنَ غَسَلَ غَيْرَ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ أَمْرٌ تَعْبُدِيٌّ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ، وَلَنَا قَوْلُهُ ③ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ، وَقَوْلُهُ ④ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصِرِفْ وَيَتَوَضَّأْ وَيُسِنِّ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَآنَ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، وَالْإِفْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرِ مَعْقُولٍ، لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةً تَعَدَّى الْأَوَّلِ، غَيْرَ أَنَّ الْخُرُوجَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّبِيلَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ وَبِمَلَأِ الْقَمِ فِي الْقَيْ، لِأَنَّ بَرَوَالِ الْقُشْرَةِ

تَطَهَّرُ النَّجَاسَةَ فِي مَحَلِّهَا فَتَكُونُ بَادِيَةً، لَا خَارِجَةً، بِخِلَافِ السَّبِيلَيْنِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ فَيَسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ، وَمِلءُ الْقَمِّ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمَكِّنُ ضَبْطَهُ إِلَّا بِتَكْلُفٍ، لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتَبِرَ خَارِجًا، وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ قَلِيلُ الْقَيِّْ وَكَثِيرُهُ سِوَاءٌ، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ السَّيْلَانُ اعْتِبَارًا بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ وَلِبِطْلَانِ قَوْلِهِ ⑤ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُلْسُ حَدَثٌ، وَلَنَا قَوْلُهُ ⑥ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وَضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَائِلًا، وَقَوْلُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً أَوْ دَسْعَةً وَالْقَيِّْ الَّتِي تَمَلَأُ الْقَمَّ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْقَلِيلِ وَمَا رَوَاهُ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْكَثِيرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلُوكَيْنِ مَا قَدَّمَ نَاهُ .

**ترجمہ:** وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہر وہ چیز ہے جو سبیلین سے نکلتی ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے یا تم میں سے کوئی بول و براز کر کے آئے، اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ حدث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سبیلین سے نکلے۔ اور کلمہ ماعام ہے اس لیے معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہوگا۔ اور خون اور پیپ جب بدن سے نکل کر اس جگہ تک تجاوز کر جائیں جس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہے۔ اور منہ بھر کر (ہونے والی) قئی (بھی ناقض وضو ہے)۔

حضرت امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ ﷺ نے قے کیا لیکن وضو نہیں فرمایا اور اس وجہ سے بھی کہ موضع نجاست کے علاوہ دھونا امر تعبدی ہے، لہذا امور دشرع پر ہی منحصر رہے گا اور مورد شرع وہی مخرج معتاد ہے۔

ہماری دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ ہر بہنے والے خون (کے بہنے) سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قے کیا یا اپنی نماز میں اسے نکسیر چھوٹی تو وہ واپس ہو، وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ اس نے بات چیت نہ کی ہو۔ اور اس لیے بھی کہ نجاست کا نکلنا زوال طہارت میں مؤثر ہے اور اصل (خارج من السبیلین) میں یہ مقدار معقول ہے جب کہ اعضاء اربعہ پر اقتصار کرنا غیر معقول ہے، لیکن پہلے کے متعدی ہونے کی وجہ سے یہ بھی متعدی ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ خروج اس جگہ تک بہہ جانے کی وجہ سے متحقق ہوگا جسے پاک کرنے کا حکم لاحق ہے اور قے میں منہ بھر کر ہونے سے، اس لیے کہ چھلکا اتر جانے کی وجہ سے نجاست اپنے محل میں ظاہر ہوگی اور یہ نجاست ظاہر کہلائے گی نہ کہ خارج۔

برخلاف سبیلین کے اس لیے کہ یہ جگہ موضع نجاست نہیں ہے کہ ظہور نجاست سے اس کے انتقال اور خروج پر استدلال کیا جائے۔ اور منہ بھر کر قے یہ ہے کہ وہ اس طرح ہو کہ بغیر تکلف کے اس کو ضبط کرنا ممکن نہ ہو، اس لیے کہ وہ ظاہر ہو کر نکلے گی چنانچہ اسے خارج سمجھا جائے گا۔

اور امام زفر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے فرمایا کہ قلیل و کثیر دونوں (طرح کی) قے برابر ہیں، اور ایسے ہی (ان کے یہاں) سیلان بھی شرط نہیں ہے مخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے اور آپ ﷺ کے اس فرمان کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ قے حدث ہے۔



اور ہماری دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایک یا دو قطرہ خون نکلنے سے وضو نہیں واجب ہوتا الا یہ کہ وہ دم ساکل ہو اور حضرت علی کا یہ فرمان جب انھوں نے تمام احداث کو شمار کرایا تو فرمایا، یا وہ تے جو منہ کو بھر دے اور جب روایات متعارض ہو گئیں ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کو تے قلیل پر محمول کیا جائے گا اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کو تے کثیر پر۔ اور دونوں مسکلوں کے مابین فرق وہی ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

## اللغات:

﴿عَانِطٌ﴾ اوٹ، آر، دیوار وغیرہ۔ مجازاً پاخانہ پھرنا۔ ﴿تَتَنَاوَلُ﴾ تناول یتناول، باب تفاعل؛ شامل ہونا۔ ﴿مُعْتَادٌ﴾ اسم مفعول، اعتاد یتعاد، باب افتعال؛ معمول کا، عادت کے مطابق۔ ﴿فَيْحٌ﴾ پیپ۔ ﴿مِلٌّ﴾ بھر کر۔ عام طور پر مضاف آتا ہے جیسے ”ملء ابناء“ برتن بھر کر۔ ﴿قَاءٌ﴾ باب ضرب؛ تے کی۔ ﴿تَعْبُدِيٌّ﴾ اسم منسوب؛ بندگی کی وجہ سے، خلاف قیاس۔ ﴿مُورِدٌ﴾ اسم ظرف؛ ایسی جگہ یا وقت جہاں کوئی آئے۔ ﴿رَعْفٌ﴾ باب نصر، فتح؛ بہنا، نکسیر پھوٹنا۔ ﴿لَبِينٌ﴾ صیغہ امر، بنی یبني؛ عمارت تعمیر کرنا۔ ﴿اِقْتِصَارٌ﴾ اسم مصدر؛ اکتفا کرنا، انحصار کرنا۔ ﴿سِيلَانٌ﴾ جاری رہنا، بہنا۔ ﴿قَشْرَةٌ﴾ چھلکا۔ ﴿بَادِيَةٌ﴾ اسم فاعل، بدا یبدو، باب نصر؛ ظاہر ہونے والی۔ ﴿قَلَسٌ﴾ تے۔ ﴿دَسَعَةٌ﴾ تمام، سب کی سب۔

## تخریج:

- ① اخرجہ عبدالحی الکنوی فی التعلیق الممجد تحت حدیث رقم ۳۴ عن مالک عن ابن عمر مرفوعاً.
- ② لم أجدہ وقال الزیلعی غریب جداً تحت حدیث رقم ستہ عشر. اما عدم فرضیة الوضوء من القی: فتأبث من السنۃ رواہ الدارقطنی فی السنن باب رقم ۵۹.
- ③ اخرجہ دارقطنی باب فی الوضوء من الخارج من البدن رقم ۵۶ حدیث رقم ۵۷۱.
- ④ اخرجہ دارقطنی فی باب الوضوء من الخارج من البدن رقم ۵۶ حدیث رقم ۵۵۸.
- ⑤ اخرجہ دارقطنی باب فی الوضوء من الخارج من البدن باب رقم ۵۶ حدیث رقم ۵۶۳.
- ⑥ اخرجہ دارقطنی باب فی الوضوء من الخارج من البدن رقم ۵۶ حدیث رقم ۵۷۲.

## نواقض وضو کی پہلی قسم:

اس دراز نفس عبارت میں صاحب کتاب نے نواقض وضو میں سے تین نواقض کو شمار کر کے ہر ایک کو دلیل اور حضرات ائمہ کے مسلک اور ان کی بیان کردہ تعلیل سے مزین کیا ہے، چنانچہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے نکلے وضو کو توڑ دے گی، خواہ یہ نکلنے والی چیز معتاد ہو یعنی عادت کے طور پر نکلتی ہو جیسے پاخانہ، پیشاب وغیرہ، یا یہ نکلنا عادت کے طور پر نہ ہو جیسے کیڑا کنگر اور دم استحاضہ وغیرہ۔ بہر حال خارج من السبیلین مطلق نواقض وضو ہے اور اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے او جاء أحد منکم من الغائط اور اس آیت سے وجہ استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بول و براز سے

فارغ ہو کر آنے والے شخص کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کو لازم قرار دیا ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں اسی وقت تیمم کیا جاتا ہے جب انسان محدث ہوتا ہے، اور یہاں بول و براز ہی کی وجہ سے حدث لاحق ہوا ہے، معلوم یہ ہوا کہ بول و براز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور چوں کہ بول و براز سیبیلین سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے فقہائے کرام نے کل ما یخرج من السبیلین کو وضو اور طہارتِ اصغر کے لیے ناقض قرار دے دیا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے آپ ﷺ سے حدث کی حقیقت اور اس کی کیفیت کے متعلق معلوم کیا تو آپ ﷺ نے یہ جواب مرحمت فرمایا کہ ما یخرج من السبیلین۔ اور چوں کہ ما یخرج میں کلمہ ماعام اور مطلق ہے، اس لیے وہ سیبیلین سے نکلنے والی ہر چیز کو شامل ہوگا، خواہ وہ معتاد ہو یا غیر معتاد۔

و کلمة ما عامة الخ اس جملے سے صاحب ہدایہ نے امام مالک کا رد کیا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ خارج من السبیلین اگر معتاد ہے تب تو ناقض ہے اور اگر معتاد نہیں ہے تو ناقض نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان او جاء الخ میں غائط سے قضائے حاجت کا کنایہ کیا ہے اور قضائے حاجت معتاد ہے، معلوم ہوا کہ غیر معتاد شئی کا خروج ناقض نہیں ہے۔

ہماری طرف سے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب حدیث پاک میں کلمہ ماعام ہے تو اس میں معتاد اور غیر معتاد دونوں طرح نکلنے والی چیزیں شامل ہوں گی، ورنہ تو عموم میں تخصیص کرنا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے مذی اور ودی میں بھی وضو کو لازم قرار دیا ہے حالانکہ یہ دونوں بھی غیر معتاد ہیں اور خود امام مالک رحمہ اللہ بھی ان میں وجوب وضو کے قائل ہیں، اس لیے ما یخرج من السبیلین کے مصداق کو عام ہی مانا جائے گا اور صرف معتاد کے ساتھ اسے خاص کرنا درست نہیں ہوگا۔

(۲) (نقض وضو کا دوسرا سبب) مذکورہ بالا تفصیلات تو خارج من السبیلین سے متعلق تھیں والدم والقیح سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خارج من غیر السبیلین میں سے بھی بعض چیزیں ناقض وضو ہیں، لیکن یہ حکم مطلق نہیں ہے، بل کہ اس میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے، چنانچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تو ابتدا ہی سے الگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض نہیں ہے خواہ کچھ بھی نکلے۔ یہی امام مالک کا قول ہے۔ امام زفر رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض ہے خواہ کوئی بھی چیز نکلے اور کسی بھی طرح نکلے، بے یا نہ بے۔ ان دونوں کے بین بین ہمارے فقہاء ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ خارج من غیر السبیلین مثلاً خون اور پیپ وغیرہ ناقض وضو تو ہیں مگر ان میں شرط یہ ہے کہ یہ نکلیں اور نکل کر بہہ جائیں خواہ کہیں سے بھی نکلیں اور بہہ کر کہیں بھی جائیں، الی موضع یلحقہ حکم التطہیر سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ خون وغیرہ کا نکل کر وضو کے اعضاء اربعہ میں سے کسی ایک عضو تک بہنا ضروری ہے، بل کہ حکم التطہیر کا اصل مصداق حکم التطہیر فی الغسل ہے اور ظاہر ہے کہ غسل میں پورے بدن کا دھونا ضروری ہے، کسی خاص مقام تک بہنا ضروری نہیں ہے۔

بجینہ یہی تفصیل جو اوپر مذکور ہے قے کے سلسلے میں بھی منقول ہے یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً غیر ناقض ہے، امام زفر رحمہ اللہ کے یہاں مطلقاً ناقض ہے اور ہمارے یہاں اگر منہ بھر کے قے ہوئی ہے تو وہ ناقض ہے ورنہ ناقض نہیں ہے۔

اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کیا مگر وضو نہیں فرمایا، وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر تے ناقض وضو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو فرماتے، معلوم ہوا کہ تے ناقض وضو نہیں ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر۔

دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ عقل اور قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ خارج من السبیلین کی صورت میں بھی وہی جگہ دھوئی جائے جہاں نجاست لگی ہے، مگر اس کے برخلاف اعضاء وضو کے دھونے کا حکم اور معمول امر تعبدی کے طور پر ہے اور امور تعبدیہ کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ان پر دوسری چیزوں کو نہیں قیاس کیا جاتا، لہذا جب اصل ہی (خارج من السبیلین) کا معاملہ خلاف قیاس ہے تو اب خواہ مخواہی فرع (خارج غیر السبیلین) میں ہم کیوں کر اعضاء اربعہ کے دھونے کا حکم گائیں گے، اس لیے صاف سیدھی بات یہی ہے کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔

ولنا الخ ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوضوء من کل دم سائل پر بننے والے خون کو موجب وضو قرار دیا ہے، اس لیے کہ بقول صاحب عنایہ اس جیسی عبارت سے فرض اور واجب ہی مفہوم ہوتا ہے، چنانچہ اونٹوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی عبارت منقول ہے اور ارشاد ہے فی خمس من الإبل شاة اور آپ کو معلوم ہے کہ بقدر نصاب اونٹوں میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، لہذا جس طرح مسئلہ اہل میں فرضیت ثابت ہے اسی طرح یہاں بھی فرضیت اگرچہ نہیں مگر وجوب تو بہر حال ثابت ہوگا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس شخص کو وضو کا مکلف بنایا گیا ہے جس نے تے کی یا جس کے نکسیر پھوٹی، یہ حدیث مسئلے کے دوسرے رخ (الوضوء من القیئ) میں واضح طور پر وضو کے وجوب کو ثابت کر رہی ہے، کیوں کہ اس میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔

ولأن خروج النجاسة الخ یہاں سے ہماری عقلی دلیل بیان کی گئی ہے جو دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عقلی دلیل کا جواب بھی ہے۔ اس دلیل کی تشریح یہ ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ سبیلین سے خروج نجاست کی صورت میں طہارت زائل ہو جاتی ہے یہ صورت اصل اور مقیس علیہ ہے اور چونکہ احادیث میں تے اور رعاف وغیرہ کو بھی ناقض وضو بتلایا گیا ہے اور یہ چیزیں غیر سبیلین سے نکلتی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ خارج من السبیلین بھی ناقض ہے اور خارج من غیر السبیلین بھی ناقض ہے اور دونوں صورتوں میں انسان کی طہارت زائل ہو جاتی ہے، اور زوال طہارت کے بعد حصول طہارت کے لیے اعضاء اربعہ کو بہر حال دھونا پڑے گا اور چونکہ اصل اور مقیس علیہ یعنی خارج من السبیلین میں حصول طہارت کے لیے اعضاء اربعہ دھوئے جاتے ہیں، اس لیے اسی پر قیاس کر کے فرع میں بھی حصول طہارت کے لیے اعضاء اربعہ کے دھونے کا حکم لگایا جائے گا ورنہ اصل قیاس یعنی زوال طہارت میں خارج من السبیلین اور خارج من غیر السبیلین تو برابر ہیں گے، مگر حصول طہارت کے طریقوں میں اختلاف ہو جائے گا جو صحیح نہیں ہے۔

غیر أن الخروج الخ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب زوال طہارت کے سلسلے میں خارج من السبیلین اور خارج من غیر السبیلین دونوں صورتوں میں یکسانیت اور یگانگت ہے تو پھر خارج ہونے والی شئی میں کیوں

اختلاف ہے، اور آپ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ تے کا منہ بھر کر ہونا اور خون وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا ضروری ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح خارج من السبیلین مطلقاً ناقض ہے، اسی طرح خارج من غیر السبیلین بھی مطلقاً ناقض ہے۔

صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اور اس طرح کا قیاس حضرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ ہی کر سکتے ہیں ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مقیس علیہ (خارج من السبیلین) اور مقیس دونوں میں صرف خروج ہی ناقض ہے، مگر مقیس یعنی من غیر السبیلین سے اگر خون اور پیپ وغیرہ نکلتی ہے تو ان کا خروج اسی وقت متحقق ہوگا جب یہ بہہ جائیں، کیوں کہ سبیلین کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض کھال کا چھلکا اتر جانے سے نجاست اور خون وغیرہ کا خروج نہیں ہوتا، بل کہ اس صورت میں ظہور ہوتا ہے اور اس طرح کی نجاست، نجاست بادیہ کہلاتی ہے، نجاست خارج نہیں کہلاتی، حالانکہ ناقض ہونے کے لیے نجاست خارج ضروری ہے۔

اس کے برخلاف سبیلین سے جو نجاست نکلتی ہے وہ انسان کے پیٹ سے چل کر اور بہہ کر آتی ہے، اس لیے سبیلین سے نکلنے والی نجاست محض ظاہر ہونے سے ہی ناقض بن جائے گی، کیوں کہ وہ اپنے مقام سے منتقل ہو آئی ہے اور غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست جب تک نہ بنے گی نہیں، اس وقت ناقض نہیں ہوگی۔

رہا مسئلہ تے کا تو اس میں ”منہ بھر کر“ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ منہ کی دو حیثیتیں ہیں (۱) ظاہر (۲) باطن، اگر منہ کھلا ہے تو یہ ظاہری حیثیت ہے اور اگر منہ بند ہے تو یہ باطنی حیثیت ہے، اور دونوں حیثیتوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے، اس سلسلے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تے تھوڑی ہے تو یہ باطنی حیثیت کے مشابہ ہے اور عدم خروج کے غالب ہونے کی وجہ سے ناقض نہیں ہے۔ اور اگر تے زیادہ ہے تو یہ ظاہری حالت کے مشابہ ہے اور خروج غالب ہونے کی وجہ سے اس صورت میں وضو کے لیے ناقض ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

وملء الفم الخ منہ بھر کر تے کے مصداق اور معیار کے سلسلے میں حضرات فقہاء سے کئی اقوال مذکور ہیں چنانچہ پہلا قول یہ ہے کہ (۱) بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہ ہو (۲) آدھے منہ سے زیادہ ہو (۳) انسان اسے روک نہ سکے (۴) بات نہ کر سکے، مگر ان میں صحیح ترین قول پہلا ہی ہے۔ (فتح القدر)

بہر حال یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ ہمارے یہاں خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض نہیں ہے، بل کہ اگر وہ خون اور پیپ وغیرہ ہے تو اس میں سیلان شرط ہے، اس سلسلے کی ایک دلیل بیان کر دی گئی اور دوسری دلیل وہ ہے جو کتاب میں مذکور ہے، کہ ایک دو قطرے خون نکلنے سے وضو نہیں واجب ہوتا، وضو تو اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جب خون نکلے اور بہہ جائے، چونکہ صاحب ہدایہ نے بھی اسے بعد ہی میں بیان کیا ہے، اس لیے راقم الحروف نے بھی یہیں اس کا تذکرہ مناسب سمجھا، ورنہ عبارت فقہی دشوار ہو جائے گی۔

اور اگر خارج من غیر السبیلین خون وغیرہ کے علاوہ مثلاً تے ہے تو اس میں ملء الفم شرط ہے اس کی دوسری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے أو دسعة تملأ الفم جس میں صاف طور پر ملء الفم کی قید مذکور ہے، لیکن اتنی صراحت اور وضاحت کے باوجود بھی امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیڑھ اینٹ کی اپنی الگ مسجد بنا ہی لی، چنانچہ ان کا مسلک تو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ وہ

خارج من غیر السبیلین کو مطلقاً ناقض وضو شمار کرتے ہیں اور اگر خارج ہونے والی شئی تے ہے تو اس کے قلیل و کثیر کو برابر سمجھتے ہیں، اسی طرح خون وغیرہ میں سیلان کی شرط بھی نہیں لگاتے۔

تے کے متعلق ان کی دلیل کتاب میں مذکور حدیث ”القلس حدث“ ہے اور وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں مطلق تے کو حدث قرار دیا گیا ہے اور قلیل و کثیر کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے، لہذا جب صاحب شریعت نے کوئی قید وغیرہ نہیں لگائی، تو ہم کون ہوتے ہیں ملء الفم کا لیبیل لگانے والے۔

اور عدم سیلان کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ اصل یعنی خارج من السبیلین میں جب سیلان وغیرہ شرط نہیں ہے تو فرع کس کھیت کی مولیٰ ہے کہ اس میں یہ شرط لگائی جائے؟

## امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلوں کے جوابات

(۱) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کی تائید میں جو حدیث ان النبی ﷺ قاء فلم يتوضأ پیش کی ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث انتہائی غریب ہے، اس کے متعلق محدثین کی رائے یہ ہے کہ لا أصل له، نصب الرایۃ میں ہے غریب جدا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث وضو من القی کے سلسلے میں نافی ہے اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث القلس حدث اس سلسلے میں مطلقاً مثبت ہے اور ہماری بیان کردہ روایات میں ملء الفم کی قید ہے، اب یہاں چوں کہ متعدد روایات جمع ہیں، اس لیے ان میں تطبیق دی جائے گی اور تطبیق یہی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث تے قلیل پر محمول ہے اور تے قلیل ناقض نہیں ہے اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث تے کثیر پر محمول ہے اور کثیر کو تو ہم بھی ناقض مانتے ہیں۔

خون اور پیپ کے متعلق امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب وہی ہے جو غیر أن الخروج سے اشکال کے جواب میں بیان کیا گیا ہے، صاحب ہدایہ نے والفرق بین المسلمین الخ سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمَلَأُ الْفَمَ فَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَيْثَانُ، ثُمَّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجَسًا يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ.

**ترجمہ:** اور اگر کسی شخص نے علیحدہ علیحدہ تے کیا بایں طور کہ اگر جمع کی جائے تو منہ کو بھر دے، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہاں مجلس کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سبب کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ متلیٰ ہے۔

پھر ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوگی وہ نجس بھی نہیں ہوگی، یہ حکم حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ مذکورہ چیز حکماً نجس نہیں ہے، اسی لیے تو اس سے طہارت نہیں ختم ہوتی۔

## اللغات:

﴿يَمْلَأُ﴾ صیغہ مجہول، ملاً یملأ، باب فتح، بھر دے۔ ﴿غَيَّثَانُ﴾ متلی، قے کی طبیعت ہونا۔

## قے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص با وضو تھا اور اس نے قے کر دیا، لیکن منہ بھر کر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، بل کہ تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ کیا تو اس کے وضو کا کیا مسئلہ ہے؟

اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار تھوڑی تھوڑی قے ہوئی ہو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کو جمع کیا جاسکے، تو جمع کر کے دیکھیں گے، اگر منہ بھر کر ہو جاتی ہے تو ناقض وضو ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی ان کے یہاں اتحاد مجلس کا اعتبار ہے، کیوں کہ متفرقات کو جمع کرنے میں مجلس کا بہت بڑا دخل رہتا ہے اور نکاح اور بیع وغیرہ میں اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔

ان کے بالمقابل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتحاد سبب کا اعتبار ہے، اور سبب متلی ہے، یعنی اگر ایک ہی متلی سے متعدد قے ہوئیں اور ان کا مجموعہ منہ بھر کر ہو جاتا ہے تب تو اس سے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ احکام کا مدار اسباب پر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی سبب ہی کو حکم کا معیار اور مدار قرار دیں گے، اگر سبب یعنی متلی ایک ہے تب تو آگے کا مرحلہ ہوگا ورنہ نہیں۔

ثم مالا يكون الخ یہاں سے صاحب کتاب نے ایک فقہی ضابطہ تحریر فرمایا ہے جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوتی وہ نجس بھی نہیں ہوگی، جیسے دم غیر سائل، تھوڑی قے وغیرہ، اس لیے کہ اگر وہ نجس ہوتی تو اس سے نکلنے کے وضو ٹوٹ جاتا حالانکہ تھوڑی قے اور دم غیر سائل وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا جب ان سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کیوں ہم انہیں نجس قرار دیں۔ صاحب کتاب نے وهو الصحيح کی قید لگا کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز کیا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں قے قلیل اور دم غیر سائل نجس ہیں۔

﴿وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً، فَإِنْ قَاءَ بِلُغْمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَمُحَمَّدٍ رحمۃ اللہ علیہ، وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ رحمۃ اللہ علیہ نَاقِضٌ إِذَا كَانَ مِلَاءَ الْقِمِّ﴾ وَالْخِلَافُ فِي الْمُرْتَقِي مِنَ الْجَوْفِ، أَمَّا النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، لِأَبِي يُوْسُفَ رحمۃ اللہ علیہ أَنَّهُ نَجَسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَرُجٌ لَا تَخْتَلُّهُ النَّجَاسَةُ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيلٌ، وَالْقَلِيلُ غَيْرُ نَاقِضٍ .

**ترجمہ:** اور یہ حکم اس وقت ہے جب کسی نے پت یا کھانا یا پانی کی قے کی ہو، لیکن اگر بلغم کی قے کیا تو حضرات طرفین کے یہاں وہ غیر ناقض ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر منہ بھر کے ہو تو ناقض ہے۔ اور اختلاف اس بلغم میں ہے جو جوف معدہ سے اوپر چڑھ کے ہو۔ رہا وہ بلغم جو سر سے اترے تو وہ بالاتفاق ناقض نہیں ہے، اس لیے کہ ہر موضع نجاست نہیں ہے۔

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ جوفِ معدہ سے اوپر چڑھنے والا بلغمِ اتصال کی وجہ سے نجس ہے۔ حضراتِ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بلغم چکنا ہوتا ہے اور اس میں نجاست نہیں گھٹی۔ اور وہ نجاست جو اس سے متصل ہے وہ قلیل ہے اور قلیل ناقض نہیں ہے۔

## اللغات:

﴿مِرَّةٌ﴾ صفراء، پت، جسم کے چار اخلاط میں سے ایک۔ ﴿بَلْغَمٌ﴾ نزله، ریزش، جسم کے چار اخلاط میں سے ایک۔ ﴿مِرْتَقَى﴾ اسم مفعول؛ اوپر چڑھا ہوا۔ ﴿مُجَاوِرَةٌ﴾ اسم مصدر، باب مفاعله؛ پاس پاس ہونا، پڑوسی ہونا۔ ﴿لَوْحٌ﴾ لیس دار، چکنا۔

## مذکورہ بالا مسئلہ کی تفصیل:

اس عبارت کا تعلق تے ملء الفم سے ہے اور عبارت کا حاصل یہ ہے کہ منہ بھرتے کے ناقض وضو ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پت کی ہو یا کھانے یا پینے کی تے ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے علاوہ کسی نے بلغم کی تے کیا تو اس صورت میں حضراتِ طرفین کے یہاں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ وہ تے منہ بھر کے ہو اور جوفِ معدہ سے اتری ہوئی ہو۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلغم کی تے اگر جوفِ معدہ سے اوپر چڑھ کر ہوئی اور منہ بھر کر ہوئی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بلغم اگرچہ نجس نہیں ہوتا، مگر جوفِ معدہ سے اتصال کی وجہ سے اس میں نجاست کا اثر پیدا ہو جاتا ہے لہذا وہ ناقض وضو بن جائے گا۔

حضراتِ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بلغم چکنا ہوتا ہے اور اسی چکنے پن کی وجہ سے اس میں نجاست نہیں داخل ہو پاتی اور جوفِ معدہ کی وہ نجاست جس سے وہ متصل ہوتا ہے قلیل ہوتی ہے اور اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ قلیل نجاست ناقض وضو نہیں ہے۔ أما النازل الخ فرماتے ہیں کہ وہ بلغم جو سر سے اترتا ہے اور تے کے ذریعہ منہ سے خارج ہوتا ہے وہ کسی کے یہاں بھی ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سر سے اترتا ہے اور سر نجاست کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں اتصالی وغیرہ کا اندیشہ ہو۔

وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلِقَ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلءُ الْقِمِّ، لِأَنَّهُ سَوْدَاءٌ مُحْتَرَقَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رضی اللہ عنہ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، وَعِنْدَهُمَا إِنْ سَالَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، لِأَنَّ الْمِعْدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ، ﴿وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى مَا لَانَ مِنَ الْأَنْفِ نَقَضَ بِالِاتِّفَاقِ﴾ لَوْ صُوِّلَهُ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطَهِيرِ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ .

**ترجمہ:** اور اگر کسی نے خون کی تے کیا اور وہ بندھا ہوا خون ہے تو اس میں منہ بھر کر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ جلا ہوا سودا ہے۔ اور اگر وہ بنے والا ہو تو بھی امام محمد رضی اللہ عنہ کے یہاں یہی حکم ہے، تے کی تمام انواع پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور حضراتِ شیخین کے یہاں اگر وہ خون اپنی طاقت سے بہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا ہر چند کہ وہ تھوڑا ہو، اس لیے کہ معدہ محل دم نہیں ہے، لہذا وہ جوفِ معدہ کے زخم کا خون ہوگا۔

اور اگر سر سے ناک کے نرم حصے تک خون اترتا تو بالاتفاق وہ وضو کو توڑ دے گا، کیوں کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جسے پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، لہذا خروج متحقق ہو جائے گا۔

## اللغات:

﴿عَلَقٌ﴾ لوتھڑا، جما ہوا خون۔ ﴿سَوْدَاءٌ﴾ جسم کے چار اخلاط میں سے ایک۔ ﴿فَرْحَةٌ﴾ پھوڑا، زخم۔ ﴿جَوْفٌ﴾ ہر کھوکھلی چیز کا اندرونی حصہ۔ ﴿لَانَ﴾ لان یلین، باب ضرب؛ نرم ہونا۔

## خون کی قے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بندھے ہوئے خون کی قے کی تو اس کے ناقض وضو ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو، اگر منہ بھر کے قے ہوئی ہے تب تو ناقض ہوگی ورنہ نہیں۔ کیوں کہ مذکورہ خون جل کر سوداء ہو چکا ہے اور قے کی شکل میں نکلا ہے، لہذا یہ بات تو طے ہے کہ یہ معدہ سے اترتا ہے اور معدہ سے نکلنے والی قے وغیرہ میں ملنا الفم شرط ہے، لہذا اس میں بھی ملنا الفم شرط ہوگا۔

اور اگر وہ خون منجمد اور بندھا ہوا نہ ہو تو اس کے ناقض وضو ہونے میں ہمارے فقہاء ثلاثہ کا اختلاف ہے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دم بستہ اور قے کی دیگر اقسام میں (پانی، کھانے، پت، صفراء) ملنا الفم شرط ہے، اسی طرح اس میں بھی ملنا الفم شرط ہوگا، اگر منہ بھر کے قے ہو تو ناقض ہوگا ورنہ نہیں۔

حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ قے میں گرنے والا خون اگر بننے والا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سیلان کی کیا پوزیشن ہے وہ خود بہہ سکتا ہے یا نہیں، اگر وہ خود نہیں بہہ سکتا تو ملنا الفم کے بغیر ناقض نہیں ہے، لیکن اگر از خود بہہ جائے تو اس صورت میں مطلقاً ناقض ہے خواہ ملنا الفم کی شرط پائی جائے یا نہ پائی جائے، کیوں کہ از خود بہہ سکنے کی صورت میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ خالص معدہ والی قے نہیں ہے، بل کہ یہ خون معدے کے کسی زخم سے نکل کر بہا ہے اور اس پر دمیت (خونیت) غالب ہے اور دم کے ناقض ہونے کے لیے سیلان ضروری ہے اور یہاں سیلان پایا گیا اس لیے محض سیلان ہی سے وہ ناقض ہو جائے گا اور اس میں ملنا الفم کی شرط نہیں ہوگی۔

ولو نزل من الرأس الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر سر سے خون نکلا اور بہہ کر ناک کے نرم حصے تک (دونوں سراخ کی منڈی) پہنچ گیا تو بالاتفاق یہ ناقض وضو ہوگا، کیوں کہ یہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جسے غسل میں پاک کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، لہذا یہاں خروج متحقق ہے اور دیکھا جائے تو سیلان بھی موجود ہے، اس لیے یہ خون ناقض وضو ہوگا۔

وَالنَّوْمُ مُصْطَجِعًا أَوْ مُتَكِنًا أَوْ مُسْتِنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ ﴿لِأَنَّ الإِضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْحَاءِ الْمَفَاصِلِ فَلَا يَعْرَى عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ عَادَةً، وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَيَقِّنِ بِهِ، وَالِاتِّكَاءُ يُزِيلُ مُسْكَةَ الْيُقْطَعُ لِزَوَالِ الْمَقْعَدِ عَنِ الْأَرْضِ، وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْحَاءُ فِي النَّوْمِ غَايَتَهُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِسْتِنَادِ، غَيْرَ أَنَّ السَّنَةَ يَمْنَعُهُ



مِنَ السَّقُوطِ، بِخِلَافِ حَالَةِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ بَعْضَ الْإِسْتِمْسَاكِ بَاقٍ، إِذْ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ فَلَمْ يُتِمَّ الْإِسْتِرْحَاءُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ ❶ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ".

**ترجمہ:** اور کروٹ سونا یا ٹیک لگا کر سونا یا کسی ایسی چیز کی طرف سہارا لگا کر سونا کہ اگر اسے ہٹا لیا جائے تو سونے والا گر پڑے، اس لیے کہ کروٹ لینا جوڑوں کا بند ڈھیلے ہونے کا سبب ہے، لہذا عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوگا اور عادتاً ثابت ہونے والی چیز یقینی طور پر ثابت شدہ چیز کی طرح ہے۔ اور ٹیک لگانا بیداری کی رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ مقعد زمین سے ہٹ جاتا ہے۔ اور نیند میں اس طرح سہارا لینے سے استرخاء اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، لیکن ٹیک انسان کو گرنے سے روک رہتی ہے۔ برخلاف قیام، قعود رکوع اور سجدے کی حالت کے نماز وغیرہ میں، یہی صحیح ہے، کیوں کہ کچھ استمساک باقی ہے، اس لیے کہ اگر استمساک ختم ہو جاتا تو آدمی گر پڑتا، لہذا استرخاء مکمل نہیں ہوا۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اصل ہے کہ اس شخص پر وضو نہیں واجب ہے جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا رکوع یا سجدے کی حالت میں سوئے، وضو تو اس شخص پر واجب ہے جو کروٹ سوئے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کروٹ پر سو گیا تو اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہو گئے۔

## اللغات:

﴿مُضْطَجِعٌ﴾ پہلو کے بل لیٹنے والا، کروٹ لینے والا۔ ﴿مُسْتِنِدٌ﴾ سہارا لینے والا، ٹیک لگائے ہوئے۔ ﴿اسْتِرْحَاءٌ﴾ اسم مصدر، باب استفعال؛ ڈھیلا پڑ جانا۔ ﴿يَعْرَى﴾ عریٰ يعرى، باب ضرب؛ خالی ہونا، ننگا ہونا، عاری ہونا۔ ﴿مُسْكَةٌ﴾ روک، رکاوٹ، جس کی آڑ لی جا سکے۔

## تخریج:

- ❶ اخرجہ الترمذی فی الطہارت باب رقم ۵۷ حدیث رقم ۷۷ و ایضاً۔  
ابوداؤد فی الطہارت باب رقم ۷۹ والبیہقی ایضاً۔  
فی السنن الکبریٰ باب رقم ۵۷ حدیث رقم ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۹ بمعناہ۔

## نوافض وضوء کی دوسری قسم:

اس سے پہلے ان نوافض کا بیان تھا جو حقیقتاً اور واقعاً انسان کے بدن سے نکلتے ہیں، یہاں سے ان نوافض کا بیان ہے جو خارج نہیں ہوتے مگر وہ بدن ہی سے متعلق ہیں اور جن کے پائے جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی با وضو شخص کروٹ لیٹ کر سوتا ہے یا کسی سرین پر تکیہ لگا کر سوتا ہے یا کسی ایسی چیز پر سہارا لے کر سوتا ہے کہ اگر اسے ہٹا لیا

جائے تو سونے والا گر پڑے، تو ان تمام صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کروٹ لینے سے وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اضطجاع بند جوڑ کے ڈھیلے ہونے کا سبب ہے اور جوڑ بند ڈھیلا ہونے کی صورت میں عام طور پر کوئی نہ کوئی چیز نکل ہی جاتی ہے اور جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہونے کے مانند ہوتی ہے، اس لیے یہ امر تو مسلم ہے کہ کروٹ لینے سے استرخاء مفاصل کی وجہ سے ریح نکلتی ہے اور ریح نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور چوں کہ اضطجاع کی صورت میں بھی استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

اور انکاء (تکیہ لگانا) کے ناقض وضو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انکاء کی صورت میں بحالت بیداری بھی مقعد زمین سے اٹھ جاتا ہے اور استرخاء مفاصل متحقق ہو جاتا ہے، جب بیداری کی حالت میں یہ عالم ہے، تو بحالت نوم تو بدرجہ اولیٰ بند ڈھیلے ہو جائیں گے اور بند کا ڈھیلہ ہونا ہی وضو ٹوٹنے کا سبب ہے، اس لیے یہ صورت بھی ناقض وضو ہوگی۔

یعنی یہی صورت ٹیک لگانے میں بھی ہوتی ہے مگر ٹیک اور سہارا انسان کو گرنے سے روک رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس صورت میں گرنے کا اندیشہ رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر استرخاء مفاصل تو ہو ہی جاتا ہے اور استرخاء مفاصل ہی نقض وضو کا سبب ہے، اس لیے یہ صورت بھی ناقض وضو ہے۔

بخلاف حالة النوم النخ ان صورتوں کے بالمقابل اگر کوئی شخص قیام، قعود، رکوع اور سجدے کی ہیئت بنا کر نماز یا غیر نماز میں سوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ یہاں اگرچہ نوم متحقق ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ استمساک اور رکاوذ باقی ہے، اس لیے کہ اگر کلیتہً استمساک ختم ہو جاتا تو سونے والا دھڑام سے گر پڑتا، معلوم یہ ہوا کہ اس صورت میں استرخاء تو ہے مگر کامل نہیں ہے جب کہ نقض وضو کے لیے کامل استرخاء ضروری ہے اور وہ یہاں نہیں پایا گیا، اس لیے ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو عقلی دلیل ہے، اصل اور نقلی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ صرف کروٹ لیٹ کر سونے کی صورت میں ہی وضو ٹوٹتا ہے اور قیام، قعود اور رکوع وغیرہ کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

﴿وَالْعَلْبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِعْمَاءِ، وَالْجُنُونُ﴾ لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا فِي الْإِسْتِرْحَاءِ، وَالْإِعْمَاءُ حَدَثٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ إِلَّا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ، وَالْإِعْمَاءُ فَوْقَهُ فَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ .

**ترجمہ:** اور اعماء کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا اور جنون (یہ دونوں ناقض وضو ہیں) اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک استرخاء کے حوالے سے کروٹ ہو کر سونے سے بڑھ کر ہے، اور اعماء تمام حالتوں میں حدث ہے اور نوم میں بھی قیاس کا یہی تقاضا ہے، لیکن ہم نے اثر کے ذریعہ اسے پہچانا ہے اور پھر اعماء (بھی) اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے نوم کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

### اللغات:

﴿إِعْمَاءٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ ہوش و حواس کا جاتے رہنا۔ ﴿جُنُونٌ﴾ پاگل پن، دیوانگی۔ ﴿يَقَاسُ﴾ صیغہ مجہول، قاس بقیس، باب ضرب؛ سمجھنا، دو مختلف چیزوں میں مشترک بات کا ادراک کرنا، سمجھ دار ہونا، شعور کو استعمال کرنا۔

## بے ہوشی اور پاگل پن کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر انشاء کی وجہ سے کسی شخص کی عقل مغلوب ہو جائے یا جنون اور پاگل پن کی وجہ کسی کی عقل مسلوب ہو جائے تو یہ دونوں صورتیں ناقض وضو ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں استرخاء مفاصل کے سلسلے میں کروٹ سونے یا تکیہ وغیرہ لگا کر سونے سے بڑھی ہوئی ہیں اور جب کروٹ سونے اور تکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو استرخاء کے حوالے سے کروٹ سونے میں اس سے بھی بڑھی ہوئی ہیں، تو ان سے تو بدرجہ اولیٰ وضو ٹوٹ جائے گا۔

والإغماء الخ فرماتے ہیں کہ نوم تو صرف اضطجاع یا استکاء کی صورت میں حدث ہے قیام اور قعود کی حالت میں حدث نہیں ہے، مگر انشاء تو تمام حالتوں میں حدث ہے خواہ اضطجاعاً نوم ہو یا قیام اور قعود کی حالت میں ہو۔ اور انشاء کے فوق النوم ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے ”أي أنه حدث في الأحوال كلها“ فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ نوم بھی تمام حالتوں میں حدث ہو اور کسی بھی طرح سونے سے وضو ٹوٹ جائے، مگر چونکہ قیام اور قعود وغیرہ کی حالت میں سونے سے وضو کے عدم وجوب پر حدیث موجود ہے، اس لیے اس اثر (حدیث) کی وجہ سے قیام اور قعود وغیرہ کی نوم کو ناقض بننے سے الگ رکھا جائے گا اور اسے انشاء پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ بہر حال انشاء نوم سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سونے والا شخص اٹھانے اور متنبہ کرنے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جب کہ معنی علیہ دو ہاتھ مارنے سے بھی نہیں حرکت کرتا۔

اور رہا مسئلہ جنون کا تو وہ انشاء کا بھی باپ ہے، کیوں کہ انشاء میں عقل صرف مغلوب ہوتی ہے جب کہ جنون میں صرف مغلوب ہی نہیں، بل کہ مسلوب بھی ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیائے کرام کے حق میں انشاء کا تو امکان ہے مگر جنون کا امکان بالکل معدوم ہے۔

## انشاء کی تعریف میں مختلف اقوال:

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنا یہ میں انشاء کے متعلق کئی قول ذکر کیا ہے:

- ① یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کا قوی کم زور ہو جاتا ہے۔
- ② انشاء ایک طرح کا سہو ہے جو اعضاء کے ڈھیلے پن کی وجہ سے انسان کو لائق ہوتا ہے۔
- ③ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سرد اور موٹے بلغم کی وجہ سے دماغ کا اندرونی حصہ متاثر ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔

اور جنون کے سلسلے میں صرف یہ منقول ہے الجنون زوال العقل وفسادہ (۲۲۵/۱)۔

«وَالْفَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ» وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تَنْقُضُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رحمۃ اللہ علیہ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ نَجَسٍ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسُجْدَةِ التَّلَاوَةِ وَخَارِجِ الصَّلَاةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① «مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَفَهْقَهَةٌ فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا» وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ، وَالْأَثَرُ وَرَدَ

فِي صَلَاةٍ مُّطْلَقَةٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا، وَالْقَهْقَهَةُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَكَ وَلَجَيْرَانِهِ، وَالضُّحْكُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَكَ دُونَ جَيْرَانِهِ، وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ دُونَ الْوُضُوءِ .

**ترجمہ:** اور قہقہہ (بھی ناقص وضو ہے) رکوع اور سجدوں والی ہر نماز میں۔ اور قیاس یہ ہے کہ قہقہہ ناقص وضو نہ ہو اور یہی امام شافعی کا قول ہے، اس لیے کہ قہقہہ نکلنے والی کوئی نجس چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور نماز سے باہر قہقہہ حدث نہیں ہے۔

ہماری دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے ”سنو! تم میں سے جو شخص قہقہہ مار کر بیٹے، تو وہ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے۔ اور اس جیسے نص سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور اثر مطلق نماز کے متعلق وارد ہوا ہے، لہذا اسی پر منحصر ہوگا۔ اور قہقہہ یہ ہے کہ ہنسنے والا بھی سنے اور اس کا پڑوسی بھی سنے۔ اور ضحک وہ ہے جو ہنسنے والے کو سنائی دے، نہ کہ پڑوسی کو، اور ایک قول کے مطابق ضحک (صرف) نماز کو فاسد کرتا ہے نہ کہ وضو کو۔

## اللغات:

﴿قَهْقَهَةٌ﴾ شدت کے اعتبار سے ہنسی کا سب سے بالا درجہ، زور دار ہنسی۔ ﴿جَيْرَانٍ﴾ اسم جمع، واحد جار؛ پڑوسی، ہمسائے۔

## تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی السنن فی باب القهقهة فی الصلاة رقم ۵۸ حدیث رقم ۶۱۲، ۵۹۴، ۶۲۳۔

## قہقہہ، تعریف، حکم اور اس سے وضو ٹوٹنے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنس دے تو ہمارے یہاں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، جب کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ قہقہہ سے وضو وغیرہ میں کوئی فرق نہ ہو، اس لیے کہ وہ محض ایک آواز ہے اور کوئی نکلنے والی نجاست نہیں ہے اور آواز سے وضو کا ٹوٹنا سمجھ سے بالاتر ہے، اسی لیے حضرات ائمہ ثلاثہ قہقہہ کو ناقص وضو نہیں مانتے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو قہقہہ میں کوئی نجاست نکلتی ہے اور نہ ہی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت وغیرہ میں اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے ہم لوگ تو یہاں بھی اسے ناقص نہیں مانتے۔

ولنا الخ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا اور اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ ﷺ نے صیغہ امر کے ساتھ قہقہہ مارنے پر وضو اور نماز کے اعادے کا حکم دیا تھا، آپ کا یہ ارشاد اس بات کی صراحت ہے کہ قہقہہ وضو کے لیے ناقص اور نماز کے لیے مبطل ہے اور یہ حدیث حدیث مشہور ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ حدیث مشہور وغیرہ کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے اور قیاس سے کوئی آس نہیں لگائی جاتی۔

رہا مسئلہ نماز جنازہ وغیرہ کا تو وہ اس حکم سے خارج ہیں، اس لیے کہ قہقہہ کے ناقص وضو ہونے کا حکم کامل نماز میں وارد ہوا ہے اور چوں کہ یہ خلاف قیاس ہے اس لیے ماورد بہ الشرع پر ہی منحصر ہوگا اور ماورد بہ الشرع صلاۃ مطلقہ ہے، لہذا نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت وغیرہ میں قہقہہ لگانے سے ہمارے یہاں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔

والفہمۃ الخ صاحب کتاب نے خود ہی قہقہہ اور سخک کی تعریف کر دی ہے اس لیے اس کا اعادہ کرنا تو بلاسود ہے، البتہ ہنسنے ہی کی ایک قسم تبسم ہے اور وہ یہ ہے کہ جسے نہ تو خود ہنسنے والا سن سکے اور نہ ہی اس کے بغل والے کو سنا لی دے۔  
قہقہہ کا حکم تو آپ کو معلوم ہو گیا، سخک کا حکم یہ ہے کہ یہ مبطل صلوٰۃ تو ہے لیکن ناقض وضو نہیں ہے، اور تبسم نہ تو مبطل صلوٰۃ ہے اور نہ ہی ناقض وضو ہے۔

﴿وَالذَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الذُّبْرِ نَاقِضَةً، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ﴾ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ مِنْهُ ﴿لَا يَنْقُضُ﴾  
وَالْمَرَادُ بِالذَّابَّةِ الدُّوْدَةُ، وَهَذَا لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّيْلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا  
فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفَسَاءَ، بِخِلَافِ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْقُبُلِ وَالذَّكْرِ، لِأَنَّهَا لَا تَنْبَعُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ، حَتَّى  
لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُفْضَاةً يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنَ الذُّبْرِ .

**ترجمہ:** اور پاخانے کے راستے سے نکلنے والا کیڑا بھی ناقض وضو ہے، لیکن اگر زخم کے سرے سے کیڑا نکلا یا زخم سے گوشت گر پڑا تو یہ ناقض نہیں ہے۔ اور دابہ سے کیڑا مراد ہے۔ اور یہ (فرق) اس وجہ سے ہے کہ نجاست وہی ہے جو کیڑے کے اوپر ہے اور وہ مقدار قلیل ہے جو سبیلین میں حدث ہے نہ کہ ان کے علاوہ میں، تو یہ ڈکار اور پھسکی کے مشابہ ہو گیا۔  
برخلاف اس ریح کے جو عورت کی فرج یا مرد کے ذکر سے نکلے، اس لیے کہ وہ محل نجاست سے نہیں اٹھتی، حتیٰ کہ اگر عورت مفضاۃ ہو تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اس کی دبر سے ریح نکلنے کا احتمال ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿ذَابَّةٌ﴾ ہر وہ جاندار جو زمین پر حرکت کرتا ہو، کیڑا۔ ﴿جُرْحٌ﴾ زخم، جسم کی غیر فطری پھسن۔ ﴿دُوْدَةٌ﴾ کیڑا، رینگنے والا جانور۔ ﴿جُشَاءٌ﴾ معدے سے آنے والی وہ ہوا جو منہ کے راستے سے نکلے، ڈکار۔ ﴿فَسَاءٌ﴾ معدے سے آنے والی وہ ہوا جو مقعد کے راستے سے نکلے۔ ﴿مُفْضَاةٌ﴾ وہ عورت جس کے پیشاب اور پاخانے کے راستوں کا درمیانی پردہ ختم ہو گیا ہو۔

## بعض خارج من السبیلین سے وضو کے نہ ٹوٹنے کا بیان:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ وہ کیڑا جو پاخانے کے راستے سے نکلتا ہے وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر دبر کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی کیڑا نکلا یا زخم سے گوشت کا ٹکڑا گر گیا تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صاحب کتاب دبر اور غیر دبر کے کیڑے میں فرق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی کیڑا نفیہ نجس نہیں ہوتا، اس لیے دبر سے کیڑا نکلنے کی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، مگر چونکہ وہ کیڑا جو دبر سے نکلتا ہے اس میں نجاست لگی رہتی ہے اور ہر چند کہ یہ نجاست قلیل ہوتی ہے، لیکن سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے یہ ناقض وضو ہوتی ہے، کیوں کہ سبیلین سے نکلنے والی چیز مطلقاً ناقض ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر۔

اس کے بالمقابل زخم سے نکلنے والے کیزے پر بھی تھوڑی نجاست ہوتی ہے، مگر چون کہ وہ غیر سبیلین سے نکلتی ہے اور غیر سبیلین سے نکلنے والی تھوڑی نجاست ناقض نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ دبر سے کیزا نکلنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، مگر اس کے علاوہ کہیں اور سے نکلنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور دبر سے نکلنے والا کیزا پھسکی کے مشابہ ہے اور جس طرح پھسکی ناقض وضو ہے اسی طرح یہ بھی ناقض ہے، اور سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والا کیزا ڈکار کے مشابہ ہے یعنی جس طرح ڈکار آتی ہے، مگر غیر سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے ناقض وضو نہیں ہے، اسی طرح زخم وغیرہ سے نکلنے والا کیزا اور گرنے والا گوشت بھی ناقض وضو نہیں ہے۔

بخلاف الخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی فرج اور مرد کے ذکر سے ہوا نکلے تو دبر سے نکلنے والی ہوا کی طرح وہ ناقض وضو نہیں ہوگی، اس لیے کہ دبر سے نکلنے والی ہوا نجس ہونے یا محل نجاست سے اٹھنے کی وجہ سے ناقض رہتی ہے، اس کے برخلاف فرج یا ذکر سے نکلنے والی ہوا محل نجاست سے نہیں اٹھتی، اسی لیے وہ ناقض بھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت مفساۃ ہو (مفساۃ وہ عورت جس کے قبل اور دبر دونوں مل گئے ہوں) اور اس نے ہوا خارج کی تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ جب اس کا آگایا پھسکا ہو چکا ہے تو اب قطعی طور پر اس کے بے وضو ہونے کا فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ریح اس کے دبر سے نکلی ہو، اس لیے احتیاطاً اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔

﴿فَإِنْ فُشِرَتْ نَفْطَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ، إِنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ، وَإِنْ لَمْ يَسَلْ لَا يَنْقُضُ﴾ وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْقُضُ فِي الْوَجْهِينِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَنْقُضُ فِي الْوَجْهِينِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَجِسَةٌ، لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضِجُ فَيَصِيرُ قَيْحًا ثُمَّ يَزْدَادُ نَضْجًا فَيَصِيرُ صَدِيدًا ثُمَّ يَصِيرُ مَاءً، هَذَا إِذَا فُشِرَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا إِذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بَعْصَرَةٍ فَلَا يَنْقُضُ، لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

**ترجمہ:** پھر اگر چھلکا نکالا گیا اور اس سے پانی یا پیپ وغیرہ بھی اب اگر ان میں سے کوئی چیز زخم کے سرے سے بھی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر زخم کے سرے سے نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت امام زفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ خارج من غیر السبیلین کا مسئلہ ہے اور یہ تمام چیزیں (پانی، پیپ وغیرہ) ناپاک ہیں، اس لیے کہ خون پکتا ہے پھر کچا لہو بن جاتا ہے پھر مزید پکتا ہے تو پیپ بن جاتا ہے اور اخیر میں پانی ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب کوئی شخص چھلکا نکالے اور خود بخود پانی وغیرہ نکلے، لیکن اگر کوئی شخص زخم کو نچوڑے اور اس کے نچوڑنے کی وجہ سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ نکالا گیا ہے از خود نہیں نکلا ہے۔ واللہ اعلم

### اللغَات:

﴿فُشِرَتْ﴾ قَشَرَ يَفْشِرُ، باب نصر، ضرب، چھیلنا، چھلکا اتارنا۔ ﴿نَفْطَةٌ﴾ چچک کا آبلہ، مجازاً ہر دانہ اور پھنسی وغیرہ۔

﴿صَدِيدٌ﴾ کچ لہو، خون ملی ہوئی پیپ۔ ﴿يَنْضِجُ﴾ باب ضرب؛ شے کا کسی قدرتی سبب سے (آگ وغیرہ پر پکائے بغیر) پک جانا۔

### چھالے اور پھوڑے سے نکلنے والے خون اور پیپ کی مختلف صورتیں اور ان کے حکم کا بیان:

صاحب ہدایہ نے خود ہی یہ بتلا دیا ہے کہ عبارت میں بیان کردہ مسئلہ خارج من غیر السبیلین والی شکلوں اور صورتوں سے ہم آہنگ ہے، اور اس کو اس لیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ خود سے نکلنے والے اور دبا کر اور نچوڑ کر نکالے ہوئے خون اور پیپ وغیرہ کا فرق معلوم ہو جائے۔ بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زخم اور چھالے وغیرہ سے اوپر کا چھلکا الگ کیا اور اس میں سے پتلا پانی یا پیپ وغیرہ ہی تو ہمارے یہاں چوں کہ خارج من غیر السبیلین میں سیلان شرط ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ نکلنے والی چیز میں سیلان ہے یا نہیں؟ اگر خارج شدہ چیز میں سیلان ہے اور وہ از خود بہہ جاتی ہے تب تو ناقض وضو ہوگی ورنہ نہیں۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چوں کہ سیلان شرط نہیں ہے اور خارج من غیر السبیلین ان کے یہاں مطلقاً ناقض وضو ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ نکلنے والی چیز بہے یا نہ بہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خارج من غیر السبیلین میں مطلقاً ناقض نہیں ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ پیپ وغیرہ نکل کر بہے یا نہ بہے۔

وهذه الجملة صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ زخم سے نکلنے والی (پانی، خون اور پیپ) تمام چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، کیوں کہ جب خراب خون اندر ہی اندر پکتا ہے تو وہ کچا بدبودار لہو بن جاتا ہے، پھر جب مزید پکتا ہے تو پیپ اور اس کے بعد اخیر میں باریک پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی وجہ سے ان کی ناپاکی میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا اور ناپاک چیز میں اگر سیلان پایا جائے تو ہمارے یہاں ناقض وضو ہوتی ہے، اسی لیے ان تمام صورتوں میں ہمارے یہاں سیلان شرط ہے۔

هذا إذا قشرها الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ گذشتہ بالا صورت میں نقض وضو کا حکم اسی صورت میں درست ہے جب یہ چیز میں چھلکا ہٹانے کے بعد از خود نکلیں، لیکن اگر یہ از خود نہ نکلیں اور نچوڑنے کے بعد دبانے اور نچوڑنے کی وجہ سے نکلیں تو اس صورت میں ناقض وضو نہیں ہوں گی، کیوں کہ اس صورت میں یہ خارج نہیں، بلکہ مخرج ہوں گی اور ہمارا کلام خارج سے متعلق ہے نہ کہ مخرج سے..... اور اسی فرق کو بتلانے کے لیے صاحب ہدایہ نے اسے یہاں بیان کیا ہے۔



# فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ

## فصل غسل کے احکام کے بیان میں ہے

صاحب ہدایہ نے غسل کے بیان کو وضو کے بیان سے مؤخر کیا ہے اور اس تاخیر کی چار وجوہات ہیں (۱) غسل کی بہ نسبت وضو کی حاجت زیادہ ہے (۲) وضو کا محل بدن کا جزء ہے اور غسل کا محل بدن کا کل ہے اور جزء کل پر مقدم ہوتا ہے (۳) قرآن کریم میں بھی پہلے وضو پھر غسل کے احکام کا بیان ہے، اس لیے کتاب اللہ کی اقتداء میں ایسا کیا گیا (۴) وضو میں حدیث اصغر سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اور غسل میں حدیث اکبر سے، اور اکبر کے بالمقابل اصغر کو اولیت اور تقدیم حاصل ہے۔

﴿غسل﴾ کے معنی ہیں فعل یعنی غسل کرنا، پورا بدن دھونا۔ ﴿غسل﴾ کے معنی ہیں مطلق دھونا۔ ﴿غسل﴾ کے معنی ہیں وہ چیز جس سے دھویا جائے، مثلاً صابون اور خطمی وغیرہ۔

﴿وَقَرَضُ الْغُسْلِ الْمُمْضِضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ﴾ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ هُمَا سُنَّتَانِ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ أَيَّ مِنَ السُّنَّةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمُمْضِضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَلِهَذَا كَانَا سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، أَمَرَ بِالِاطَّهَارِ، وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّ مَا تَعَدَّى إِصْصَالَ الْمَاءِ إِلَيْهِ خَارِجٌ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ، وَالْمُؤَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ، وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى حَالَةَ الْحَدِيثِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُمَا ② قَرَضَانِ فِي الْجَنَابَةِ، سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ .

**ترجمہ:** اور غسل کا فرض کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور تمام بدن کو دھونا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مضمضہ اور استنشاق غسل میں سنت ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دس چیزیں فطرت یعنی سنت میں سے ہیں اور ان میں سے آپ نے مضمضہ اور استنشاق کو بھی بیان فرمایا، یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں وضو میں سنت ہیں۔

ہماری دلیل باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (اگر تم ناپاک ہو تو خوب قاعدے سے پاکی حاصل کرو) اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں اطہار پاکی حاصل کرنے) کا حکم دیا ہے اور اطہار تمام بدن کو پاک کرنے کا نام ہے، البتہ جہاں پانی پہنچانا



دشوار ہے وہ اس حکم سے خارج ہے، برخلاف وضو کے، اس لیے کہ وضو میں وجہ کا دھونا فرض ہے جب کہ مضمضہ اور استنشاق میں مواجہت معدوم ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث کی مراد حدث کی حالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس پر دلیل ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دونوں غسل جنابت میں فرض ہیں اور وضو میں سنت ہیں۔

## اللغات:

﴿اِسْتِنشَاقُ﴾ اسم مصدر؛ سانس کے ساتھ ناک میں پانی اوپر کھینچنا۔ ﴿اِطْهَارٌ﴾ اسم مصدر، باب افتعال؛ دھونے میں مبالغہ کرنا، شے کو مکمل دھونا، پاک کرنا۔ ﴿اِیْصَالٌ﴾ اسم مصدر، باب انفعال؛ پہنچانا، ملا دینا۔ ﴿مُنْعَدِمَةٌ﴾ اسم فاعل، باب انفعال؛ ختم ہونا، نہ پایا جانا، وجود کی ضد۔

## تخریج:

① اخرجہ اصحاب الصحاح إلا البخاری. مسلم فی الطہارات حدیث رقم ۵۶. ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب رقم ۲۹. ترمذی فی الادب باب رقم ۱۴. نسائی فی الزینۃ باب رقم ۱. و ابن ماجہ فی الطہارۃ باب رقم ۸ و ایضاً الامام احمد فی المسند.

② اخرجہ دارقطنی باب فی المضمضۃ والاستنشاق باب رقم ۴۲ حدیث رقم ۴۰۳ لا بلفظہ ولكن بمعناه.

## وضو اور غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم:

صاحب کتاب وضو اور اس کے متعلقات سے فارغ ہو کر اب غسل اور اس کی تفصیلات کو بیان کر رہے ہیں، آپ اسے یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کا دھونا غسل میں فرض ہے، اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مضمضہ اور استنشاق غسل میں فرض نہیں بل کہ سنت ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ایک روایت ہے۔ ان حضرات کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر من الفطرۃ والی حدیث میں جن دس چیزوں کو مسنون قرار دیا ہے ان میں مضمضہ اور استنشاق بھی داخل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں فرائض میں سے نہیں، بل کہ مسنونات کے قبیل سے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دونوں وضو میں سنت ہیں اور وضو کی طرح غسل بھی طہارت ہی ہے، اس لیے غسل میں بھی یہ چیزیں مسنون ہوں گی۔

ولنا الخ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وإن كنتم جنبا فاطهروا کے ذریعے غسل کرنے کا حکم دیا ہے اور جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ مبالغے کا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ غسل کیا جائے۔ اور اہتمام اسی صورت میں ہوگا جب اندر باہر کی خوب اچھی طرح دھلائی کی جائے اور یہ دھلائی اسی وقت ممکن ہوگی جب منہ کے اندر کے حصے یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کو فرض قرار دیا جائے، اسی لیے ہمارے یہاں مضمضہ اور استنشاق غسل میں فرض ہیں۔

إلا أن ما تعذر الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطهروا کے پیش نظر تو بدن کے ہر ہر جز کو بہت اچھی طرح دھونا اور وہاں پانی پہنچانا چاہیے، جیسے کان کا اندرونی حصہ، آنکھ کا اندرونی حصہ وغیرہ وغیرہ، مگر چون کہ ان اعضاء میں پانی پہنچانا دشوار ہے، اس

لیے یہ چیزیں سرسری طور پر تو دھولی جائیں گی، مگر انھیں فرض یا واجب نہیں قرار دیا جائے گا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔  
بخلاف الوضوء سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی غسل کو وضو پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ وضو میں وجہ کا دھونا فرض قرار دیا گیا ہے اور وجہ مواجہت سے مشتق ہے جو چہرے میں تو موجود ہے، مگر مضمضہ اور استنشاق میں مواجہت معدوم ہے، اب جب ان میں مواجہت ہے ہی نہیں تو اس کو مواجہت والی صورت پر قیاس کرنا کیسے درست ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ وضو حدیث اصغر ہے اور غسل حدیث اکبر ہے، اور غسل میں وضو کے فرائض اربعہ شامل ہیں، اب اگر ہم مضمضہ اور استنشاق دونوں کو وضو کی طرح غسل میں بھی فرض مانیں تو ماہا الفرق بیہما۔  
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث غسل سے نہیں، بل کہ وضو سے متعلق ہے اور وضو ہی اس کا محل ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں صاف طور پر یہ مضمون وارد ہوا ہے **إِنَّمَا (أَيِ الْمَمْضُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ) فِرْصَانِ فِي الْجَنَابَةِ سِتْنَانِ فِي الْوُضُوءِ**۔

﴿ وَسُنَّتُهُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ يَدَيْهِ وَقَرْجِهِ وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَوُضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ﴾ هَكَذَا حَكَّتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها اغْتَسَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ① رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا يُؤَخَّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَلَا يُفِيدُ الْغَسْلُ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ لَا يُؤَخَّرُ، وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقَةِ كَمَا لَا تَزْدَادُ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ.

**ترجمہ:** اور غسل کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے والا جب غسل کرنا شروع کرے، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی شرم گاہ کو دھوئے اور اگر اس کے بدن پر نجاست ہو تو اسے بھی زائل کرے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے مگر اپنے پیروں کو نہ دھوئے، پھر اپنے سر اور تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے، پھر اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پیروں کو دھوئے۔ حضرت ميمونہ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بیان کیا ہے

اور متغسل اپنے پیروں کے غسل کو اس لیے مؤخر کرے گا کیوں کہ وہ ماء مستعمل کرنے کی جگہ میں ہیں، لہذا (عدم تاخیر کی صورت میں) غسل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اگر متغسل کسی سختی پر کھڑا ہو کر غسل کرے تو پیروں کے دھلنے کو مؤخر نہ کرے۔ اور نجاست حقیقہ زائل کرنے کے ساتھ اس لیے ابتداء کرے، تاکہ پانی لگنے کی وجہ سے نجاست پھیلنے نہ پائے۔

## اللغات:

﴿يُفِيضُ﴾ أفاض يفيض إفاضة، باب افعال؛ بهانا۔ ﴿يَتَنَحَّى﴾ تنحى يتنحى تنحيا، باب تفعّل؛ ہٹنا۔ ﴿مُسْتَنْقَعٌ﴾ وہ تالاب جس میں پانی اکثر جمع رہتا ہو، سمندر، پانی کے گرنے کی جگہ۔

① اخرجه اصحاب الصحاح بخاری باب في الغسل حديث رقم ۲۵۸.

مسلم في الحيض حديث رقم ۳۸۳۷.

ابوداؤد في الطهارة باب رقم ۹۷ حديث رقم ۲۴۵.

### غسل کا مسنون طریقہ:

صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں غسل کے مسنون طریقے کو بیان کیا ہے اور یہ طریقہ حضور نبی کریم ﷺ سے منقول ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ غسل کرنے والا سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں سمیت دھوئے، اس کے بعد اپنی شرم گاہ کو دھوئے اور دیکھے کہ اگر بدن پر ادھر ادھر نجاست لگی ہے تو اسے بھی صاف کرے، اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرے، البتہ پیروں کو نہ دھوئے، پھر اپنے پورے جسم پر تین مرتبہ پانی ڈالے اور خوب ملن ملن کر اسے دھوئے، اس کے بعد جس جگہ غسل کر رہا تھا وہاں سے ہٹ جائے اور اپنے قدموں کو دھوئے، یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے، اور حضرت میمونہ سے منقول ہے۔

وإنما يؤخر الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ طریقہ غسل میں جو پاؤں کے دھونے کو مؤخر بتلایا گیا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب انسان ایسی جگہ غسل کرے جہاں غسالہ (غسل کا پانی) جمع ہوتا ہو اور پیروں کے ماء مستعمل میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی تخت پر بیٹھ کر غسل کرے یا پکے فرش پر غسل کرے یا کسی ایسی جگہ غسل کرے جہاں غسل کا پانی جمع نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے قدموں کے دھلنے کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے، بل کہ جس طرح ابتداء میں دیگر اعضائے وضو کو دھوئے اسی طرح قدموں کو بھی دھولے۔

وإنما يبدأ الخ فرماتے ہیں کہ آغاز غسل میں بدن سے نجاست ہتھیقہ کو زائل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بدن پر نجاست لگی ہوگی اور اسے صاف نہیں کیا جائے گا تو پانی لگنے سے نجاست پھیل جائے گی اور پورا بدن نجاست سے متاثر ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی دھل کر اسے صاف کر لیا جائے۔

﴿وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَقْضُ صَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① لَأَمْ سَلَمَةَ ﷺ بِكَفَيْكَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِكَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَائِبِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ، بِخِلَافِ اللَّحْيَةِ، لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي إِبْصَالِ الْمَاءِ إِلَى أُنْثَاهَا.

**ترجمہ:** اور عورت پر غسل میں اپنے گوندھے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بشرطیکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو، اس لیے کہ آپ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اگر پانی تمہارے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو تمہارے لیے کافی ہے۔ اور عورت پر اپنے گیسوؤں کو بھگونانا لازم نہیں ہے یہی صحیح ہے، کیوں کہ اس میں حرج ہے، برخلاف ڈاڑھی کے، کیوں کہ ڈاڑھی کے بچ میں پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿تَنْقُضُ﴾ نَقَضَ يَنْقُضُ، باب نصر؛ توڑنا، بٹی ہوئی رسی کے بل کھولنا۔ ﴿صَفَائِرُ﴾ واحد صفيروہ، صفار؛ چوٹی، ایک گوندھی ہوئی بالوں کی لٹ، چٹیا۔ ﴿أُصُولُ﴾ واحد أصل؛ بنیاد اور جڑ۔ ﴿بَلُّ﴾ البَلُّ مصدر، باب نصر، ترکنا، بھگونا۔ ﴿ذَوَائِبُ﴾ واحد ذؤابة؛ بالوں کی لٹ، زلف، جڑ سے دور کے بال، گیسو۔ ﴿أَثْنَاءُ﴾ درمیان، بیچ۔

## تَخْرِيج:

① اخرجہ مسلم بهذا اللفظ حديث رقم ۳۳۰ باب في الحيض.

ابوداؤد كتاب الطهارة باب رقم ۹۹ حديث رقم ۲۵۱.

ترمذی في الطهارة باب رقم ۷۷ حديث رقم ۱۰۳.

## مرد اور عورت کا طریقہ غسل:

مرد اور عورت کے طریقہ غسل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن چون کہ مردوں کے بالمقابل عورتوں کے بال لمبے اور دراز ہوتے ہیں اس لیے صاحب کتاب بالوں کا حکم الگ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کھولے بغیر عورت کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہو تو اس صورت میں عورت کے لیے گوندھے ہوئے بالوں کو کھولنا اور پورے بالوں کو نیچے سے اوپر تک ترکنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے دریافت فرمایا تھا تو آپ نے جواب میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جو کتاب میں مذکور ہے، یعنی اگر بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر بالوں کو کھولنا اور کھول کر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، فتح القدر اور عنایہ وغیرہ میں مسلم شریف کے حوالے سے پوری حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في غسل الجنابة؟ فقال لا إنما يكفيك أن تحشي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين۔ (۱/۶۳)

وليس عليها الخ فرماتے ہیں کہ جس طرح عورت کے لیے گوندھے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے اپنے گیسو بٹے ہوئے بالوں کو ترکنا بھی ضروری نہیں ہے اور یہی صحیح ہے، کیوں کہ گیسوؤں کو ترک کرنے میں حرج ہے اور شریعت نے حرج کو دور کر رکھا ہے۔

صاحب ہدایہ نے ہو الصحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا ہے جس میں گیسوؤں کو تین مرتبہ ترک کرنے اور ہر مرتبہ نچوڑنے کا حکم لگایا گیا ہے۔ اس کے برخلاف ڈاڑھی کے اندرونی بالوں میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو اس میں کوئی حرج اور مشقت ہے اور نہ ہی ڈاڑھی میں ربڑ وغیرہ لگا کر اسے سمیٹا جاتا ہے۔

﴿قَالَ وَالْمَعَانِي الْمَوْجِبَةُ لِلْغُسْلِ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقِظَةِ﴾ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ كَيْفَ مَا كَانَ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَاءُ ①

مِنَ الْمَاءِ، أَيْ الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ، وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنْبَ، وَالْجَنَابَةُ فِي اللُّغَةِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ، يُقَالُ أُجِنِبَ الرَّجُلُ إِذَا قَضَى شَهْوَتَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُرُوجِ عَنْ شَهْوَةِ، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْفِصَالُهُ عَنِ مَكَانِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ظُهُورُهُ أَيْضًا إِعْتِبَارًا لِلْخُرُوجِ بِالْمَزَايِلَةِ، إِذَا الْغُسْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَتَى وَجَبَ مِنْ وَجْهِ فَالْإِحْتِيَاظُ فِي الْإِيْجَابِ .

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے منی کا نکلنا ہے کودنے اور شہوت کے طور پر، عورت کی جانب سے ہو یا مرد کی طرف سے، نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں، اور امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے یہاں جس طرح بھی منی نکلے وہ موجب غسل ہوگی، اس لیے کہ آپ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا ارشاد گرامی ہے الماء من الماء یعنی منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تطہیر کا حکم جنہی کو شامل ہے اور لفت میں شہوت کے طور پر منی نکلنے کو جنابت کہتے ہیں، چنانچہ اجنب الرجل اسی وقت بولا جاتا ہے جب مرد عورت سے اپنی شہوت پوری کر لے۔

اور (امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی پیش کردہ حدیث) شہوت کے ساتھ نکلنے پر محمول ہے، پھر حضرات طرفین کے یہاں شہوت کے ساتھ منی کا اپنے مکان سے جدا ہونا معتبر ہے اور امام ابو یوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے یہاں خروج کو جدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے منی کا (بالشهوة) ظہور بھی معتبر ہے، کیوں کہ غسل کا تعلق دونوں سے ہے، اور حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب من وجہ غسل واجب ہو چکا ہے تو اسے واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔

### اللغات:

﴿الدَّفْقُ﴾ پانی وغیرہ کا زور سے بہنا یا ابلنا، جوش کے ساتھ نکلنا۔ ﴿الْيَقْظَةُ﴾ بیداری کی حالت۔ ﴿الْمَزَايِلَةُ﴾ مصدر باب مفاعلہ؛ دو چیزوں کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا۔

### تخریج:

- ① اخرجہ مسلم فی الحيض حدیث رقم ۸۱۔
- ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب رقم ۸۳۔

### موجبات غسل کا بیان:

وضو کے موجبات اور نواقض کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد صاحب کتاب اب یہاں سے موجبات غسل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجوب غسل کا سب سے پہلا سبب شہوت کے ساتھ کودنے کے طور پر منی کا نکلنا ہے، خواہ مرد کی شرم گاہ سے نکلے یا عورت کی، جس کی شرم گاہ سے بھی اس طرح منی کا خروج ہوگا اس پر ہمارے یہاں غسل واجب ہوگا چاہے وہ نیند میں ہو یا جاگ رہا ہو۔

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی کا نکلنا ہی وجوب غسل کا سبب ہے خواہ کسی بھی طرح نکلے، چاہے گرنے سے نکلے یا کوئی بھاری چیز اٹھانے سے نکلے یا اور کسی طرح نکلے، بہر حال خروج منی وجوب غسل کا سبب ہے، اس میں شہوت اور دفتی ہو یا نہ ہو۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، امام مسلم اور امام ابوداؤد نے اپنی کتابوں میں اسے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے إنما الماء من الماء، اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجہ استدلال اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں مطلقاً خروج منی پر وجوب غسل کا حکم لگایا ہے اور شہوت یا دفتی وغیرہ کی شرط اور قید سے احتراز کیا گیا ہے، لہذا ہم بھی حدیث کو مطلق مانیں گے اور المطلق یجری علی إطلاقہ والے فارمولے کی رو سے مطلق خروج منی کو موجب غسل قرار دیں گے۔

ولنا الخ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وإن كنتم جنباً فاطهروا کے ذریعہ تطہیر کا جو فرمان جاری کیا ہے وہ جنبی کو شامل ہے اور جنبی جنابت سے مشتق ہے اور جنابت کے لغوی معنی ہیں خروج المنی علی وجہ الشهوة، یہی وجہ ہے کہ اہل عرب أجنب الرجل کہہ کر اسی شخص پر جنبی ہونے کا اطلاق کرتے ہیں جو کسی عورت سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اور عربی الفاظ کے معانی وغیرہ کے متعلق اہل عرب کی رائے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لہذا جنبی کا جو مفہوم و مصداق ان کے یہاں متعین ہوگا وہی معتبر ہوگا، اور چون کہ اہل عرب کے مفہوم میں شہوت کی قید ملحوظ ہے، اس لیے آیت کے مصداق میں بھی ہمیں یہ قید لگانی پڑے گی اور اسی صورت میں غسل کو واجب قرار دیا جائے گا جب منی شہوت کے ساتھ خارج ہوگی۔

والحدیث محمول الخ صاحب ہدایہ امام شافعی کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خروج بالشهوة پر محمول ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ الماء کا الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے اور اس سے مراد خروج المنی عن شهوة ہے، کیوں کہ یہی اہل عرب کے یہاں معہود تھا۔ نیز اس حدیث سے خروج بالشهوة مراد ہونے پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی مؤید ہے جس کا مضمون یہ ہے أنها سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى فی منامها مثل ما یری الرجل فقال علیہ الصلاة والسلام أتجد لذلك لذة؟ قال نعم، قال علیہ الصلاة والسلام فلتغتسل اور یہ بات طے ہے کہ لذت خروج بالشهوة کی صورت ہی میں متحقق ہوتی ہے۔

### خروج منی میں شہوت کی شرط اور امام ابو یوسف کا مذہب:

ثم المعتبر الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ علمائے احناف کے یہاں اپنی مستقر اور صلب سے منی کے جدا ہوتے وقت شہوت شرط ہے، لیکن خروج کے وقت شہوت کے شرط ہونے یا نہ ہونے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، چنانچہ حضرات طرفین کے یہاں خروج اور ظہور کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، جب کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس صورت میں بھی شہوت شرط ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ غسل کا تعلق انفصال اور خروج دونوں سے ہے، کیوں کہ اگر صرف منی کا انفصال ہو اور خروج نہ ہو تو غسل نہیں واجب ہوگا، اور انفصال کے وقت بالاتفاق شہوت شرط ہے، لہذا جب انفصال کے وقت شہوت شرط ہے تو خروج کے وقت بھی شرط ہوگی۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انفصال کے وقت شہوت پائی جانے کی وجہ سے غسل واجب ہونا چاہیے اور خروج کے وقت اگر شہوت نہ پائی جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ غسل واجب نہ ہو اور احتیاط غسل کو واجب کرنے میں ہے، اس لیے اگر انفصال کے وقت شہوت موجود ہے تو خروج منی سے بہر حال غسل واجب ہوگا، خواہ خروج کے وقت شہوت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔

﴿وَالْتِقَاءُ خَتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ انْزَالٍ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا التَّقَى الْخَتَانَانِ وَعَايَبَ الْحَشْفَةَ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلانْزَالِ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ، وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقَائِهِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ، وَكَذَا الْإِبْلَاجُ فِي الدُّبْرِ لِكَمَالِ السَّبَبِيَّةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ إِحْتِيَاظًا، بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ مَا دُونَ الْفَرْجِ، لِأَنَّ السَّبَبِيَّةَ نَاقِصَةٌ.

**ترجمہ:** اور مردوزن کے ختان کا باہم ملنا (بھی موجب غسل ہے) بغیر انزال کے (بھی) اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: جب دونوں ختان مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اور اس لیے بھی کہ التقاء ختانین انزال کا سبب ہے اور انزال انسان کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے، بل کہ کبھی تو قلت منی کی وجہ سے انزال ہی مخفی ہو جاتا ہے، لہذا التقاء ختانین کو انزال کے قائم مقام مانا جائے گا۔ اور اسی طرح دبر میں ادخال کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ سبب کامل ہے۔ اور احتیاطاً مفعول بہ پر بھی غسل واجب ہے، برخلاف چوپایہ اور فرج کے علاوہ کے، اس لیے کہ ان میں سبب ناقص رہتا ہے۔

## اللغات:

﴿خَتَانٌ﴾ ختنہ کرنے کی جگہ۔ مجازاً آلات تناسل (مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے)۔ ﴿حَشْفَةٌ﴾ مرد کے پیشاب کی جگہ کا اگلا حصہ جو ختنہ کے بعد کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ﴿إِبْلَاجٌ﴾ مصدر، باب افعال؛ داخل کرنا، ڈالنا۔ ﴿دُبْرٌ﴾ پاخانے کی جگہ، مقعد کا سراخ۔ ﴿بَهِيمَةٌ﴾ چوپایہ، درندوں کے علاوہ دیگر جانور۔ ﴿فَرْجٌ﴾ شرمگاہ۔

## تخریج:

① اخرجہ البخاری باب الغسل باب رقم ۲۸.

اخرجہ دارقطنی حدیث ۳۸۶ باب فی وجوب الغسل بالتقاء الختانیین و ان لم ینزل باب رقم ۴۱ حدیث رقم ۳۸۶.

## التقاء ختانین کا حکم:

صورت مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ختان اس جگہ کو کہتے ہیں جسے ختنہ کرتے وقت کاٹا جاتا ہے، چوں کہ اہل عرب مردوں کی طرح عورتوں کا بھی ختنہ کرتے اور کراتے تھے، اس لیے ایک ہی لفظ مرد اور عورت دونوں کے موضع ختنہ کو شامل ہے۔ اور حشفہ اس سپاری کو کہتے ہیں جو ختنہ کے بعد کٹ کر نمایاں ہو جاتی ہے۔ عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر مردوزن کے ختان ایک دوسرے سے مل جائیں اور مرد کی سپاری عورت کی شرم گاہ میں چھپ جائے تو اس صورت میں

میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہوگا خواہ انزال ہو یا نہ ہو، اور اس سلسلے میں سب سے اصل اور مستند متدل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے کہ إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، یعنی التقاء ختائین کے بعد غنیو بت حشفہ کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔

دوسری دلیل جو عقلی ہے وہ یہ ہے کہ ضابطے کے تحت جس چیز پر حکم مرتب ہوتا ہے اگر وہ چیز مخفی اور پوشیدہ رہتی ہے، تو حکم کا ترتب اس کے ظاہری سبب پر ہوتا ہے اور یہی سبب ظاہر اس مخفی شئی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، صورت مسئلہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انزال ایک مخفی شئی ہے جو ہم بستری کرنے والے کی نگاہ سے اوجھل رہتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قلت منی کی بنا پر انزال کا احساس تک بھی نہیں ہوتا، اب ظاہر ہے جب انزال میں اس درجہ خفاء ہے تو لامحالہ حکم کا ترتب اس کے ظاہری سبب پر ہوگا اور انزال کا ظاہری سبب التقاء ختائین ہے، لہذا اسی پر وجوب غسل کا حکم مرتب ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ التقاء ختائین کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔

و کذا الإیلاج الخ فرماتے ہیں کہ جس طرح قبل میں التقاء ختائین کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور انزال کی شرط نہیں لگائی جاتی، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی بد بخت قبل کے بجائے دبر میں اپنی شہوت پورے کرے تو یہاں بھی محض ایلاج اور غنیو بت حشفہ سے غسل واجب ہو جائے گا اور انزال وغیرہ کی شرط نہیں ہوگی، کیوں کہ جس طرح ادخال فی القبل کی صورت میں کمال سبب اور حصول لذت کے پیش نظر غسل واجب ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی چون کہ کمال سبب اور حصول لذت موجود ہے، اس لیے یہ صورت بھی موجب غسل ہے۔

ویجب الخ فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ صورت میں فاعل پر تو غسل واجب ہے ہی، فاعل کے ساتھ مفعول بہ پر بھی احتیاطاً غسل واجب ہے، احتیاطاً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ادخال فی الدبر کی صورت میں مفعول بہ سے منی کا خروج نہیں ہوتا، مگر چون کہ طہارت کے باب میں احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے مفعول بہ پر وجوب غسل کا حکم بیان کرتے وقت صاحب کتاب نے احتیاط کی قید لگائی ہے۔

بخلاف البهيمه الخ اس عبارت کا تعلق فی مقام مقامه الخ سے ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ التقاء ختائین کو صرف عورتوں کے قبل اور دبر (خواہ مرد کی ہو یا عورت کی) ہی میں انزال کے قائم مقام مان کر موجب غسل قرار دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بد فعلی کرے یا عورت کی شرم گاہ کے علاوہ ران وغیرہ میں ادخال کر کے لذت حاصل کرے تو ان صورتوں میں التقاء ختائین ہی نہیں ہوگا، اس لیے انزال کے بغیر غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وجوب غسل کے لیے سبب کا کامل ہونا شرط ہے اور یہاں سبب ناقص اور نامکمل ہے فلا یؤدی الی الغسل۔

﴿وَالْحَيْضُ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَطْهَرْنَ بِالتَّشْدِيدِ، ﴿وَكَذَا النَّفَسُ بِالْإِجْمَاعِ﴾.

ترجمہ: اور حیض (بھی موجب غسل ہے) باری تعالیٰ کے فرمان حتی یطہرن (تشدید کے ساتھ) کی وجہ سے، نیز نفاس کا بھی بالاتفاق یہی حکم ہے۔



### توضیح:

مسئلہ یہ ہے کہ موجبات غسل میں سے ایک سبب حیض کا انقطاع بھی ہے، یعنی جب کسی عورت کا حیض شروع ہو تو جب خون آنا بند ہو جائے اس وقت اس پر غسل واجب ہوگا، غسل کے بغیر اس کے لیے نماز روزہ مباح نہیں ہوگا، اس امر کی دلیل باری تعالیٰ کا فرمان حتیٰ یطہرن ہے اور اس آیت سے وجہ استدلال یوں ہے، کہ یطہرن کو تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے جس میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہاں مبالغہ یہی ہے کہ جب خون آنا بند ہو جائے تو اس وقت عورت اچھی طرح غسل کر کے پاک صاف ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو حکم حیض کا ہے وہی حکم نفاس کا بھی ہے، یعنی جس طرح دم حیض کا انقطاع موجب غسل ہے، اسی طرح دم نفاس کا اختتام بھی موجب غسل ہے اور اس میں حضرات فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

﴿وَسَنَّ ① رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعَرَفَةَ وَالْأَحْرَامِ﴾ صَاحِبُ الْكِتَابِ نَصَّ عَلَى السُّنِّيَّةِ، وَقِيلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَسَمَّى مُحَمَّدٌ ﷺ الْغُسْلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَسَنًا فِي الْأَصْلِ، وَقَالَ مَالِكٌ ﷺ هُوَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَتَى ② الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَلَنَا قَوْلُهُ ③ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبَهَا وَنَعِمْتُ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَبِهَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى النَّسْخِ، ثُمَّ هَذَا الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِزِيَادَةِ فَضِيلَتِهَا عَلَى الْوَقْتِ وَاخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا، وَفِيهِ خِلَافٌ الْحَسَنِ ﷺ وَالْعِيدَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ، لِأَنَّ فِيهِمَا الْاجْتِمَاعُ فَيُسْتَحَبُّ الْإِغْتِسَالُ دَفْعًا لِلتَّأْذِي بِالرَّائِحَةِ، وَأَمَّا فِي عَرَفَةَ وَالْأَحْرَامِ فَسُنِّيَّتُهُ فِي الْمَنَاسِكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

**ترجمہ:** نبی کریم ﷺ نے جمعہ، عیدین، عرفہ اور احرام کے لیے غسل کو مسنون قرار دیا ہے (اسی لیے) صاحب کتاب نے ان کے مسنون ہونے کی تصریح کر دی ہے، جب کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ چاروں غسل مستحب ہیں اور امام محمد ﷺ نے بمسوط میں جمعہ کے دن غسل کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ امام مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جو شخص جمعہ میں آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔

اور ہماری دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے ”جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو بہت اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل تو افضل ہے، اسی وجہ سے امام مالک کی پیش کردہ روایت کو استحباب یا نسخ پر محمول کیا جائے گا۔ پھر حضرت امام ابو یوسف ﷺ کے نزدیک یہ غسل نماز کے لیے ہے اور یہی صحیح ہے، کیوں کہ نماز کو وقت پر فضیلت حاصل ہے، اور طہارت بھی نماز ہی کے ساتھ خاص ہے اور اس میں حضرت حسنؓ کا اختلاف ہے۔

اور دونوں عیدین جمعہ کے درجے میں ہیں، کیوں کہ ان میں بھی (جمعہ کی طرح) اجتماع ہوتا ہے، لہذا بدبو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عیدین میں بھی غسل کرنا مستحب ہوگا، جہاں تک یوم عرفہ اور احرام میں غسل کا مسئلہ ہے تو ان شاء اللہ کتاب

المناہک میں ہم اسے بیان کریں گے۔

## اللغات:

﴿نَادَى﴾ مصدر، باب تفعّل؛ تکلیف اٹھانا، اذیت محسوس کرنا۔ ﴿رَائِحَةً﴾ بو، اچھی ہو یا بری، مہک۔

## تخریج:

- ① اخرجہ البخاری فی کتاب الجمعة باب فضل الجمعة.
- و ابن ماجہ فی کتاب اقامة باب ماجاء فی اغتسال فی العیدین حدیث رقم ۱۳۱۶.
- ② اخرجہ بخاری فی الجمعة حدیث ۸۷۷ - ۷۹۴.
- مسلم باب الجمعة حدیث رقم ۱۹۵۱.
- ترمذی باب فی الجمعة حدیث رقم ۴۹۶.
- ③ اخرجہ ابوداؤد کتاب الطہارة باب رخصة فی ترك الغسل حدیث رقم ۳۵۴.
- ترمذی باب فی وضوء یوم الجمعة حدیث رقم ۴۹۷.

## غسل مسنون کے مواقع:

صاحب ہدایہ غسل واجب کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اس پوری عبارت میں غسل مسنون کی صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے اس بیان اور امام قدوری وغیرہ کی صراحت کے مطابق چار صورتوں میں غسل کرنا مسنون ہے: (۱) جمعہ کے دن (۲) عیدین کے دن (۳) عرفہ کے دن (۴) احرام باندھنے سے پہلے۔

## جمعہ کے دن غسل کی حیثیت:

بعض حضرات کے یہاں ان مواقع پر دونوں میں غسل کرنا مستحب ہے چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبسوط میں جمعہ کے دن غسل کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے، جب کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمعے کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، ان کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے من اتی الجمعة فلیغتسل اور اس حدیث سے وجہ استدلال باس معنی ہے کہ حدیث میں صیغہ امر (فلیغتسل) سے غسل کا حکم دیا گیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے یوم جمعہ کا غسل واجب ہوگا۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اس کے راوی حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ من توضع یوم الجمعة فیہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، اس حدیث سے ہمارا استدلال اس طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو افضل قرار دیا ہے، اگر غسل واجب اور لازم ہوتا تو افضل کہنے پر اکتفاء نہ کیا جاتا، بل کہ اس کے وجوب اور لزوم کی صراحت کی جاتی۔

رہی وہ روایت جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استدلال میں پیش کیا ہے، تو حضرات فقہاء نے اس کی تاویل کر کے غسل کی افضلیت اور سنیت کو آشکارا کر دیا ہے اور ایسی تطبیق دی ہے کہ کہیں کوئی تعارض نہیں رہ گیا ہے۔ (۱) پہلی تطبیق تو یہ ہے کہ فلیغتسل میں جو امر کا صیغہ ہے وہ وجوب کے لیے نہیں بل کہ استحباب کے لیے ہے، کیوں کہ امر کو اسی وقت وجوب کے لیے مانا جاتا ہے جب کسی شرعی اصول سے اس کا تعارض نہ ہوتا ہو اور یہاں حدیث سے بھی اس کا تعارض ہو رہا ہے اور عقل سے بھی، حدیث کا تعارض تو آپ

نے ملاحظہ کر لیا، عقلاً تعارض بایں معنی ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن غسل کو واجب مان لیں تو بہت سے وہ مقامات جہاں کڑا کے کی سردی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ پاک صاف ہونے کے باوجود بھی ادائیگی جمعہ سے محروم ہو جائیں گے، بالخصوص وہ ضعیف العمر بوڑھے جو اس زمانے میں مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اور بھی مسئلہ سنگین ہو جائے گا، اس لیے فلیغتسل میں جو امر ہے وہ وجوب کے لیے مانا تو جائے، لیکن اس کا مصداق اور محمل اس زمانے کو مانا جائے جو ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا اور اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جمعہ اور اجتماعات کے مواقع پر غسل کرنا واجب تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

اور اس نسخ پر متعدد دشاہد و دلائل موجود ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہما قالا کان الناس عمال أنفسمہم وکانوا یلبسون الصوف و یعرقون فیہ و المسجد قریب السقف فکان یتأدی بعضهم برائحة بعض، فأمروا بالآغتسال، ثم انتسخ حین لبسوا غیر الصوف وترکوا العمل بأنفسمہم۔ یعنی ابتدائے اسلام میں لوگ اپنا کام خود انجام دیتے تھے، اونٹی لباس پہنتے تھے، جس میں پسینہ ہوتا تھا اور مسجد کی چھت بھی چھوٹی رہتی تھی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسینہ کی بدبو سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انھیں غسل کا لازمی حکم قرار دیا گیا تھا، لیکن جب لوگوں میں وسعت و کشادگی پیدا ہوئی اور ان لوگوں نے اونٹی لباس پہننا اور محنت و مشقت کے کام کرنا چھوڑ دیا تو اب یہ لازمی حکم احتیاجی سے تبدیل ہو گیا اور وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا، اسی طرح کی ایک روایت ابو داؤد شریف میں حضرت عکرمہ سے بھی مروی ہے۔

ثم هذا الغسل الخ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جمعہ کے دن غسل کی فضیلت اور سنیت کا تعلق نماز سے ہے یا یوم جمعہ سے ہے، اس سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے یہاں جمعہ کا غسل نماز جمعہ کی وجہ سے مسنون و مستحب ہے اور یہی صحیح ہے، کیوں کہ اس دن کو جو بھی فضیلت اور عظمت حاصل ہوئی ہے وہ سب نماز ہی کی دین ہے، اور پھر غسل بھی طہارت کے لیے ہوتا ہے اور طہارت کا تعلق نماز سے ہے، نہ کہ دن سے۔

صاحب کتاب نے ہو الصحیح کہہ کر حسن بن زید کے اس قول کی تردید کی ہے جس میں غسل کا تعلق یوم جمعہ سے جوڑا گیا ہے، دراصل اس قول کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سید الايام یوم الجمعة کہہ کر اس دن کو تمام دنوں سے افضل قرار دیا ہے، اسی وجہ سے انھوں نے جمعہ کو بھی اسی افضلیت کے تابع کر کے یوم سے اسے ملحق کر دیا۔ مگر یہ قول بالکل پھسپھسا ہے، کیوں کہ جمعہ کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ بھی نماز ہی کی وجہ سے ہے۔

والعیدان بمنزلة الجمعة الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی غسل کرنا مسنون ہے اور نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے، ابن ماجہ شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کان رسول اللہ ﷺ یغتسل یوم العیدین۔ اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غسل کی ترغیب کا جو منشأ جمعہ میں ہے (لوگوں کو پسینہ وغیرہ کی بدبو سے بچانا) وہ عیدین میں بھی ہے، بل کہ بعض مقامات پر تو عیدین کا معاملہ جمعہ سے بھی بڑھا ہوا ہے، اس لیے عیدین میں غسل کرنا مسنون بھی ہوگا اور قرینہ قیاس کے مطابق بھی ہوگا۔

﴿قَالَ وَلَيْسَ فِي الْمَدْيِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "كُلُّ فَحْلٍ ① يُمْدِي وَفِيهِ الْوُضُوءُ" وَالْوَدْيُ الْغَلِيظُ مِنَ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّفِيقُ مِنْهُ خُرُوجًا فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهِ، وَالْمَدْيُ خَائِرُ أَبِيضُ

يَنْكَسِرُ مِنْهُ الذَّكْرُ، وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضْرِبُ إِلَى الْبِيَاضِ يَخْرُجُ مِنْهُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، وَالتَّفْسِيرُ مَا نُورُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ مذی اور ودی میں غسل (واجب) نہیں ہے، اور ان میں وضو واجب ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”ہر مرد کو مذی آتی ہے اور اس میں وضو واجب ہوتا ہے۔ اور ودی وہ گاڑھا پیشاب ہوتی ہے جو پتلے پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اس لیے اس کو اسی پر قیاس کیا جائے گا۔ اور منی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے جس سے ذکر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اور مذی سفیدی کی طرف مائل پتلا پانی ہوتا ہے جو مرد کے اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کے وقت نکلتا ہے۔ اور یہ تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔

### اللغات:

﴿فَحْلٌ﴾ ہر مذکر جاندار ﴿يَتَعَقَّبُ﴾ يتعقب، باب تفعّل؛ بعد میں آنا، پیچھے ہونا۔ ﴿خَائِرٌ﴾ خَيْرٌ یختر، باب سجع، فتح، نصر؛ گاڑھا ہونا، جمننا، دودھ کا دہی بن جانا۔ ﴿يَضْرِبُ إِلَى﴾ ضرب کا صلہ جب الی آئے تو، مائل ہونا، جھکنا، مثل ہونا۔ ﴿مَأْنُورٌ﴾ اَثْرٌ يَأْتُرُ، باب نصر؛ نقل کرنا، مائتور منقول۔

### تخریج:

① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب فی المذی حدیث رقم ۲۱۱.

### مذی اور ودی کی تعریف اور حکم:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ منی کا نکلنا تو موجب غسل ہے، لیکن منی ہی کی طرح انسان کے عضو متاسل سے مذی اور ودی نام کے دو پانی اور نکلتے ہیں، مگر ان کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بل کہ یہ صرف موجب وضو ہیں اور جب بھی ان کا خروج ہوگا تو صرف وضو واجب ہوگا، اسی شبہ کے ازالے کی خاطر مذی اور ودی کے احکام کو یہاں بیان کیا گیا ہے، ورنہ تو موجب وضو ہونے کی وجہ سے انھیں نواقض وضو ہی کی فصل میں بیان کر دیا جاتا۔

عنائیہ وغیرہ میں مذی اور ودی کو یہاں بیان کرنے کی ایک توجیہ یہ نقل کی گئی ہے کہ امام احمد ایک روایت میں ان دونوں کے خروج سے وجوب غسل کے قائل ہیں، لہذا ان کی تردید کے لیے انھیں یہاں بیان کیا گیا ہے۔

مذی اور ودی کے موجب غسل ہونے پر نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد کل فحل یمذی وفيه الوضوء دلیل ہے جس میں وجوب وضو کی صاف صراحت ہے۔ اب صاحب کتاب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مذی، ودی اور منی تینوں کی الگ الگ تعریف کر رہے ہیں۔

(۱) وَدَى: اس گاڑھے پانی کو کہتے ہیں جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے۔

(۲) منی: وہ گاڑھا اور سفید پانی ہوتا ہے جو اکثر ہم بستری وغیرہ کے بعد نکلتا ہے اور اس کے نکلتے ہی آگے تاسلہ ڈھیلا اور سست ہو جاتا ہے، بعض حضرات نے اس میں ایک قید یہ بڑھائی ہے کہ منی وہ پانی ہے جس سے بچہ پیدا ہو سکے۔

(۳) مذی: مرد اور عورت کے ملاعبت کرنے کے نتیجے میں جو سفیدی مائل پتلا پانی نکلتا ہے وہ مذی کہلاتا ہے۔

## بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَمَا لَا يَجُوزُ بِهِ

یہ باب اس پانی کے بیان میں ہے جس سے وضو کرنا جائز ہے اور جس سے جائز نہیں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے طہارت کبریٰ (غسل) اور طہاعت صغریٰ (وضو) کو ان کے احکامات اور دیگر لوازمات سمیت بیان کیا ہے، اب یہاں سے آگے طہارت کا بیان ہے اور چونکہ تحصیل طہارت سے پہلے احکام طہارت سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے پہلے احکام طہارت کو بیان کیا گیا اور پھر طریقہ طہارت کو بیان کیا جا رہا ہے۔

﴿الطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْعَيُونِ وَالْأَبَارِ وَالْبِحَارِ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا" (سورة الفجران : ۴۸) وَقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبَحْرِ ② هُوَ الطَّهُورُ مَاءٌ وَالْحِلُّ مَيْتَةٌ، وَمُطْلَقُ الْإِسْمِ يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الْمَيَاهِ .

**ترجمہ:** احداث سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے آسمان کے پانی سے، وادیوں کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، کنوؤں اور دریاؤں کے پانی سے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ اور آپ ﷺ کا فرمان ہے پانی پاک ہوتا ہے جسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو پانی کے رنگ یا مزہ یا بو کو تبدیل کر دے۔ نیز دریا کے سلسلے میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ دریا کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور انھی پانیوں پر ماء مطلق کا اطلاق ہوتا ہے۔

### اللُّغَاتُ:

﴿أَوْدِيَةٌ﴾ اسم جمع، واحد وادی؛ وہ زمینی علاقہ جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو۔ ﴿عَيُونٌ﴾ جمع، واحد عین؛ چشمہ۔ ﴿أَبَارٌ﴾ اسم جمع، واحد بئر؛ کنواں۔ ﴿بِحَارٌ﴾ اسم جمع، واحد بحر؛ سمندر۔ ﴿لَوْنٌ﴾ رنگ۔ ﴿طَعْمٌ﴾ ذائقہ۔ ﴿رِيحٌ﴾ بو، مہک۔

### تَخْرِيجُ:



**ترجمہ:** اور اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے جو درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہو، کیوں کہ یہ ماء مطلق نہیں ہے اور ماء مطلق کے نہ ہونے کی صورت میں حکم تیمم کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اعضائے وضو کے دھونے کا وظیفہ تعبدی ہے، لہذا منصوص علیہ کے علاوہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ رہا وہ پانی جو انگور کے درخت سے نپکتا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیوں کہ یہ پانی بغیر کسی محنت کے نکلا ہے، یہ مسئلہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں مذکور ہے اور قدوری میں اسی طرف اشارہ بھی ہے اسی لیے اعتصار کی شرط لگائی گئی ہے۔

## اللغات:

﴿اعْتَصَرَ﴾ صیغۃ مجہول، اعتصر یعنی عصر، باب افتعال: نچوڑنا، مجہول نچوڑا ہوا۔ ﴿فَقَدَّ﴾ گم ہونا، ناپید ہونا۔ حضور کی ضد۔ ﴿وَوَظِيفَةٌ﴾ مقدار لازم، وہ قدر جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہو۔ ﴿يَقْطُرُ﴾ قَطَرَ يَقْطُرُ، باب نصر؛ ٹپکنا، قطرہ قطرہ پانی کا گرنا۔ ﴿كَرِيمٌ﴾ انگور، علاج۔

## درختوں اور پھلوں کے رس سے وضو کا حکم:

اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ طہارت خواہ کبریٰ ہو یا صغریٰ اس کے حصول کے دو ہی طریقے ہیں یا تو انسان ماء مطلق کو استعمال کرے یا پھر تیمم کرے، بیچ کی کوئی تیسری راہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو یہاں اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی اور جوس وغیرہ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ تحصیل طہارت کے لیے ماء مطلق شرط ہے اور نچوڑا ہوا پانی ماء مطلق نہیں ہوتا، اس لیے اس سے طہارت بھی نہیں حاصل ہوگی۔ اور ماء مطلق نہ ہونے کی صورت میں فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الخ کے ذریعے تطہیر کا حکم تیمم کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، اس لیے اس صورت میں تیمم ہی سے طہارت حاصل کی جائے گی۔

والوظيفة الخ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے درخت اور پھل وغیرہ سے نچوڑا ہوا پانی ماء مطلق نہیں ہے، مگر وہ ماء مطلق کے حکم میں ہے، اس لیے کہ حضرات شیخین کے یہاں اس پانی سے نجاست حقیقی زائل کی جاسکتی ہے، لہذا جب حقیقی نجاست زائل کرنے میں ماء معتصر کو ماء مطلق کے ساتھ لاحق کر کے مطہر بنایا گیا ہے تو پھر حکمی نجاست کے ازالے کے لیے تو بدرجہ اولیٰ اسے ماء مطلق کے ساتھ لاحق کر کے مطہر بنانا اور ماننا چاہیے؟۔

صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کا معاملہ ایک دوسرے سے جدا ہے، اور ایک کی علت یا دلیل کو دوسرے کے لیے علت یا دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا اور وضو میں تو اور بھی سنگین معاملہ ہے، کیوں کہ وضو میں اعضائے اربعہ کے دھونے کا حکم تعبدی ہے، ورنہ نہ تو محدث کے اعضاء حقیقتاً ناپاک ہوتے ہیں اور نہ ہی حکماً، حقیقتاً تو اس لیے ناپاک نہیں ہوتے کہ ان پر نجاست نہیں ہوتی۔ اور حکماً اس لیے ناپاک نہیں ہوتے اگر کوئی شخص کسی محدث اور بے وضو کو اپنی پیٹھ وغیرہ پر لا کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا عقلاً تو وضو کا معاملہ ہی خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ پاک چیز کو پاک کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر چون کہ یہ مسئلہ امور تعبدیہ میں سے ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور ہم نے چوں اور چرا کے بغیر تسلیم کر لیا، اس لیے اس پر دوسری چیزوں کو نہیں قیاس کیا جائے گا، کیوں کہ امور تعبدیہ کے سلسلے میں ضابطہ یہی ہے کہ اُن پر دوسری چیز کو نہیں قیاس

کیا جاتا۔

اس کے برخلاف نجاستِ ہیتیہ کا مسئلہ ہے تو اسے ماء مطلق سے زائل کرنا قیاس کے مطابق ہے، اس لیے ماء مطلق کے ساتھ بشرط عدم حرج ماء مقید سے بھی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور دوسری سیال اور مقید چیزوں کو ماء مطلق پر قیاس بھی کیا جاسکتا ہے۔  
 واما الماء الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ متن میں جو بما اعتصر کی قید لگائی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے، کیوں کہ اگر پانی نچوڑا نہیں گیا اور از خود درخت وغیرہ سے پکا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ اعتصار کی قید سے خارج ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جوامع ابی یوسف رحمہ اللہ کا ہے اور قدوری میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر پانی از خود رستا اور نچکتا ہے تو اس سے وضو کیا جاسکتا ہے، اسی لیے تو متن میں اعتصار کی شرط لگائی گئی ہے۔

﴿وَلَا يَجُوزُ بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرَبَةِ وَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الْبَاقِلِيِّ وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الزَّرْدِجِ﴾ لَآئِنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلِيِّ مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بَدُونِ الطَّبْخِ يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ.

**ترجمہ:** اور اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے جس پر پانی کے علاوہ دوسری چیز غالب آگئی ہو اور پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دیا ہو، جیسے شربت، سرکہ، گلاب کا پانی، لوہے کا پانی، شوربا اور زردک کا پانی، اس لیے کہ ان میں سے کسی کو بھی ماء مطلق نہیں کہا جاتا۔ اور لوہے کے پانی سے وہ پانی مراد ہے جو پکانے سے متغیر ہوا ہو، لیکن اگر بغیر پکائے ہی متغیر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔

**اللغات:**

﴿طَبْعٌ﴾ فطرت، اصلیت۔ ﴿أَشْرَبَةٌ﴾ اسم جمع، واحد شراب؛ مشروب، پینے کی چیز، شربت وغیرہ۔ ﴿خَلٌّ﴾ سرکہ۔ ﴿وَرْدٌ﴾ گلاب کا پھول۔ ﴿بَاقِلِيُّ﴾ لوہیا۔ اس کے تین تلفظ ہیں: باقلاء، باقِلِي اور باقِلِي۔ ﴿مَرَقٌ﴾ شوربا۔ ﴿زَرْدِجٌ﴾ زردہ۔ ﴿طَبْخٌ﴾ اسم مصدر، باب فتح پکانا۔

**ملاوٹ والا وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز نہیں:**

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی چیز مل گئی یا کسی چیز کو پانی میں ڈال کر پکایا گیا تو اس پانی سے وضو کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں ”غالب“ کو معیار بنایا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ پکانے اور ملانے کے بعد پانی کی کیا پوزیشن ہے؟ اگر مذکورہ پانی پر دوسری چیز غالب آجائے اور پانی کو اس کی طبعی حالت یعنی رقت اور سیلان سے روک دے تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، مثلاً شربت ہے، سرکہ ہے، گلاب کا پانی ہے، لوہے کا پانی ہے، شوربا ہے، زردک کا پانی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو انھیں ماء مطلق کہا جاتا ہے اور نہ ہی ان پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے، بل کہ ان کا نام تک بدل دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے پینے کے لیے پانی مانگے اور سرکہ یا



شور بالا کر دیدے تو مانگنے والا یقیناً دینے والے کو چپت رسید کر دے گا۔

والمراء بماء الباقلی الخ فرماتے ہیں کہ ماء باقلی سے وہ پانی مراد ہے جو لوبیا ڈال کر پکانے سے متغیر ہو جائے، اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر بغیر پکائے ہی پانی متغیر ہو جائے تو اس صورت میں اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ آج کل عام طور سے مسجدوں کے حوض میں اس طرح کی پوزیشن رہتی ہے کہ ہلدی اور پھلگری ڈالے بغیر ہی پانی کا رنگ اچھا خاصا تبدیل ہو جاتا ہے۔

﴿وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدًا أَوْ صَافَهُ كَمَا مَاءِ الْمَدِّ، وَالْمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ الرَّعْفَرَانُ أَوْ الصَّابُونُ أَوْ الْأَشْنَانُ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُجْرِي فِي الْمُخْتَصِرِ مَاءُ الزَّرْدِجِ مَجْرَى الْمَرْقِ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الرَّعْفَرَانِ هُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا اخْتَارَهُ النَّاطِطِيُّ وَالْإِمَامُ السَّرْحَسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِمَاءِ الرَّعْفَرَانِ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ مَاءُ الرَّعْفَرَانِ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَخْلُو عَنْهَا عَادَةً، وَلَنَا أَنَّ إِسْمَ الْمَاءِ بَاقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ إِسْمٌ عَلَى حِدَةٍ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الرَّعْفَرَانِ كِإِضَافَتِهِ إِلَى الْبُنْرِ وَالْعَيْنِ، وَلِأَنَّ الْخُلْطَ الْقَلِيلَ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ لِعَدَمِ امْتِكَانِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا فِي أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، فَيُعْتَبَرُ الْعَالِبُ، وَالْعَلْبَةُ بِالْأَجْزَاءِ لَا بِتَغْيِيرِ اللَّوْنِ هُوَ الصَّحِيحُ .

**ترجمہ:** اور اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور پانی کے کسی وصف کو تبدیل کر دیا ہو، جیسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی جس میں زعفران یا صابون یا اشنان مل گئی ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر القدوری میں زردک کے پانی کو شوربے کے مانند قرار دیا ہے، حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ زعفران کے پانی کے درجے میں ہے، یہی صحیح ہے اور اسی کو امام ناططی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سرحسی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زعفران اور اس کی ہم مثل ان چیزوں کے پانی سے جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں، ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ماء مقید ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ اسے ماء الزعفران کہا جاتا ہے۔

برخلاف زمین کے اجزاء کے، اس لیے کہ عام طور پر پانی ان سے خالی ہی نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ علی الاطلاق پانی کا نام باقی ہے، کیا دیکھتا نہیں کہ اس کے لیے الگ سے کوئی نام نہیں بنا ہے، اور زعفران کی طرف پانی کی اضافت ایسی ہے جیسے کنویں اور چشمے کی طرف، اور اس وجہ سے بھی (اس پانی سے وضو درست ہے) کہ معمولی سی آمیزش کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے، جیسے زمین کے اجزاء میں، لہذا غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور غلبہ اجزاء کے ذریعے ہوگا نہ کہ رنگ بدل جانے سے، یہی صحیح ہے۔

## اللغات:

﴿مَدَّ﴾ سیلاب۔ ﴿أَشْنَانٌ﴾ کپڑا یا ہاتھ دھونے کی گھاس، سوڈا۔ ﴿خَلَطٌ﴾ کسی مرکب شے کا ایک جزء، ملاوٹ۔

## ایسا ملاوٹ شدہ پانی جس سے وضو کرنا جائز ہے:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور وہ پانی کے تینوں اوصاف یعنی رنگ، بو، مزہ میں سے کسی ایک وصف کو بدل دے تو اس پانی سے ہمارے یہاں وضو کرنا درست اور جائز ہے۔ جیسے سیلاب کا پانی، یا زعفران، صابون اور اشنان وغیرہ ملا ہوا پانی۔ امام قدوریؒ کی اس عبارت میں دو باتیں قابل غور ہیں (۱) یہاں جو اختلاط کا مسئلہ ہے وہ پاک چیز کے اختلاط کا ہے، اس سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ناپاک چیز کے اختلاط کا تھا، کیوں کہ حدیث الماء طہور لا ینجسہ شیئ میں شیئ سے شیئ نجس مراد ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ شیئ نجس کے اختلاط کی صورت میں ماء قلیل تو فوراً ہی ناپاک ہو جائے گا اور ماء کثیر سے ملنے کی صورت میں ایک ہی وصف کے بدلنے سے وہ بھی اپنی طہارت کھو بیٹھے گا۔

(۲) دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ صاحب قدوری نے أحد اوصافہ کہہ کر ایک وصف کے بدلنے کی صورت میں جواز وضو کا حکم لگایا ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ایک کے بجائے دو وصف بدل جائیں تو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوریؒ نے زردک کے پانی کو شور بے کے درجے میں رکھا ہے اور دونوں سے وضو کرنا جائز قرار دیا ہے، حالانکہ امام ابو یوسفؒ سے یہ منقول ہے کہ زردک کا پانی ماء زعفران کے مرتبے میں ہے اور جس طرح ماء زعفران سے وضو کرنا جائز ہے، اسی طرح زردک کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے، یہی صحیح ہے اور اسی کو امام سرحسی اور امام ناظمی جیسے بڑے فقہاء نے پسند کیا ہے۔

بہر حال یہ بات ثابت ہوگئی کہ ہمارے یہاں زعفران اور اشنان وغیرہ ملے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، بشرطیکہ دو وصف میں تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ زعفران اور اس جیسی وہ تمام چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں جیسے صابون وغیرہ، ان کے ملے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جواز وضو کے لیے پانی کا مطلق ہونا ضروری ہے اور مذکورہ چیزوں سے ملا ہوا پانی مطلق نہیں، بل کہ مقید ہے، اسی وجہ سے توماء الزعفران اور ماء الصابون وغیرہ کہا جاتا ہے اور آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ماء مقید سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔

بخلاف أجزاء الأرض الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعیؒ نے مما لیس من جنس الأرض جو کہا ہے یہاں سے اسی کی وضاحت ہے کہ زعفران وغیرہ کے ملے ہوئے پانی سے وضو کرنا تو ان کے یہاں درست نہیں ہے، لیکن اگر پانی میں زمین کے اجزاء مثلاً مٹی وغیرہ مل جائیں اور یہ ملاوٹ اوصاف ماء کو بالکل خارج نہ کرے تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا درست ہے، کیوں کہ اگرچہ اس پانی میں ملاوٹ ہے، مگر یہ ملاوٹ ایسی ہے جو عام طور پر پانی میں لگ ہی جاتی ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے، لہذا مقید بأجزاء الأرض کے باوجود عدم امکان احتراز کی وجہ سے اسے ماء مطلق ہی کے درجے میں رکھا گیا ہے اور ماء مطلق سے وضو کرنا درست ہے، لہذا اس پانی سے بھی وضو کرنا درست ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ زعفران اور اشنان ملے ہوئے پانی کو ان چیزوں کی آمیزش کے بعد بھی پانی ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی علاحدہ نام نہیں تجویز کیا جاتا اور جس طرح ماء البشر اور ماء العين میں کنویں اور چشمے کی طرف اضافت کے باوجود ان کے پانیوں سے دھرتے کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، اسی طرح ماء الزعفران وغیرہ سے بھی وضو کرنا جائز ہوگا، اور اس اضافت سے نہ تو پانی کی صحت پر کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی وضو کے جواز پر کوئی فرق پڑے گا۔

ولأن الخلط الخ یہاں سے ماء زعفران کے قابل للوضوء ہونے کی دوسری علت بیان کی گئی ہے اور راقم الحروف کی نظر میں اصل علت یہی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل مسئلہ خلط اور ملنے کا ہے۔ اور خلط اور اختلاط کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ملنے والی چیز غالب ہے یا مغلوب ہے، اگر مغلوب ہے تب تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اگر پانی وغیرہ میں ملنے والی چیز غالب آجائے تو وہ پانی کو وضو کے قابل نہیں رہتے دے گی اور کسی بھی چیز کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ اجزاء کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ رنگ وغیرہ کے بدلنے سے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مسئلہ پاک چیز کے اختلاط کا ہے اور پاک چیز کے اختلاط کی صورت میں غلبہ کا اعتبار ہوگا، ہاں اگر ناپاک چیز پانی میں مل جائے تو اس صورت میں غلبہ کا اعتبار نہیں ہوگا، بل کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک ہی وصف کے بدلنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔

### فائدہ:

اشنان ہمزہ کے پیش کے ساتھ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جو صابون ہی کی طرح کپڑے وغیرہ کو صاف کر دیتی ہے۔

﴿وَأِنْ تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَ مَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ﴾ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَى الْمَنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ، إِذَا طُبِخَ فِيهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّظَافَةِ كَالْأَشْنَانِ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ الَّذِي أُغْلِيَ بِالسِّدْرِ، بِذَلِكَ وَرَدَتْ السُّنَّةُ، إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ فَيَصِيرُ كَالسَّوِيقِ الْمَخْلُوطِ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ .

**ترجمہ:** اور اگر پانی کے ساتھ دوسری چیز ملا کر پکانے کی وجہ سے پانی متغیر ہو گیا تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ آسمان سے نازل شدہ پانی کے معنی میں نہیں رہ گیا، الّا یہ کہ پانی میں ایسی چیز پکائی جائے جس سے نظافت میں مبالغہ مقصود ہو، جیسے اشنان وغیرہ، اس لیے کہ میت کو بیری کی پتی سے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، اسی طریقہ کے مطابق سنت وارد ہوئی ہے، الّا یہ کہ وہ چیز پانی پر غالب آجائے اور پانی میں ملے ہوئے ستو کی طرح ہو جائے، اس لیے کہ پانی کا نام ہی اس سے ختم ہے۔

### اللغات:

﴿نَظَافَةٌ﴾ صفائی ستھرائی۔ ﴿أُغْلِيَ﴾ صیغہ مجہول، اُغْلِيَ يُغْلِي، باب افعال؛ اَبالنا، جوش دینا۔ ﴿سِدْرٌ﴾ بیری کا

درخت اور اس کے پتے وغیرہ۔ ﴿سَوِيقٌ﴾ ستو۔

## پکائے ہوئے پانی سے وضو کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی چیز ملائی گئی اور پھر اس پانی کو پکایا گیا تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جواز وضو کے لیے ماء مطلق ضروری ہے، اور یہ پانی خلط اور طخ کی وجہ سے ماء مطلق اور منزل من السماء کے درجے میں نہیں ہے، لہذا اس سے وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے یہاں بعد ما خلط الخ کے ذریعہ یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی چیز ملائے بغیر صرف پانی ہی کو پکایا گیا تو اس صورت میں اس پانی سے بہر حال وضو جائز ہے، اس لیے کہ موسم سرما میں تو گرم کیے اور پکائے بغیر پانی کو ہاتھ لگانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔

إلا إذا طبخ الخ یہاں سے استثناء کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پانی میں کوئی چیز ڈال کر پکانے سے وضو کا عدم جواز اس صورت میں ہے جب اس چیز سے نفاقت یا مبالغہ فی الطہارۃ مقصود نہ ہو، لیکن اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائی گئی جس سے نفاقت حاصل کی جاتی ہو جیسے اشان اور نیم اور بیری کے پتے وغیرہ تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔

اور اس جواز کی سب سے بین دلیل یہ ہے کہ عام طور پر مردوں کو ایسے پانی سے غسل دیا جاتا ہے جس کو بیری وغیرہ کے پتوں کو ڈال کر ابالا اور پکایا جاتا ہے اور یہی طریقہ مسنون بھی ہے، مگر یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بیری کے پتے وغیرہ اس پانی پر غالب نہ آئیں، لیکن اگر اتنی مقدار میں انہیں ڈال دیا جائے کہ وہ پانی پر غالب آجائیں تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کے مغلوب ہونے کی صورت میں اس پر پانی ہی کا اطلاق نہیں ہوتا چہ جائے کہ ماء مطلق کا اطلاق ہو۔ جیسے اگر پانی میں ستو ملا دیا جائے اور وہ پانی پر غالب آجائے تو اب پانی، پانی نہیں کہلائے گا، بل کہ اسے ستو کا نام دیا جائے گا اور اس سے وضو وغیرہ کرنا درست نہیں ہوگا۔

﴿وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ لَمْ يَجْزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَتْ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا﴾ وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجُوزُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدٌ أَوْ صَافِهِ لِمَا رَوَيْنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَا يَحْمَلُ حُبًّا، وَلَنَا ② حَدِيثُ الْمُسْتَقِظِ مِنْ مَنَامِهِ، وَقَوْلُهُ ③ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ، وَالَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَدَّ فِي بِنْرِ بُضَاعَةَ، وَمَا وَهَا كَانَ جَارِيًا فِي الْبَسَاتِينِ، وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَعْفَهُ أَبُو دَاوُدَ، أَوْ هُوَ يَضَعْفُ عَنِ احْتِمَالِ النَّجَاسَةِ.

**ترجمہ:** ہر وہ پانی جس میں نجاست گر جائے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، خواہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ۔ امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب تک پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدلے اس وقت تک اس سے وضو کرنا جائز ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ اگر پانی دو قلعے ہوں تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ صَلَّيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد گرامی ہے ”جب پانی دو قلعے تک پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا۔“

اور ہماری دلیل مستقیق من منامہ والی حدیث ہے اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے، بغیر کسی تفصیل کے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت بیزضاع کے متعلق وارد ہوئی ہے اور بیزضاع کا پانی باغوں میں جاری تھا۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے، یا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ دوقلہ پانی نجاست اٹھانے کے لائق نہیں رہتا۔

## اللغات:

﴿قُلَّةٌ﴾ مکا، پہاڑ کی چوٹی، آدمی کی قامت۔ ﴿مُسْتَقِظٌ﴾ جاگنے والا۔ ﴿بَسَاتِينٌ﴾ اسم جمع، واحد بستان؛ باغ۔

## تخریج:

- ① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب ما ینجس الماء حدیث رقم ۶۳۔
- والترمذی فی کتاب الطہارۃ باب ماجاء ان الماء لا ینجسہ شی حدیث رقم ۶۷۔
- ② قدمہ تخریجہ راجع تحت حدیث رقم ۲۔
- ③ اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب البول فی الماء الراکد حدیث رقم ۶۹۔
- والبخاری فی کتاب الوضوء باب البول فی الماء الدائم حدیث رقم ۲۳۹۔

## نجاست گرے ہوئے پانی سے وضو کا حکم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں ماء سے ماء را کد (ٹھہرا ہوا) مراد ہے، ماء جاری مراد نہیں ہے اور یہ بڑا معرکہ الآراء مسئلہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو ہمارے یہاں اس پانی سے وضو کرنا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ نجاست کم ہو یا زیادہ ہو۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل گیا ہے، تب تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وصف متغیر نہیں ہوا ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی دوقلہ کی مقدار میں ہو تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے ورنہ نہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے یعنی الماء طہور لا ینجسہ شی إلا ما غیر لونه أو طعمہ أو ریحہ، اور وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس حدیث میں اس وقت تک پانی کو پاک قرار دیا گیا ہے جب تک کہ کوئی ناپاک چیز اس میں گر کر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کو بدل نہ ڈالے، لہذا ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ نجاست کرنے کے بعد جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ متغیر ہو، اس وقت تک پانی پاک رہتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قلتین والی حدیث ہے کہ اگر پانی دوقلہ ہو تو وہ نجاست نہیں اٹھاتا۔ اور وجہ استدلال یہ ہے کہ قلتین کی مقدار ایک کثیر مقدار ہے، اور اگر اس مقدار پانی میں نجاست گرتی ہے تو وہ پانی نجاست سے متاثر نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ پانی اگر

قلتین سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے تب تو اس سے وضو درست نہیں ہے، لیکن اگر قلتین کی مقدار میں ہو تو اس سے وضو درست اور جائز ہے۔

ہماری پہلی دلیل حدیث مستیقظ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا إذا استیقظ أحدکم من منامہ فلا یغسین یدہ فی الإناء حتی یغسلہا ثلاثا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو تین مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے اسے برتن میں داخل نہ کرے، اس حدیث سے وجہ استدلال اس طرح ہے کہ احتمال نجاست کی وجہ سے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، تو جب نجاست کا یقین ہو تو اس صورت میں تو بدرجہ اولیٰ ہاتھ ڈالنے سے منع کیا جائے گا، ورنہ تو یقیناً پانی ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے: لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم الخ اور اس سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اگر ماء راکد میں نجاست کرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا تو اتنی صراحت کے ساتھ اس میں پیشاب کرنے کی ممانعت وارد نہیں ہوتی۔

ہماری پیش کردہ دونوں حدیثیں امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہیں، امام مالک کے خلاف تو اس لیے کہ ماء راکد میں غسل جنابت سے منع کیا گیا ہے، حالاں کہ غسل کرنے سے پانی کا کوئی بھی وصف متغیر نہیں ہوتا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ اس میں قلتین وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور مطلق ماء راکد میں پیشاب کرنے سے منع یا گیا ہے اور اگر کسی نے کر لیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، خواہ پانی دوقلہ ہو، یا اس سے کم ہو۔

والذی رواہ مالک الخ یہاں سے صاحب ہدایہ امام مالک کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بر بضاعہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، پوری حدیث ترمذی اور نسائی شریف وغیرہ میں یوں مذکور ہے عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ أنتوضأ من بیر بضاعة وهي بیر تلقی فیہا الحیض ولحوم الکلاب والنتن، فقال النبی ﷺ إن الماء طهور لا ینجسہ شیء۔ یعنی حضرات صحابہ بر بضاعہ میں ڈالی جانے والی گندگیوں اور ناپاکیوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ان کے دل میں بر بضاعہ کے پانی کو لے کر طبعی طور پر تنفر اور تکدر تھا، اس لیے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی بر بضاعہ کی پوزیشن نہایت خراب ہے، اس میں حیض کے کپڑے اور گوشت وغیرہ کے ٹوٹے ڈالے جاتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے کیا ہم اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟

اس پر آپ ﷺ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ إن الماء طهور لا ینجسہ شیء اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بر بضاعہ میں جو پانی تھا وہ ماء راکد نہیں تھا، بل کہ ماء جاری تھا اور اس سے پانچ باغ سیراب کیے جاتے تھے (عنایہ، بنایہ) لہذا جب بر بضاعہ کا پانی ماء جاری تھا تو اس کو لے کر ماء راکد کے متعلق کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے؟

وما رواہ الشافعی یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث إذا بلغ الماء قلتین الخ کا جواب دیا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاً تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے حدیث القلتین مما لا یثبت، وھکذا قال ابن المدینی أستاذ محمد بن اسماعیل البخاری، یعنی یہ غیر ثابت شدہ حدیثوں میں سے ہے اور یہی رائے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی بن مدینی کی بھی ہے اور اسی سے ملتی جلتی رائے خود حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی

بھی ہے، فرماتے ہیں بلغنی باسناد لا یحضرنی من ذکرہ یعنی یہ حدیث مجھ تک ایسی سند سے پہنچی ہے جس کا راوی ہی نہیں یاد آرہا ہے۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔

اس کے علاوہ اس حدیث کے متن میں بھی اضطراب ہے چنانچہ دارقطنی میں حماد بن سلمہ کی روایت میں قلتین أو ثلاثا کا مضمون آیا ہے، اسی طرح جابر بن عبد اللہ کی روایت میں إذا بلغ الماء أربعين قلة اور بعض میں أربعین غریبا اور دلوا کا مضمون وارد ہوا ہے، ان سب کے علاوہ قلعہ کی مقدار اور اس کا مصداق بھی نامعلوم اور مجہول ہے، کیوں کہ کبھی قلعہ بول کر انسانی ڈھانچہ مراد لیا جاتا ہے، کبھی قلعہ بول کر پہاڑ کا سرا مراد لیا جاتا ہے اور کبھی قلعہ سے گھڑا مراد ہوتا ہے، اور اگر ہم یہاں اس سے گھڑا مراد لیں تو پھر بھی یہ جہالت باقی رہ جائے گی کہ کون سا گھڑا مراد ہے، الحاصل اس حدیث سے استدلال کرنا ”نوکی مرغی توے کا مصالحو“ لگانے کے مترادف ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ (۸۶، ۸۵/۱)

اس حدیث کا ایک اور جواب یہ ہے کہ جس طرح اس کا وہ مفہوم مراد ہو سکتا ہے جو امام شافعی نے بیان کیا ہے کہ دو قلعہ پانی نجاست سے متاثر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کا یہ مفہوم بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ اگر پانی دو قلعہ کی مقدار میں ہو تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا، یعنی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جب اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے تو آخر کیوں کر اس سے استدلال درست ہوگا، کیوں کہ یہ ضابطہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

﴿وَالْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَارَ الْوُضُوءَ بِهِ إِذَا لَمْ يُرْلَهَا أَثَرٌ﴾ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرِيَانِ الْمَاءِ، وَالْأَثَرُ هُوَ الطَّعْمُ أَوْ الرَّائِحَةُ أَوْ اللَّوْنُ، وَالْجَارِي مَا لَا يَتَكَرَّرُ اسْتِعْمَالُهُ، وَقِيلَ مَا يَذْهَبُ بَيِّنَةً.

**ترجمہ:** اور اگر بہتے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے بشرطیکہ نجاست کا کوئی اثر نہ دکھائی دے، اس لیے کہ نجاست پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی، اور اثر وہی مزہ یا بو یا رنگ ہے۔ اور ماء جاری وہ ہے جس کا استعمال مکرر نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے جو تنکا بہا لے جائے۔

## اللغات:

﴿جَرِيَانٍ﴾ اسم مصدر؛ بہنا، چلنا، رکود کی ضد۔ ﴿بَيِّنَةً﴾ تنکا۔

## ماء جاری، تعریف اور حکم کا بیان:

مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر ماء جاری میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک اس پانی میں نجاست کا کوئی اثر نہ دکھائی دے بالفاظ دیگر جب تک پانی کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مزہ تینوں میں سے کوئی وصف نہ بدلے اس وقت تک اس پانی سے وضو کرنا درست اور جائز ہے، کیوں کہ اگر پانی جاری ہوگا تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جاری پانی میں نجاست نہ تو رک سکتی ہے اور نہ ہی ٹھہر کر اپنا رنگ دکھا سکتی ہے۔

فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو اثر کا لفظ آیا ہے اس سے یہی اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو اور مزہ مراد ہیں۔ اور ماء جاری کی

تفصیل اور توضیح کے سلسلے میں حضرات فقہاء کی مختلف رائیں ہیں جو بنیاد اور فتح القدیر کے حوالے سے یہاں درج کی جا رہی ہیں:

① ماء جاری وہ پانی ہے جس کا استعمال مکرر نہ ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہر وغیرہ سے ہاتھ میں پانی لے کر اسے استعمال کرے پھر وہ پانی وہیں گرا دے اور دوبارہ جب پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو گرایا اور استعمال کیا ہوا پانی اس کے ہاتھ میں نہ لگے۔

② دوسری رائے یہ ہے کہ ماء جاری اس پانی کو کہتے ہیں جو تنکا بہا لے جائے۔

③ تیسری رائے یہ ہے کہ ماء جاری اس پانی کو کہتے ہیں جس کو لوگ جاری سمجھیں، صاحب عنایہ نے اسے اصح قرار دیا ہے۔

④ چوتھی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوڑائی میں اپنا ہاتھ رکھ دے تو پانی کا بہاؤ نہ بند ہو۔ واللہ اعلم (عنایہ ۱۶۷)

﴿وَالْعَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدٌ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرْفِ الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ جَازَ الْوُضُوءَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرَ﴾ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النِّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، إِذَا أَثَرُ التَّحْرِيكِ فِي السَّرَايَةِ فَوْقَ أَثَرِ النِّجَاسَةِ، ثُمَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ التَّحْرِيكُ بِالِاغْتِسَالِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَنْهُ بِالتَّحْرِيكِ بِالْيَدِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالتَّوَضُّعِ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْحِيَاضِ أَشَدُّ مِنْهَا إِلَى التَّوَضُّعِ، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِالْمَسَاحَةِ عَشْرًا فِي عَشْرِ بَدْرَاعِ الْكِرْبَاسِ تَوْسِعَةً لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ، وَعَلَيْهِ الْفُتُوَى، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْعُمُقِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَنْحَسِرُ بِالِاغْتِرَافِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ جَازَ الْوُضُوءَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْجَسُ مَوْضِعَ الْوُقُوعِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ إِلَّا بِظُهُورِ النِّجَاسَةِ فِيهِ كَالْمَاءِ الْجَارِي.

**ترجمہ:** اور وہ بڑا تالاب جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کو حرکت دینے سے متحرک نہ ہو اگر اس کے ایک کنارے نجاست گر جائے تو دوسرے کنارے سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے کہ پھیل جانے کے حوالے سے حرکت دینے کا اثر نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے۔

پھر حضرت امام ابو حنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ وہ غسل کرنے والی تحریک کا اعتبار کرتے ہیں اور یہی امام ابو یوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا قول ہے۔ اور امام صاحب سے ایک قول تحریک بالید کا ہے اور امام محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے تحریک بالتوضی کا قول منقول ہے۔

اور قول اول کی دلیل یہ ہے کہ حوضوں میں غسل کی حاجت وضو کی حاجت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اور بعض فقہاء نے لوگوں پر وسعت حکم کے پیش نظر کپڑے کے پیمانے سے دس بائی دس کی پیمائش سے غدیر عظیم کا اندازہ لگایا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور گہرائی میں اتنا معتبر ہے کہ اس حال میں ہو کہ چلو بھرنے سے زمین نہ کھلے یہی صحیح ہے۔



اور قدوری میں امام قدوری کا جاز الوضوء من الجانب الآخر کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نجاست گرنے کی جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موضع وقوع میں ظہور نجاست کے بغیر وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔ جیسے ماء جاری۔

## اللغات:

﴿عَدِيْرٌ﴾ تالاب۔ ﴿سِرَايَةٌ﴾ اسم مصدر، سري يسري، باب ضرب؛ بھیل جانا، گھس جانا، چلنا، پہنچنا۔ ﴿حِيَاضٍ﴾ اسم جمع، واحد حوض؛ پانی کا ذخیرہ۔ ﴿مَسَاحَةٌ﴾ پیمائش۔ ﴿كِرْبَاسٍ﴾ مونث سوتی کپڑا، کینوس۔ ﴿ذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ﴾ ایک پیمانہ جس کی لمبائی تقریباً "36" ہوتی ہے۔ ﴿يُنْحَسِرُ﴾ الحسر ينحسر، باب انفعال؛ کھل جانا، ہٹ جانا، بالوں کا گر جانا۔ ﴿اِغْتِرَافٍ﴾ اسم مصدر؛ چلو بھرنا۔

## ماء کثیر؛ تعریف، حکم اور اس سے وضو کرنے کا بیان:

اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ماء قلیل میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ماء کثیر میں نجاست گرے تو پھر اس کی دو شکلیں ہیں (۱) وہ پانی جاری ہے (۲) جاری نہیں ہے۔ اگر وہ پانی جاری ہے تو بھی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ماء کثیر جو تالاب اور حوض وغیرہ میں جمع ہوتا ہے اس میں اگر نجاست گر جائے تو کس طرح اس کی طہارت اور عدم طہارت کا مسئلہ معلوم کیا جائے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بڑے حوض اور بڑے تالاب کا معیار یہ ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے کو حرکت دی جائے اور دوسرے کنارے میں حرکت وغیرہ نہ پیدا ہو، تب تو پانی کی یہ مقدار ماء کثیر ہے اور مذکورہ تالاب وغیرہ غدیر عظیم ہے۔ اور اگر حوض اور تالاب اس مقدار سے چھوٹے ہوں اور ایک طرف حرکت دینے سے ان کی دوسری طرف حرکت اور ہلچل پیدا ہو جائے تو یہ مقدار ماء قلیل ہوگی اور معمولی نجاست گرنے سے بھی پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔

کناروں کے متحرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وضو یا غسل وغیرہ کرنے سے دوسری طرف کا پانی اوپر نیچے ہوتا ہو، رہا یہ مسئلہ کہ کس درجے کی اور کون سی تحریک معتبر ہے تو اس سلسلے میں حضرات فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں۔

(۱) چنانچہ پہلا قول یہ ہے کہ تحریک غسل معتبر ہے، یعنی اگر تالاب اور حوض کے ایک کنارے کوئی شخص غسل کرے تو دوسرے کنارے میں اگر حرکت ہوتی ہے تب وہ غدیر اور حوض چھوٹا شمار کیا جائے گا۔ اور اگر حرکت نہیں ہوتی تو اس صورت میں مذکورہ غدیر کو غدیر عظیم کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ قول حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے امام اعظم علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے۔

(۲) امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے حضرت امام صاحب کا و سراً قول یہ بیان کیا ہے کہ غدیر کی تحریک کے سلسلے میں تحریک بالید معتبر ہے، یعنی اگر پانی میں ہاتھ لگانے اور اسے ہلانے سے دوسرے کنارے کا پانی حرکت میں نہ آئے تب وہ غدیر عظیم ہے، ورنہ تو صغیر ہے۔

(۳) حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ "تحریک تو ضعی" کا اعتبار ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی حوض اور تالاب کے

ایک کنارے بیٹھ کر وضو کرے تو دوسرے کنارے اگر حرکت پیدا ہو تو یہ غدیر صغیر ہے اور اگر حرکت پیدا نہ ہو تو یہ غدیر عظیم ہے۔ اور امام محمد سے نوادر کی روایت میں یہ منقول ہے کہ ان سے کسی نے غدیر عظیم کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مثل مسجدی هذا یعنی اگر وہ حوض جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو میری مسجد کے حوض کی طرح ہے تو وہ حوض عظیم اور غدیر عظیم ہے، ورنہ تو غدیر صغیر ہے، بعد میں جب ان کی مسجد کے حوض کی پیمائش کی گئی تو ایک روایت کے مطابق وہ ہشت درہشت (آٹھ بائی آٹھ) نکلا اور دوسری روایت کے مطابق وہ دہ دردہ (دس بائی دس) نکلا۔

تحریک کے سلسلے میں جو تین اقوال ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے قول اول کی دلیل یہ ہے کہ حوض اور تالاب میں وضو کی بہ نسبت غسل کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، کیوں کہ عام طور پر وضو گھروں میں کیا جاتا ہے اور غسل وغیرہ تالاب میں (مگر یہ پہلے زمانے کی بات ہے) اس لیے تحریک کے سلسلے میں تحریک بالاغتسال کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ تحریک بالید سب سے اخف ہے، اس لیے لوگوں کے توسع اور آسانی کے پیش نظر اس کو معتبر ماننا زیادہ بہتر ہے۔

اور تیسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ تمام امور میں اوسط درجے کا امر بہتر سمجھا جاتا ہے اور تحریک تو ضعیف بھی تحریک اغتسال اور تحریک بالید میں اوسط درجے کی ہے، اسی لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ متاخرین فقہائے احناف نے تحریک کے علاوہ رنگ وغیرہ کے ذریعے بھی غدیر عظیم کا اندازہ لگایا ہے، چنانچہ ابو حفص کبیرؒ سے یہ منقول ہے کہ تالاب کے ایک کنارے زعفران یا کوئی اور رنگ ڈالا جائے، اگر اس رنگ کا اثر دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے تو وہ غدیر صغیر ہے اور اگر نہیں پہنچتا تو وہ غدیر عظیم ہے۔

اسی طرح امام ابو سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ غدیر کے سلسلے میں مساحت کا اعتبار ہے، یعنی اگر کوئی تالاب یا حوض دہ دردہ کی مقدار میں ہے تو وہ عظیم ہے، ورنہ صغیر۔ اسی قول کو عامۃ المشائخ نے اختیار کیا ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، مساحت کے سلسلے میں صاحب فتاویٰ قاضی خاں کی رائے یہ ہے کہ سات مٹھی ہو اور ہر مٹھی پر ایک کھڑی انگلی کا اضافہ بھی ہو۔ (بحوالہ عنایہ ۱/۸۷۱ تا ۱/۸۷۲)

یہ تمام تفصیلات تو حوض کی چوڑائی اور لمبائی سے متعلق تھیں، عمق اور گہرائی کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حوض وغیرہ اتنا گہرا ہو کہ اس میں سے پانی لینے پر زمین نہ دکھائے دے، یہی قول صحیح ہے، ورنہ بعض لوگ نے ایک ذراع تک گہرا ہونے کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے ایک بالشت تک گہرا ہونے کو معتبر مانا ہے۔

وقولہ الخ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے جو جاز الوضوء من الجانب الآخر کہا ہے، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جس جانب نجاست گرے گی وہ جانب ناپاک ہو جائے گی اور اس طرف تو کسی بھی حال میں وضو کرنا درست نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں بھی نجاست کے اثر پر وضو کے جواز اور عدم جواز کا انحصار کرتے ہیں، یعنی اگر مقام وقوع میں نجاست گری اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تب تو وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ لیکن اگر اثر ظاہر نہیں ہوا تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔

﴿قَالَ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يَنْجِسُهُ كَالْبَقِ وَالذَّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْعُقْرَبِ وَنَحْوِهَا﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْسُدُهُ، لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَطْرُقُ الْكِرَامَةَ آيَةَ النَّجَاسَةِ، بِخِلَافِ دُودِ النَّحْلِ وَسُوسِ الثَّمَارِ، لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① فِيهِ "هَذَا هُوَ الْحَالُّ أَكَلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ"، وَلِأَنَّ الْمُنَجَّسَ هُوَ اخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، حَتَّى حَلَّ الْمُدَّكَى لِإِنْعَادَامِ الدَّمِ فِيهِ وَلَا دَمَ فِيهَا، وَالْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالطَّيْنِ .

**ترجمہ:** اور پانی میں اس جانور کا مرنا جس میں بننے والا خون نہیں ہوتا، پانی کو ناپاک نہیں کرتا، جیسے چھپر، مکھی، بھڑی اور بچھو وغیرہ۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی کو فاسد کر دیتا ہے، کیوں کہ وہ تحریم جو کرامت کے طور پر نہ ہو وہ نجاست کی علامت ہے، برخلاف شہد کی مکھیوں کے بچوں اور پھلوں کے کیڑوں کے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے۔

اور ہماری دلیل اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یہی ہے جس کا کھانا، پینا اور اس سے وضو کرنا حلال ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ دم مسفوح کا جانور کی موت کے وقت پانی کے اجزاء کے ساتھ ملنا ہی ناپاک کرنے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں خون نہیں رہ جاتا، اور ان جانوروں میں یہ خون ہی نہیں ہوتا۔ اور حرمت کے لیے نجاست ضروری نہیں ہے، جیسے مٹی۔

## اللغات:

﴿سَائِلَةٌ﴾ اسم فاعل، سال یسیل، باب ضرب؛ بننے والا۔ ﴿بَقِ﴾ لیٹو، کھٹل۔ ﴿ذَّبَابٍ﴾ مکھی۔ ﴿زَّنَابِيرٍ﴾ اسم جمع، واحد زنبور؛ بھڑ، تیتیا۔ ﴿عُقْرَبٍ﴾ بچھو۔ ﴿دُودِ النَّحْلِ﴾ چھوٹی شہد کی مکھیاں جو کیڑوں کی طرح از نہیں سکتیں۔ ﴿سُوسِ الثَّمَارِ﴾ پھلوں کے کیڑے۔ ﴿مُدَّكَى﴾ اسم مفعول، زکی یزکی، باب تفعیل؛ پاک کرنا، مراد ذبح کرنا، ذبح شدہ، حلال کیا ہوا جانور۔

## تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارة باب کل طعام وقعت فیہ دابة لیس لها دم باب رقم ۶ حدیث رقم ۸۱.

**ایسے پانی کا حکم جس میں بغیر خون کا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو:**

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں نفس سے مراد خون ہے اور خون اللہ تعالیٰ کے فرمان حورمت علیکم المیتة والدم الخ کی رو سے ناپاک اور حرام ہے، اگر کسی چیز میں گر جائے تو اسے ناپاک کر دے گا۔ متن میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ اسی خون پر متفرع ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بننے والا خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی، بچھو اور بھڑ وغیرہ، تو ان جانوروں کے مرنے سے ہمارے یہاں پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ پانی

کی نجاست اور اس کے فاسد ہونے کے قائل ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مراہوا جانور حرمت علیکم المیتۃ کی صراحت کے پیش نظر حرام ہے اور ہر وہ تحریم جو کرامت اور بزرگی کے طور پر نہ ہو وہ نجاست کی علامت ہے، اور چون کہ میتۃ کی تحریم کرامت کے قبیل سے نہیں ہے، اس لیے وہ بھی نجاست کی علامت ہوگی اور اس کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔

صاحب کتاب نے لا بطریق الکرامۃ کہہ کر انسان کو خارج کیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی پاک انسان پانی میں گر کر مرجائے تو اس کی موت سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیوں کہ اگرچہ یہ میتۃ ہے اور حرمت علیکم المیتۃ کے ضمن میں داخل ہے، مگر پھر بھی مردار انسان نجاست کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمیع اجزائہ سمیت بطور تکریم و تعظیم حرام قرار دیا ہے نہ کہ بوجہ نجاست، لہذا جب انسان میں نجاست نہیں ہے تو پانی میں اس کے گرنے سے کوئی فرق بھی نہیں ہوگا۔

اسی طرح اگر شہد کی مکھی کے بچے شہد کے جھتہ میں مر گئے یا پھلوں کے کیڑے پھل میں مر گئے تو اس سے نہ تو شہد ناپاک ہوگا اور نہ ہی پھل کی صحت اور طہارت پر کوئی آنچ آئے گی، اس لیے کہ عقلاً اور قیاساً تو یہ بھی آیت کریمہ کے تحت آکر حرام ہونے چاہئیں، مگر ضرورت کے تحت انھیں حلال اور مباح قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ ضرورت کے متعلق فقہ کا اصول یہ ہے کہ الضرورات تیبح المحظورات یعنی ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیا کرتی ہیں۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، مگر یہ حدیث مختصر ہے، پوری حدیث یوں ہے عن سلمان رضی اللہ عنہ قال سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن إناء فیہ طعام أو شراب یموت فیہ ما لیس له دم سائل فقال هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه الحدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برتن کے متعلق دریافت کیا گیا جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور اس میں کوئی ایسا جانور گر کر مرجائے جس میں بننے والا خون نہیں ہوتا، اس پر آپ نے فرمایا کہ بھائی اس چیز کا کھانا پینا اور وضو کرنا حلال ہے اور شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، یہ حدیث اس سلسلے میں نہایت واضح دلیل ہے کہ جس جانور میں دم مسفوح نہ ہو اس کے گرنے اور مرنے سے پاک اور حلال چیزیں ناپاک اور حرام نہیں ہوتیں۔

دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اصل ناپاک کرنے والی چیز جانور کی موت کے وقت دم سائل کا پانی کے اجزاء سے ملنا اور اس میں گھلنا ہے اور جب ان جانوروں میں (بچھو، بھڑ وغیرہ) دم سائل ہوتا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے سے پانی میں خون کا اختلاط بھی نہیں ہوگا اور جب اختلاط دم نہیں ہوگا تو پانی ناپاک بھی نہیں ہوگا، لأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح الخ، وهو لم یوجدہنا۔

صاحب ہدایہ عقلی دلیل کو ایک نظیر کے ذریعہ مزید مستحکم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سے دم مسفوح خارج ہو جاتا ہے، تو جب دم مسفوح ہونے کے بعد نکل جانے سے جانور پاک اور حلال ہو جاتا ہے، تو وہ جانور جن میں دم مسفوح سرے سے ہوتا ہی نہیں وہ تو بدرجہ اولیٰ پاک رہیں گے۔

والحرمة الخ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ التحريم لا بطریق الکرامۃ آیۃ النجاستہ کہہ کر بھڑ وغیرہ کو ناپاک قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حرام ہونے والی چیز کے لیے ناپاک ہونا

ضروری نہیں ہے، مثلاً مٹی ہی کو لے لیجیے کہ مٹی حرام ہے مگر ناپاک نہیں ہے۔

﴿وَمَوْتُ مَا يُعِيشُ فِي الْمَاءِ فِيهِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ وَالصَّفَدَعِ وَالسَّرَطَانِ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ يُمْسِدُهُ، إِلَّا السَّمَكُ لِمَا مَرَّ، وَلَنَا أَنَّهُ مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ فَلَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَبَيْضَةِ حَالٍ مُخْهَا دَمًا، وَلَآئِنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا، إِذِ الدَّمُ فِي الْمَاءِ وَالذَّمُّ هُوَ النَّجَسُ، وَفِي غَيْرِ الْمَاءِ قَبْلَ غَيْرِ السَّمَكِ يُفْسِدُهُ لِإِنْعَادِمِ الْمَعْدِنِ، وَقَبْلَ لَا يُفْسِدُهُ لِعَدَمِ الدَّمِ وَهُوَ الْأَصْحَحُ، وَالصَّفَدَعُ الْبُحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ سَوَاءٌ، وَقَبْلَ الْبَرِّيُّ يُفْسِدُ لَوْجُودِ الدَّمِ وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ، وَمَا يُعِيشُ فِي الْمَاءِ مَا يَكُونُ تَوَالِدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ، وَمَا نَبِي الْمَعَاشِ دُونَ مَا نَبِي الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ.

**ترجمہ:** اور پانی میں اس جانور کا مرنا جو پانی ہی میں زندگی گزارتا ہے پانی کو فاسد نہیں کرتا جیسے مچھلی، مینڈک اور کیڑا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ دیگر جانور پانی کو فاسد کر دیتے ہیں، اس دلیل کی وجہ سے جو گذر چکی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ جانور اپنے معدن میں مرا ہے، لہذا اسے نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا، جیسے وہ انڈا جس کی زردی خون میں تبدیل ہوگئی ہو، اور اس لیے بھی کہ اس میں خون نہیں ہوتا، کیوں کہ خون والا جانور پانی میں نہیں رہتا اور خون ہی ناپاک ہوتا ہے۔

اور پانی کے علاوہ میں ایک قول یہ ہے کہ معدن نہ ہونے کی وجہ سے مچھلی کے علاوہ دیگر جانور پانی کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خون نہ ہونے کی وجہ سے مائی جانور پانی کو فاسد نہیں کرتے اور یہی اصح ہے۔

اور دریائی اور خشکی مینڈک برابر ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ خشکی مینڈک پانی کو اور پانی میں زندگی جینے والے وہ جانور کہلاتے ہیں جن کا توالد و تناسل اور مکث و قیام پانی میں ہو۔ اور وہ جانور جو پانی میں رہتا ہو لیکن اس کا توالد و تناسل پانی میں نہ ہو تو یہ بھی مفسد ماء ہے۔

## اللغات:

﴿صَفَدَع﴾ مینڈک۔ ﴿سَرَطَان﴾ کیڑا۔ ﴿مَعْدِن﴾ پائے جانے کی جگہ، وطن، ٹھکانا۔ ﴿مُخ﴾ اندر کا حصہ، مراد انڈے کا اندر کا حصہ، زردی۔ ﴿مَثْوَى﴾ ٹھکانا، پناہ گاہ، آرام کرنے کی جگہ۔

## پانی میں رہنے والے جانوروں کے مرنے سے آلودہ ہونے والے پانی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور جو پانی ہی میں گذر بسر کرتے ہیں جیسے مچھلی ہے، مینڈک اور کیڑا وغیرہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی پانی میں گر کر مر جائے تو ہمارے یہاں وہ پانی خراب اور ناپاک نہیں ہوگا، خواہ قلیل ہو یا کثیر، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ اگر دوسرا کوئی جانور مرتا ہے تو اس کے مرنے سے پانی خراب اور ناپاک ہو جائے گا۔

اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہی ہے جو اس سے پہلے والے مسئلے کے تحت آچکی ہے، یعنی اگر تحریم بطریق کرامت نہ ہو تو وہ نجاست کی علامت ہے اور چونکہ ان جانوروں کی تحریم بطریق کرامت نہیں ہے، اس لیے ان کی تحریم نجاست

کی علامت ہوگی اور جس چیز میں یہ گر کر مرے گا اسے ناپاک کر دیں گے۔ اور مچھلی چون کہ ما کول اللحم چیزوں میں سے ہے، اس لیے اس کا استثناء کیا گیا ہے، لہذا اس کے گرنے اور مرنے سے پانی کی طہارت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مچھلی اور مینڈک وغیرہ پانی ہی میں رہتے بستے ہیں اور پانی ہی ان کا معدن اور مستقر ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو چیز اپنے معدن اور مسکن میں نجس ہوتی ہے اس پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا، تا وقتیکہ وہ اپنے معدن سے سرایت نہ کر جائے، اس لیے کہ اگر معدن اور مسکن میں بھی نجاست کا حکم لگا دیا جائے گا تب تو کوئی بھی شخص پاک ہی نہیں ہوگا، کیوں کہ ہر کسی کی رگوں میں خون اور پیٹ میں غلاظت ہوتی ہے، لہذا اپنے معدن اور مستقر میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی غلیظ اور بدبودار ہی کیوں نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر انڈے کے اندر اس کی زردی خون میں تبدیل ہو جائے تو جب تک وہ انڈے میں رہے گی اس وقت تک اس پر نجاست کا حکم نہیں لگے گا، کیوں کہ وہ اپنے معدن اور اپنے مسکن میں ہے، اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ جب یہ بات طے ہے کہ معدن میں نجس چیز پر بھی نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا تو مینڈک وغیرہ جن کا معدن پانی ہے اگر یہ اس میں مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ موت کی وجہ سے نجاست کا دار و مدار اور انحصار خون پر ہے اور مینڈک اور کیکڑے وغیرہ میں خون ہی نہیں ہوتا، کیوں کہ خون والے جانور پانی میں نہیں رہ سکتے، لہذا جب ان میں خون ہی نہیں ہوتا اور خون ہی مفسد اور نجس ہے تو پھر ان کے مرنے سے پانی کے ناپاک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

وفي غير الماء الخ معدن اور مسکن کو ذہن میں رکھ کر یہ مسئلہ دیکھئے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مینڈک یا اور کوئی آبی جانور پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز مثلاً سرکہ، جوس اور دودھ وغیرہ میں گر کر مر جائے تو اس چیز کی طہارت یا عدم طہارت کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی دو رائیں ہیں (۱) پہلی رائے تو یہ ہے کہ اگر مچھلی کے علاوہ دوسرا کوئی آب جانور سرکہ وغیرہ میں گر کر مر جائے تو اسے فاسد اور نجس کر دے گا، کیوں کہ یہ اپنے معدن سے ہٹ کر دوسری چیز میں مرا ہے، اس لیے اب اس پر نجاست کا حکم لگایا جائے گا، اس کے قائل نصیر بن یحییٰ اور محمد بن سلمہ وغیرہ ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

(۲) دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں سرکہ وغیرہ نجس نہیں ہوگا، کیوں کہ نجاست کا دار و مدار بہنے والے خون پر ہے اور ان جانوروں میں بہنے والا خون ہوتا ہی نہیں ہے، یہ رائے محمد بن مقاتل وغیرہ کی ہے اور حضرت امام حسنؒ نے امام اعظم رحمہ اللہ سے ایک روایت میں اسی رائے کو نقل کیا ہے (عنا یہ ۱۸۹/۱، بنایہ ۳۳۳) صاحب ہدایہ نے وهو الاصح کہہ کر اسی دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔

والضفد الخ فرماتے ہیں کہ دریا اور خشکی دونوں جگہ کے مینڈک حکم میں برابر ہیں اور دونوں کے مرنے سے پانی وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خشکی کا مینڈک اگر مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، کیوں کہ پانی میں نہ رہنے کی وجہ سے یہ بات طے ہے کہ اس میں دم مسفوح موجود ہے اور دم مسفوح ہی نجس ہے، لہذا اس کے مرنے سے پانی وغیرہ ناپاک ہو جائے گا۔

وما یعیش الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ آبی جانوروں میں اگر دو صفت پائی جائے تو انہیں آبی کا درجہ دیا جائے گا (۲) ان کا مسکن پانی ہو (۳) ان کے انڈے بچے بھی پانی ہی میں ہوں، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جانور رہتا تو پانی میں ہو، لیکن اس کے انڈے بچے پانی میں نہ رہتے ہوں، جیسے بطن وغیرہ، تو اس کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ صرف ایک وصف کے اعتبار سے آبی ہے، جب کہ حقیقی آبی ہونے کے لیے دونوں وصف ضروری ہیں۔

﴿قَالَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يُطَهِّرُ الْأَحْدَاثَ﴾ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُمَا يَقُولَانِ إِنَّ الطُّهُورَ مَا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالْقَطْوَعِ، وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ كَانَ الْمُسْتَعْمَلُ مُتَوَضِّئًا فَهُوَ طَهُورٌ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، لِأَنَّ الْعَضْوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةٌ وَبِإِعْتَابِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا، لَكِنَّهُ نَجَسٌ حُكْمًا وَبِإِعْتَابِهِ يَكُونُ الْمَاءُ نَجَسًا فَقُلْنَا بِإِنْتِفَاءِ الطُّهُورِيَّةِ وَبِقَاءِ الطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالشَّيْئِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، لِأَنَّ مَلَاقَةَ الطَّاهِرِ الطَّاهِرَ لَا يُوجِبُ التَّجَسُّسَ، إِلَّا أَنَّهُ أُفِيئَتْ بِهِ قُرْبَةً فَتَغَيَّرَتْ بِهِ صِفَتُهُ، كَمَالِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُو يُونُسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ نَجَسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلِأَنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَتْ بِهِ النِّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ فَيَعْتَبَرُ بِمَاءٍ أُزِيلَتْ بِهِ النِّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَجَسٌ نَجَاسَةٌ غَلِيظَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي النِّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُونُسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ نَجَاسَةٌ خَفِيفَةٌ لِمَكَانِ الْإِخْتِلَافِ.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ استعمال کیا ہوا پانی ناپاکیوں کو پاک نہیں کرتا، امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ طہور وہ ہے جو اپنے علاوہ کو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی پاک کرے، جیسے قَطْوَع ہے۔ امام زفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (اور یہی امام شافعی رضی اللہ عنہ کے دو قولوں میں سے ایک ہے) اگر استعمال کرنے والا شخص با وضو ہو تب تو وہ پانی طہور ہے، لیکن اگر مستعمل محدث (بے وضو) ہو تب پانی طہور ہے، طہور نہیں ہے، اس لیے کہ عضو تو حقیقتاً طہور ہے، لہذا اس اعتبار سے پانی بھی طہور ہوگا، لیکن حکماً وہ نجس ہے اور اس اعتبار سے پانی ناپاک ہوگا، اس لیے دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم طہوریت کی انتفاء اور طہارت کی بقاء کے قائل ہیں۔

امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور یہی ایک روایت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ماء مستعمل طہور ہے، مطہر نہیں ہے، اس لیے کہ پاک چیز کے پاک چیز سے ملنے کی وجہ سے ناپاکی نہیں پیدا ہوتی، مگر چونکہ اس پانی سے ایک عبادت ادا کر لی گئی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس پانی کی صفت بدل جائے گی جیسے صدقے کا مال۔

حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ ماء مستعمل ناپاک ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سے کوئی بھی شخص نہ تو ظہرے

ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے۔ اور اس لیے بھی کہ ماء مستعمل ایسا پانی ہے جس سے نجاست حکمیہ زائل کی گئی ہے، لہذا اسے اس پانی پر قیاس کیا جائے گا جس سے نجاست حقیقیہ زائل کی گئی ہو۔

پھر حضرت امام صاحب سے حضرت حسنؓ کی روایت میں یہ ہے کہ مذکورہ پانی نجس، نجاست غلیظہ ہے، اس پانی پر قیاس کرتے ہوئے جو نجاست حقیقہ کے ازالے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور امام صاحب سے امام ابو یوسفؒ کی روایت میں یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے ماء مستعمل نجاست خفیفہ ہے اور یہی امام ابو یوسفؒ کا قول بھی ہے۔

## اللغات:

﴿قَطُوعٌ﴾ اسم مبالغہ؛ بار بار کاٹنے والا۔ ﴿ذَانِمٌ﴾ دام بدوم، باب نصر؛ ہمیشہ رہنا، زوال کی ضد، مراد زکا ہوا، بظہر اہوا۔

## ماء مستعمل: تعریف، حکم اور اس سے حدث دور کرنے کا بیان:

اس دراز نفس عبارت میں صاحب کتاب نے ماء مستعمل کی طہارت اور عدم طہارت کے سلسلے میں حضرات فقہاء کے اقوال کو ان کے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ماء مستعمل کی تین صورتیں ہیں جن میں دو متفق علیہ ہیں اور ایک مختلف فیہ ہے (۱) پہلی صورت ہے کہ اگر پاک چیزیں مثلاً غلہ، سبزی اور پاک کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے کوئی پاک پانی استعمال کیا جائے تو مستعمل ہونے کے بعد بھی بالاتفاق وہ پانی پاک ہی رہتا ہے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پانی سے نجاست حقیقیہ زائل کی گئی تو بالاتفاق وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں تو متفق علیہ ہیں۔ (۳) تیسری صورت جو مختلف فیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاک پانی سے نجاست حکمی زائل کی گئی یا قربت اور ثواب کی نیت سے اسے استعمال کیا گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں، چنانچہ امام مالک اور امام شافعیؒ کے یہاں یہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی خود تو پاک ہے ہی، ساتھ میں دوسرے کو پاک کرنے کا اہل بھی ہے۔

امام زفرؒ کے یہاں اس سلسلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ ماء مستعمل کے طاہر اور مطہر ہونے کا انحصار استعمال کنندہ پر ہے، اگر استعمال کرنے والا شخص با وضو ہو اور اس نے قربت اور ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا تو اس کے وضو میں استعمال ہونے والا پانی طاہر اور مطہر دونوں وصف کا حامل ہے۔

لیکن اگر استعمال کنندہ محدث اور بے وضو ہو تو اس صورت میں یہ پانی صرف طاہر ہوگا، مطہر نہیں ہوگا۔ (امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے)

حضرت امام محمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح کا ماء مستعمل صرف طاہر ہے مطہر نہیں ہے، خواہ استعمال کرنے والا با وضو ہو یا بے وضو ہو (امام اعظم سے ایک روایت میں یہی قول منقول ہے)۔

حضرات شیخین کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کا مستعمل پانی نجس اور ناپاک ہے، خواہ نجاست حقیقی کے ازالے کی خاطر استعمال کیا جائے یا نجاست حکمی میں استعمال کیا جائے۔

امام مالک اور امام شافعیؒ ماء مستعمل کے طاہر اور مطہر دونوں ہونے پر قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے



ہیں و انزلنا من السماء ماء طهوراً اور استدلال کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماء مطلق کے لیے طہور کا صیغہ استعمال کیا ہے اور طہور یہ فَعُول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بار بار پاک کرنا، جیسے قَطوعِ فَعُول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کے معنی یہی ہیں یعنی بار بار بار کاٹنا، الحاصل طہور میں تکرار ہے اس لیے اس سے متعلق شیء کے حکم میں بھی تکرار ہوگا اور یہ تکرار اسی وقت متحقق ہوگا جب ہم ماء مستعمل کو ظاہر اور مطہر دونوں قرار دیں، اسی لیے ہمارے یہاں ماء مستعمل ظاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں دو مسئلے ہیں اور دونوں کی رعایت ضروری ہے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ محدث کے اعضاء حقیقتاً پاک ہوتے ہیں، کیوں کہ ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی اور اس اعتبار سے ماء مستعمل کو ظاہر اور مطہر دونوں ہونا چاہیے، مگر حکماً اس کے اعضاء نجس اور ناپاک ہوتے ہیں، کیوں کہ محدث کے لیے ارادہ صلاۃ کے وقت وضو کرنا شرعاً ضروری قرار دیا گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ماء مستعمل کا مطہر ہونا تو درکنار، اسے ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا تشدد بھی نہیں برتنا چاہیے، اس لیے ہم نے بین بین کی شکل یہ نکالی ہے کہ یہ ماء مستعمل ظاہر ہے مطہر نہیں ہے، تاکہ دونوں مسئلوں کی رعایت ہو سکے۔

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ محدث کے اعضاء بھی پاک ہیں اور جس پانی سے وضو کر رہا ہے وہ پانی بھی پاک ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ پاک چیز اگر دوسری پاک چیز سے ملتی ہے تو نجس نہیں ہوتی، مگر چوں کہ یہاں اس پانی سے ایک عبادت (وضو) ادا کی گئی ہے، اس لیے یہ پانی A ONE کو اٹنی کا نہیں ہوگا، بل کہ اس صفائی ستھرائی اور اس کے کھرے پن میں تھوڑی سی گراوٹ تو آئے گی ہی، اور گراوٹ یہی ہے کہ اس کو مطہر نہ مانا جائے، لیکن اس کی طہارت میں کوئی شبہہ اور خدشہ بھی نہ ظاہر کیا جائے، کیوں کہ بہر حال وہ ظاہر ہے۔ اور یہ صدقے کے مال کی طرح ہے کہ مال فی نفسہ پاک اور حلال ہے۔ مگر چوں کہ اس سے ایک قربت ادا کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کے گریڈ (Grade) میں معمولی سی کمی آجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اور آل رسول کے لیے صدقہ کا مال استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں اگرچہ یہ بھی مال ہے، مگر یہ دوسروں کا میل پچیل ہے، الحاصل جس طرح صدقے کے مال میں ادائیگی قربت کی وجہ سے تغیر وصف ہو جاتا ہے، اسی طرح ماء مستعمل میں بھی ادائیگی قربت کی وجہ سے وصف کی تبدیلی ہوگی اور اسے ظاہر ہی مانا جائے گا، مطہر نہیں مانا جائے گا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ماء مستعمل کے ظاہر ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل وضو سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو حضرات صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر اسے ملنے لگتے تھے، اگر ماء مستعمل ناپاک ہوتا تو صحابہ کرام کو یقیناً اس فعل پر تنبیہ کی جاتی اور انھیں اس کے استعمال سے روکا اور منع کیا جاتا، لیکن کہیں بھی کسی طرح کی کوئی تنبیہ اور ممانعت ثابت نہیں ہے، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ماء مستعمل ناپاک نہیں ہے۔

اس سلسلے میں حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور غسل جنابت سے بھی منع فرمایا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس طرح نجاست حقیقیہ یعنی پیشاب پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، اسی طرح نجاست حکمیہ یعنی غسل وغیرہ کرنے سے بھی پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کیوں کہ اگر نجاست حکمیہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا تو پھر ماء را کد میں غسل جنابت سے منع نہ کیا جاتا۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ جب کسی شخص نے وضو کیا تو گویا اس نے نجاستِ حکمیہ کے ازالے کے لیے پانی کو استعمال کیا، لہذا اسے اُس پانی پر قیاس کیا جائے گا جو نجاستِ حقیقیہ دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور یہ بات طے ہے کہ اگر نجاستِ حقیقیہ دور کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، لہذا نجاستِ حکمیہ کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ بھی نجس ہوگا۔

ثم فی روایۃ الحسن الخ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب شیخین کے یہاں ماء مستعمل نجس ہے تو کس درجے کا نجس ہے، اس لیے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں (۱) نجاستِ غلیظہ (۲) نجاستِ خفیہ، اس سلسلے میں امام صاحب سے حسن بن زیاد کی رائے یہ منقول ہے کہ یہ پانی نجاستِ غلیظہ والی نجاست میں داخل ہے اور اسے اس پانی پر قیاس کیا گیا ہے جو نجاستِ حقیقیہ زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ نجاستِ حقیقیہ کے ازالے میں استعمال شدہ پانی نجس نجاستِ غلیظہ ہوتا ہے، اس لیے نجاستِ حکمیہ کے ازالے میں استعمال شدہ پانی بھی نجس نجاستِ غلیظہ ہوگا۔

اور امام صاحب سے دوسری روایت میں جسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے یہ ہے کہ یہ ماء مستعمل نجس نجاستِ خفیہ ہے، کیوں کہ اس کی نجاست اور عدم نجاست کے سلسلے میں فقہاء کرام نے زبردست معرکہ آرائی کی ہے اور یہ مسلم امر ہے کہ اختلاف سے تخفیف آجاتی ہے، اس لیے اس پانی کو نجاستِ خفیہ والی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔

### ماء مستعمل کی تعریف کے حوالے سے راجح ترین قول:

ماء مستعمل کی نجاست اور اس کی طہارت کے حوالے سے جتنے بھی اقوال نقل کیے گئے ہیں ان میں سب سے عمدہ اور پسندیدہ قول حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور انہی کا استدلال بھی سب سے قوی ہے اور عمومِ بلوئی کی وجہ سے اس زمانے میں فتویٰ بھی انہی کے قول پر ہے کہ ماء مستعمل طاہر تو ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، اس سلسلے میں صاحبِ عنایہ کی صراحت ملاحظہ ہو، وقول محمد وهو انه طاهر غير طهور رواية عن ابي حنيفة وهو المختار للفتوى لعموم البلوى یعنی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ماء مستعمل کو طاہر غیر مطہر مانتے ہیں، امام صاحب سے ایک روایت یہی ہے اور عمومِ بلوئی کی وجہ سے اسی پر فتویٰ بھی ہے (۹۱/۱ عنایہ مع فتح القدر) اس سلسلے میں صاحبِ بنایہ کی رائے یہ ہے وهو اختیار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط وهو الأشهر الأقيس، قال في المفيد هو الصحيح وقال الاسبيجاني وعليه الفتوى وبه قال أحمد، وهو الصحيح من مذهب الشافعي رحمۃ اللہ علیہ (بنایہ ۱/۳۴۹) وفيه أيضا، قال النووي وهو قول جمهور السلف والخلف۔

﴿وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ مَا أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقُرْبَةِ﴾ قَالَ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ أَيْضًا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمۃ اللہ علیہ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ، لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ بِإِنْتِقَالِ نَجَاسَةِ الْأَثَامِ إِلَيْهِ وَأَنَّهَا تَزَالُ بِالْقُرْبَةِ، وَأَبُو يُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ يَقُولُ إِسْقَاطِ

الْفَرْضِ مُؤَثِّرٌ أَيْضًا فَيَثِبُ الْفَسَادُ بِالْأَمْرَيْنِ، وَمَتَى بَصِيرُ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا، الصَّحِيحُ أَنَّهُ كَمَا زَالَ عَنِ الْعَضْوِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا، لِأَنَّ سَقُوطَ حُكْمِ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ بَعْدَهُ.

**ترجمہ:** اور ماء مستعمل وہ پانی ہے جس سے کوئی ناپاک کی دور کی گئی ہو یا بہ نیت قربت اسے بدن میں استعمال کیا گیا ہو، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب کا بھی یہی قول ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادائیگی قربت کے بغیر پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیوں کہ گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے ہی پانی مستعمل ہوتا ہے اور گناہوں کی نجاست عبادت سے دور کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ساقط کرنا بھی (پانی کو مستعمل بنانے میں) مؤثر ہے، لہذا دو باتوں سے پانی کا فساد ثابت ہوگا۔

اور پانی مستعمل کب ہوتا ہے (تو اس سلسلے میں) صحیح یہ ہے کہ عضو سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے، کیوں کہ جدا ہونے سے پہلے استعمال کے حکم کا ساقط ہونا ضرورت کی وجہ سے ہے اور جدا ہونے کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی۔

## اللغات:

﴿قُرْبَةٌ﴾ نیکی، جس کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ﴿آثَامٌ﴾ اسم جمع، واحد اثم؛ گناہ۔ ﴿انْفِصَالٌ﴾ اسم مصدر، باب انفعال؛ جدا ہونا، علیحدہ ہو جانا۔

## ماء مستعمل کی مزید وضاحت:

اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) ماء مستعمل کہتے کسے ہیں (۲) پانی مستعمل کب ہوتا ہے، پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ دو وجہوں سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے (۱) اس پانی سے کوئی حدث اور ناپاک کی دور کی گئی ہو۔

(۲) اسے قربت اور ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو، اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے ورنہ نہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں بیان کردہ قول تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا معلوم ہوتا ہے، مگر بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں اور یہی صحیح ہے۔ الحاصل شیخین کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی دو وجہیں ہیں، ان میں سے جو بھی وجہ پائی جائے گی پانی مستعمل ہو جائے گا۔

اس کے برخلاف امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کی واحد وجہ قربت کی نیت ہے، اگر اس نیت سے پانی استعمال کیا جائے تب تو وہ مستعمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور امام زفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی وجہ صرف ازالہ حدث ہے، اب دیکھئے صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو دو تین مثالوں سے مزید متح کیا ہے۔ (۱) اگر کوئی محدث قربت اور ثواب کی نیت سے پانی استعمال کرے تو وہ پانی بالاتفاق مستعمل ہو جائے گا، کیوں کہ شیخین کے قول کے مطابق تو دونوں وجہ موجود ہیں، نیز امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نیت قربت بھی ہے اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ازالہ حدث بھی ہے۔

اس کے برخلاف اگر کوئی با وضو شخص صرف تبرید اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی کو استعمال کرے تو وہ پانی بالاتفاق

مستعمل نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں نہ تو نیت قربت ہے اور نہ ہی ازالہ حدت ہے۔ (۹۴/۱)

بہر حال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے مستعمل ہونے کی جو وجہ بتلائی ہے (نیت قربت) اس کی دلیل یہ ہے کہ پانی اسی صورت میں مستعمل کہلائے گا جب گناہوں کی نجاست اس کی طرف منتقل ہو۔ اور گناہوں کی نجاست اسی وقت منتقل ہوگی جب قربت کی نیت کی جائے، اس لیے انھوں نے واسطے کے بغیر ڈاکٹ اور براہ راست ”نیت قربت“ کو پانی کے مستعمل ہونے کی علت اور وجہ قرار دے دیا۔

و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ يقول الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی دو وجہیں ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا، مگر چون کہ متن اور آغاز میں امام اعظم کا قول صیغہ تریض یعنی قیل کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، اسی لیے غالباً یہاں صاحب کتاب نے و ابو یوسف يقول کہہ کر ازالہ حدت والی وجہ کو تنہا انھی کی طرف منسوب کیا ہے، ورنہ تو درحقیقت یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا قول ہے اور دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک وجہ کے پائے جانے سے ان حضرات کے یہاں پانی مستعمل ہو جائے گا۔ (واضح رہے کہ إسقاط الفرض سے ازالہ حدت مراد ہے)

ومتی یصیر الماء مستعملاً الخ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں معتمد اور مستند کے قول کے مطابق متوضی کے عضو سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ قید نہیں ہوگی کہ وہ پانی عضو سے جدا ہو کر کسی برتن یا کسی جگہ وغیرہ میں ٹھہرے تو اسے مستعمل کہا جائے گا جیسا کہ سفیان ثوری اور ابراہیم نخعی وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔

قول معتمد کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی متوضی نے پانی سے اپنا کوئی عضو دھویا، ظاہراً تو وہ مستعمل ہو گیا، لیکن عضو سے جدا ہونے کے پہلے اس وجہ سے اسے مستعمل نہیں کہا جاتا کہ وضو کرنا ایک ضرورت ہے اور دوران وضو پانی کا عضو پر لگنا بھی ضروری ہے، لہذا اسی ضرورت کی بنیاد پر جدا ہونے سے پہلے اس پانی کو مستعمل نہیں کہیں گے، لیکن جب پانی عضو سے جدا ہو جائے گا تو اس پر مستعمل ہونے کی مہر ثبت کر دیں گے، کیوں کہ جدا ہونے کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

وَالْجُنْبُ إِذَا انْعَمَسَ فِي الْبُئْرِ لَطَبِ الدَّلْوِ، فَعِنْدَ أَبِي يُونُسَ رحمۃ اللہ علیہ الرَّجُلُ بِحَالِهِ لَعَدَمِ الصَّبِّ وَهُوَ شَرَطُ عِنْدَهُ لِإِسْقَاطِ الْقُرْضِ، وَالْمَاءُ بِحَالِهِ لَعَدَمِ الْأَمْرَيْنِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمۃ اللہ علیہ كِلَاهُمَا طَاهِرَانِ، الرَّجُلُ لَعَدَمِ اسْتِرَاطِ الصَّبِّ، وَالْمَاءُ لَعَدَمِ نَيْةِ الْقُرْبَةِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ كِلَاهُمَا نَجَسَانِ، الْمَاءُ لِإِسْقَاطِ الْقُرْضِ عَنِ الْبَعْضِ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ، وَالرَّجُلُ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ، وَقِيلَ عِنْدَهُ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَعَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ، لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ .

ترجمہ: اور اگر جنبی نے ڈول نکالنے کے لیے کنویں میں غوطہ لگایا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص اپنے حال پر باقی ہے (جنبی ہے) اس لیے کہ بدن پر پانی بہانا نہیں پایا گیا، حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرض ساقط کرنے کے صبر شرط

ہے، اور پانی بھی اپنی حالت پر ہے (پاک ہے) اس لیے کہ صب اور نیتہ قربت دونوں نہیں ہے۔

اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان اور پانی دونوں پاک ہیں، انسان تو اس وجہ سے پاک ہے کہ ان کے یہاں پانی بہانا شرط نہیں ہے۔ اور پانی قربت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے پاک ہے۔

اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غوطہ زن اور پانی دونوں ناپاک ہیں، پانی تو اس وجہ سے ناپاک ہے کہ اول ملاقات میں بعض اعضاء سے فرض ساقط ہو گیا، اور غوطہ زن اس وجہ سے ناپاک ہے کہ اس کے باقی اعضاء میں حدث باقی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غوطہ زن کی نجاست ماء مستعمل کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ایک روایت یہ ہے کہ یہ شخص پاک ہے، کیوں کہ جدا ہونے سے پہلے پانی کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا، اور یہ روایت امام صاحب سے مروی جملہ روایتوں میں سب سے زیادہ اوفق ہے۔

## اللغات:

﴿انْعَمَسَ﴾ باب انفعال؛ ذوبنا، غوطہ لگانا۔ ﴿صَبَّ﴾ اسم مصدر، صَبَّ يَصُبُّ، باب نصر؛ بہانا، انڈیلنا۔

## ماء مستعمل کی تعریف میں مختلف اقوال کا ثمرہ اختلاف:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں الجنب سے مراد وہ جنسی ہے جس کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو، اس لیے کہ اگر گرنے والے کے بدن پر نجاست لگی ہوگی تو بالاتفاق پانی ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ لطلب الدلو کی قید قیدِ احترازی ہے، قید اتفاقی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی جنسی غسل کرنے کے لیے کنویں میں غوطہ لگائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ (بنایہ، عنایہ)

اب عبارت دیکھیے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جنسی نے ڈول نکالنے یا ٹھنڈک وغیرہ حاصل کرنے کی غرض سے کنویں میں غوطہ زنی کی تو اس کنویں اور غوطہ زن کی طہارت و نجاست کے سلسلے میں فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں، چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ غوطہ زن بھی اپنی سابقہ حالت پر برقرار ہے یعنی جنسی ہے اور پانی بھی اپنی پہلی حالت پر برقرار ہے یعنی پاک ہے، اور غوطہ زنی سے نہ تو غوطہ خور میں طہارت پیدا ہوئی اور نہ ہی پانی میں نجاست آئی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غوطہ زن بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے۔

اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں دو روایتیں منقول ہیں (۱) غوطہ زن اور پانی دونوں ناپاک ہیں (۲) غوطہ زن پاک ہے، پانی ناپاک ہے۔

اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جنسی پر اپنی جنابت دور کرنے اور فرض ساقط کرنے کے لیے صب یعنی بدن پر پانی بہانا شرط ہے اور غوطہ زنی کرنے میں صب نہیں پایا گیا، اس لیے جنسی کی جنابت علیٰ حالہ باقی رہی اور وہ ناپاک ہی رہا۔ اور پانی کے پاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی دو وجہیں ہیں (۱) ازالہ حدث (۲) نیت قربت اور صورت مسئلہ میں دونوں وجہیں معدوم ہیں اس لیے پانی مستعمل نہیں ہوا اور جب پانی مستعمل نہیں ہوا تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے غوطہ زن کو پاک قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اسقاط فرض کے لیے پانی بہانا شرط نہیں ہے، لہذا

جب پانی بہانا شرط نہیں ہے اور غوطہ زنی کرنے کی وجہ سے اس کے پورے بدن پر پانی بہہ ہی گیا ہے تو اس کی جنابت دور ہوگئی اور جب جنابت دور ہوگئی تو وہ پاک ہو گیا۔

اور پانی کے پاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لیے ان کے یہاں بھی بوقت استعمال قربت کی نیت کرنا ضروری ہے، اور غوطہ زن نے کوئی نیت نہیں کی ہے، لہذا پانی مستعمل نہیں ہوا، اور جب مستعمل نہیں ہوا تو ناپاک کیسے ہو جائے گا۔

حضرت امام عالی مقام رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ پانی تو اس وجہ سے ناپاک ہے کہ ہمارے یہاں اسقاط فرض کے لیے نیت شرط نہیں ہے اور جبئی کے بعض اعضاء جب پانی سے ملے تو ان بعض اعضاء کی نجاست دور ہوگئی اور پانی مستعمل ہو گیا اور ماء مستعمل کا ناپاک ہونا ظاہر و باہر ہے، اور غوطہ زن کے ناپاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ غوطہ زنی کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے نجاست دور نہیں ہوئی، بل کہ بعض ہی اعضاء سے نجاست دور ہوئی اور بعض اعضاء میں نجاست برقرار ہے، لہذا جب بعض اعضاء میں نجاست برقرار ہے تو آخر کس وجہ سے ہم اسے پاک قرار دیدیں، پاک ہونے کے لیے تو مکمل طور پر نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غوطہ زن کے ناپاک ہونے کی علت یہ ہے کہ جب غوطہ زنی کرنے کی وجہ سے پانی مستعمل ہو کر ناپاک ہو گیا اور اس شخص کے بعض اعضاء اس ماء نجس اور مستعمل سے ملے رہے تو ظاہر ہے کہ یہ اعضاء بھی ناپاک ہوں گے اور جب تک اعضاء ناپاک رہیں گے، اس وقت تک طہارت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

وعنه الخ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو دوسری روایت منقول ہے یہاں سے اس کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ غوطہ زن پاک ہے اور اس کے پاک ہونے کی علت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات آچکی ہے کہ صحیح اور معتمد قول کے مطابق جدا ہونے سے پہلے پانی کو مستعمل نہیں کہا جائے گا، لہذا صورت مسئلہ میں ہر چند کہ غوطہ زن کے بعض اعضاء ماء مستعمل اور ماء نجس سے مس کیے ہوئے ہیں، مگر چون کہ جدا ہونے سے پہلے اس پانی پر مستعمل ہونے کا لیبل نہیں لگایا جاتا، اس لیے اس کے اعضاء کو مذکورہ پانی سے مس ہونے کی بنا پر ناپاک نہیں قرار دیا جاسکتا، کیوں کہ جب اس پر مستعمل اور نجس ہونے کا حکم لگے اس وقت غوطہ زن کے اعضاء پانی سے باہر ہوں گے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے منقول یہ روایت دیگر روایتوں کے مقابلے میں زیادہ سہلی اور مناسب معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ یہ ان کے اصول سے بھی ہم آہنگ ہے اور عامۃ المسلمین کے لیے اس میں سہولت بھی ہے۔

« قَالَ وَكُلُّ إِهَابٍ دُبُغٌ فَقَدْ طَهَرَ جَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ، إِلَّا جِلْدُ الْخِنْزِيرِ » وَالْأَدَمِيُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيَّمَا إِهَابٍ ① دُبُغٌ فَقَدْ طَهَرَ، وَهُوَ بَعْمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رحمۃ اللہ علیہ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ، وَلَا يُعَارِضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَنْتَفِعُوا ② مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، لِأَنَّهُ اسْمٌ لِعَبْرٍ الْمُدْبُوغِ، وَحُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رحمۃ اللہ علیہ فِي جِلْدِ الْكَلْبِ، وَكَيَسَ الْكَلْبُ بِنَجَسِ الْعَيْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْتَفِعُ

بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَاءً، بِخِلَافِ الْخِزْيِرِ، لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ، إِذِ الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ رَجَسٌ مُنْصَرَفٌ إِلَيْهِ لِقُرْبِهِ (سورة الانعام : ۱۴۵)، وَحُرْمَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الْأَدْمِيِّ لِكِرَامَتِهِ، فَحَرَجًا عَمَّا رَوَيْنَاهُ، ثُمَّ مَا يَمْتَنَعُ النَّتْنُ وَالْفَسَادُ فَهُوَ دَبَاغٌ وَإِنْ كَانَ تَشْمِيمًا أَوْ تَتْرِبًا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ فَلَا مَعْنَى لِاسْتِرَاطِ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَا يَطْهَرُ جِلْدُهُ بِالِدَبَاغِ يَطْهَرُ بِالذِّكَاةِ، لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الدَّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجَسَةِ، وَكَذَلِكَ يَطْهَرُ لَحْمُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا.

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ ہر کچی کھال جسے دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس میں نماز پڑھنا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کھال کو بھی دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے اور یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے مردار کی کھال کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔ اور اس نہی سے معارضہ نہیں کیا جائے گا جو مردار سے نفع حاصل کرنے کے سلسلے میں وارد ہے یعنی آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ مردار کی کھال سے نفع مت حاصل کرو، اس لیے کہ اہاب بغیر دباغت دی ہوئی کھال کا نام ہے۔

اور (مذکورہ حدیث) کتے کی کھال کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے، جب کہ کتاب نجس العین بھی نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ پہرہ داری اور شکار کے طور پر کتے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، برخلاف خنزیر کے، کیوں کہ یہ تو نجس العین ہے، اس لیے کہ ارشاد باری فانیہ رجس میں قربت کی بنا پر ضمیرہ خنزیر ہی کی طرف راجع ہے۔ اور انسان کے اجزاء سے انتفاع کی حرمت اس کی کرامت کی وجہ سے ہے، لہذا ہماری بیان کردہ روایت سے یہ دونوں خارج ہو گئیں۔

پھر ہر وہ چیز جو بدبودار ہونے اور خراب ہونے سے روک دے وہی دباغت ہے، خواہ وہ دھوپ میں سکھانا ہو یا مٹی لگانا، اس لیے کہ اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے، لہذا دوسری چیز کی شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

پھر جس جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ترطوبات کو دور کرنے کے حوالے سے ذبح کرنا دباغت دینے کا کام کرتا ہے، نیز ذبح سے مذبوہ جانور کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے ہر چند کہ وہ ماکول اللحم نہ ہو۔

## اللغات:

﴿إِهَابٌ﴾ جانور کا ترچڑا، کھال جس کو خشک نہ کیا گیا ہو۔ ﴿حِرَاسَةٌ﴾ پہرہ داری۔ ﴿اصْطِيَاءٌ﴾ اسم مصدر، باب افتعال؛ شکار کرنا۔ ﴿نَتْنٌ﴾ بدبو، سڑاند۔ ﴿تَشْمِيمٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ سورج میں ڈالنا، دھوپ لگوانا۔ ﴿تَتْرِبٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ خاک آلود کرنا، مٹی ملنا۔

## تخریج:

نسائی فی کتاب الفرع والعشیرة باب جلود المیتة حدیث رقم ۴۲۴۶.

② اخرجہ ابوداؤد فی کتاب اللباس باب روی ان لا یستنفع باہاب المیتة حدیث رقم ۴۱۲۷.

نسائی فی کتاب الفرع والعشیرة باب ما یدبغ بہ جلود المیتة حدیث رقم ۴۲۵۶.

### جانور کے کچے اور پکے چمڑے کا حکم:

عبارت کی توضیح و تشریح سے پہلے مختصراً یہ ذہن میں رکھیے کچی اور پکی کھال کے نام بھی الگ ہیں اور ان کے احکام بھی الگ ہیں، چنانچہ عربی میں کچی اور غیر مدبوغ کھال کے لیے اہاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کہ پکی اور دباغت دی ہوئی کھال کو ادمیم یا حور یا ادم کہتے ہیں (بناہ ۳۵۹/۱) اسی طرح انسان اور خنزیر کے علاوہ ہر طرح کی کچی اور دباغت دی ہوئی کھال کا مصلیٰ بنا کر اس پر نماز پڑھنا یا جیکٹ وغیرہ بنا کر اسے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے، نیز اس کھال کا مشکیزہ بنا کر اس میں رکھے ہوئے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کے برخلاف کچی اور غیر مدبوغ کھال میں نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بنے ہوئے مشکیزے میں پانی وغیرہ رکھ کر اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ (اب عبارت کا حل ملاحظہ کیجئے)

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خنزیر اور آدمی کے علاوہ ہر جانور کی کھال دباغت دینے اور مسالہ وغیرہ کے ذریعہ اس کی بدبو اور رطوبت دور کرنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور اسے پہن یا بچھا کر نماز پڑھنا نیز اس کا مشکیزہ بنا کر اس مشکیزے کے پانی سے وضو کرنا درست اور جائز ہے، اور اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان شاہد عدل ہے ”ایما اہاب دبغ فقد طہر“ کہ ہر طرح کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے یہ حدیث عام ہے اور اپنے عموم کے اعتبار سے امام مالک اور امام شافعی دونوں حضرات کے خلاف حجت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ وہ مردار کی کھال کو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں سمجھتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف کی تائید میں نبی اکرم ﷺ کا وہ فرمان نقل کرتے ہیں جو آپ نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل قبیلہ جبینہ کو لکھا تھا جس کا مضمون یہ تھا لا تنتفعوا من المیتة باہاب ولا عصب کہ مردار کی کھال اور اس کے پٹھے سے فائدہ مت اٹھاؤ، اس فرمان سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مردار کی کھال ناپاک ہے، کیوں کہ اگر وہ پاک ہوتی تو اس سے اشقاق کی ممانعت نہ ہوتی۔

لیکن ہماری طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حکم اہاب کے لیے ہے، اور ہماری گفتگو ادمیم (دباغت دی ہوئی کھال) سے متعلق ہے فلا تعارض بینہما۔

اور اوپر ہماری پیش کردہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتے کی کھال کو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں قرار دیتے اور اسے خنزیر پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح خنزیر کی کھال دباغت کے بعد بھی ناپاک رہتی ہے، اسی طرح کتے کی کھال بھی دباغت کے بعد ناپاک ہی رہے گی۔ مگر ہماری طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قیاس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آپ کا قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ خنزیر نجس العین ہے اور صحیح قول کے مطابق کتا نجس العین نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پہرہ داری اور شکار وغیرہ کے فائدے کی خاطر رکھا اور پالا جاتا ہے، اگر کتا نجس العین ہوتا تو خنزیر ہی کی طرح اس سے بھی ہر طرح کے اشقاق کی ممانعت ہوتی۔



اس کے برخلاف خنزیر کا نجس العین ہونا تو منصوص ہے، قرآن کریم میں ہے قل لا اجد فیما اوحی الیّ محرّمًا علی طاعمٍ یطعمہ الا ان ینکون میتة او دما مسفوحًا او لحم خنزیر فانه رجس، یعنی اے نبی آپ یہ کہہ دیجیے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں کوئی حرام غذا نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے، اِلّا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ اس آیت سے وجہ استدلال یوں ہے کہ فہانہ میں ضمیر ہ کا مرجع خنزیر ہے، کیوں کہ وہی اس سے قریب ہے اور آیت کے آخری جز کا مفہوم یہ ہے کہ خنزیر بالکل ناپاک اور نجس ہے اور جب خنزیر نجس ہے تو کلب جو نجس العین نہیں ہے اس کو خنزیر پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

بہر حال یہ بات طے ہوگئی کہ خنزیر اور انسان کے علاوہ ہر طرح کی کھال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور اگرچہ ایما اہاب دبیغ الخ کا عموم خنزیر اور آدمی کی کھال کی دباغت کے بعد پاک ہونے کا مقتضی ہے، مگر پھر بھی یہ دونوں کھالیں اس عموم سے خارج اور مستثنیٰ رہیں گی، کیوں کہ خنزیر اپنی نجاست اور خباثت کی وجہ سے نجس ہے تو انسان اپنی شرافت اور کرامت کی وجہ سے ادب و احترام کے اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ اس کے کسی بھی جز سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، قرآن کریم نے انسان کی کرامت کو ان الفاظ میں آشکارا کیا ہے ولقد کرمنا بنی آدم الآیة، اس لیے یہ دو چیزیں ایما اہاب کے عموم سے مستثنیٰ ہوں گی، لیکن بقیہ چیزوں میں اس کا عموم باقی اور برقرار ہے گا۔

ایما اہاب دبیغ الخ کے علاوہ (صاحب فتح القدر نے) اور بھی بہت سی حدیث سے دباغت دی ہوئی کھال کے پاک ہونے اور اس سے انتفاع کے جائز ہونے پر استدلال کیا ہے، چنانچہ دارقطنی کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بیان کی ہے کہ قال رسول اللہ ﷺ استمتعوا بجلود المیتة اذا هی دبیغت الخ کہ اگر مردار کی کھال کو دباغت دے دیا گیا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کیا کرو۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا لا باس بمسک المیتة اذا دبیغ یعنی اگر مردار کی کھال کو دباغت دے دیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (فتح القدر ۱۰۱/۱)

ثم ما یمنع الخ صاحب ہدایہ نے یہاں سے دباغت کی تعریف اور اس کا تعارف بیان کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کھال کی بدبو کو دور کر دے اور اسے خراب ہونے اور سڑنے سے روک دے اسی کا نام دباغت ہے، خواہ یہ کام نمک کے ذریعے انجام پائے، یا مٹی کے ذریعے، یا پھر دھوپ کی شدت اور تمازت کے ذریعے۔ کیوں کہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ کھال کی بدبو ختم ہو اور وہ خراب ہونے اور سڑنے لگنے سے محفوظ ہو جائے، لہذا مقصود پر نظر ہوگی اور کسی دوسری چیز کو مشروط نہیں کیا جائے گا۔

ثم ما یطہر الخ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن ذبح میں شرط یہ ہے کہ ایسا شخص جانور کو ذبح کرے جو ذبح کا اہل ہو اور اس کا ذبیحہ حلال بھی ہو، ذبح سے کھال کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح دباغت سے نجس رطوبتیں زائل ہو جاتی ہیں اسی طرح ذبح سے بھی یہ رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور حصول مقصود پر طہارت کا حکم لگا دیا جاتا ہے، لہذا ہم نے بھی یہاں ذبح شرعی سے کھال کی طہارت کا حکم لگا دیا۔

ذبح میں کھال کی طہارت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے سے مذبوہ جانور کا گوشت بھی

پاک ہو جاتا ہے، بل کہ حضرات فقہاء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ خون کے علاوہ دیگر تمام اجزاء پاک ہو جاتے ہیں خواہ وہ ایسا جانور ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، یا ایسا ہو جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، مگر بہر حال اس کا گوشت پاک ہو جائے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر غیر ماکول اللحم جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت جیب میں لے کر نماز پڑھی جائے تو بلا شک و شبہ نماز درست ہوگی۔

وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ ﴿۱﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَجَسٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ، وَلِنَا أَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِمَا وَلِهَذَا لَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحُلُّهُمَا الْمَوْتُ، إِذِ الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاةِ، ﴿۲﴾ وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ ﴿۳﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَجَسٌ، لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلِنَا أَنْ عَدَمَ الْإِنْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ لِكِرَامَتِهِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ.

**ترجمہ:** اور مردار کا بال اور اس کی ہڈی پاک ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ناپاک ہیں، کیوں کہ یہ مردار کے اجزاء میں سے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں زندگی ہی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ان کو کاٹنے سے جانور کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی، لہذا ان میں موت سرایت نہیں کرے گی، اس لیے کہ موت تو زندگی کا اختتام ہے۔

اور انسان کے بال اور اس کی ہڈی یہ دونوں پاک ہیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ناپاک ہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں سے نہ تو کسی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی بیع جائز ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ انتفاع اور بیع کی ممانعت انسان کی کرامت کی وجہ سے ہے، لہذا یہ چیز اس کی نجاست پر دلیل نہیں ہو سکتی۔

## اللِّغَاتُ:

﴿عَظْمٌ﴾ ہڈی۔ ﴿يَحِلُّ﴾ حَلَّ يَحِلُّ، باب نصر؛ اترنا، پڑاؤ کرنا، داخل ہو جانا، حلول کرنا۔

## مردہ جاندار کے بالوں اور ناخنوں وغیرہ کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مردار جانور کے بال اور اس کی ہڈی نیز سینگ، ناخن اور گھر وغیرہ سب پاک ہیں، لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ ان چیزوں کو ناپاک قرار دیتے ہیں اور اس پر دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مردار کے اجزاء میں سے ہیں اور مردار اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک ہوتا ہے، لہذا اس کے بال اور ہڈی وغیرہ کے پاک ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مردار اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی ہو اور بال وغیرہ میں زندگی تو درکنار زندگی کی رتق تک بھی نہیں پائی جاتی، کیوں کہ اگر ان چیزوں میں حیات ہوتی تو یقیناً ان کے کاٹنے سے جانور کو تکلیف ہوتی، جب کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ جانور کے پورے بال کاٹ لیں تو بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں حیات نہیں ہے اور جب ان میں حیات نہیں ہے تو پھر ان کے مرنے یا مردار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب یہ مردار نہیں ہیں تو ناپاک

بھی نہیں ہوں گے۔

اسی سلسلے کا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حسب سابق انسانی بال وغیرہ کو بھی ناپاک کہتے ہیں، اس مسئلے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی جز سے نہ تو انتفاع درست ہے اور نہ ہی کسی جز کی بیع و شراء صحیح ہے، اگر انسانی بال اور ہڈی وغیرہ میں طہارت ہوتی تو پھر ان کی بیع و شراء سے منع نہ کیا جاتا، معلوم ہوا کہ مردار کی طرح انسان کے بھی بال وغیرہ نجس اور ناپاک ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی جز سے انتفاع کی ممانعت یا اس کی بیع و شراء کی حرمت یہ انسان کی نجاست کا سبب نہیں ہے، بل کہ ان چیزوں کی ممانعت انسان کی کرامت اور اس کی شرافت کی وجہ سے ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بار امانت کو انسانوں کے حوالے کر کے انھیں بزرگی و برتری کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں دوسری مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی، اب اگر ہم انسانی اجزاء کی خرید و فروخت یا ان سے انتفاع کی اجازت دیدیں تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کے حق میں توہین و تذلیل ہوگی اور ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان کے بال وغیرہ وصف طہارت سے متصف نہیں ہیں، کیوں کہ اگر ان میں طہارت نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں اپنے موئے مبارک کو حضرات صحابہ میں تقسیم نہ فرماتے جب کہ متعدد روایات میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا حلق کرایا اور بالوں کو حضرات صحابہ میں تقسیم فرمایا جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ انسان کے بال وغیرہ پاک ہیں، کیوں کہ اگر یہ نجس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز انھیں تقسیم نہ فرماتے۔



## فَصْلٌ فِي الْبَيْتْرِ

یہ فصل کنویں کے پانی کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تھوڑے سے پانی میں نجاست گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، مگر کنویں کا مسئلہ اس سے جدا ہے، کیوں کہ بعض صورتوں میں نجاست گرنے کے بعد بھی کنویں کا پورا پانی ناپاک نہیں ہوتا، انھی صورتوں اور شکلوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے اس فصل کو علیحدہ بیان کیا ہے۔

﴿وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبَيْتْرِ نَجَاسَةٌ نَزَحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا﴾ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَمَسَائِلِ الْبَيْتْرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْأَثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ.

**ترجمہ:** اور جب کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، اور حضرات صحابہ اور تابعین کے اجماع سے کنویں میں موجودہ پانی کا نکالنا یہ کنویں کے لیے بھی طہارت ثابت ہوگا۔ اور کنویں کے مسائل اتباع آثار پر مبنی ہیں نہ کہ قیاس پر۔

### اللغات:

﴿نَزَحَ﴾ اسم مصدر، نَزَحَ بِنَزْحٍ، باب فتح؛ پانی کھینچنا۔

ایسے کنویں کے احکام جس میں نجاست گر گئی ہو:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں جو نوح مَوْنُث کا صیغہ آیا ہے اس میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے اور اسے مَوْنُث کیوں لایا گیا ہے؟ اس سلسلے میں صاحب فتح القدر کی رائے یہ ہے کہ نجاست کو اس کا مرجع متعین کرنا زیادہ بہتر ہے۔ صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تانیث اسناد ظاہری کے اعتبار سے ہے یعنی اس سے پہلے نجاسة کا لفظ آیا ہے، اس لیے اسے بھی مَوْنُث کے صیغے سے بیان کر دیا۔

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو اس کا پورا پانی نکالا جائے گا جس سے بعد میں نکلنے والا پانی بھی پاک ہو جائے گا اور خود کنواں بھی پاک ہو جائے گا، یعنی الگ سے کنویں کی دیواریں وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہی حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ کا معمول تھا اور اسی طریقہ تطہیر پر ان حضرات کا اجماع بھی ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کنویں کے مسائل حضرات سلف سے منقول آثار اور ان کے معمولات کی اتباع و پیروی ہی پر مبنی

ہیں، عقل اور قیاس کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے، کیوں کہ ایک طرف تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کنویں کا پانی ناپاک نہ ہو، خواہ اس میں کیسی بھی نجاست گرے، اس لیے کہ ہمہ وقت کنویں میں نیچے سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف قیاس اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ کنواں نجاست کرنے کے بعد کبھی پاک ہی نہ ہو، اس لیے کہ نجاست کرنے کے بعد جس طرح پانی میں ملے گی اسی طرح کنویں کی دیوار وغیرہ سے بھی لگے گی اور پھر چون کہ ہر آن نیچے سے پانی آتا رہتا ہے اس لیے پاک اور ناپاک پانی میں امتیاز کرنا دشوار ہو جائے گا اور قیاس کے ذریعے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہوگا، اسی لیے اس سلسلے میں قیاس سے کوئی آس نہیں لگائی گئی اور سب کچھ حضرات سلف سے منقول معمول پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

﴿فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ أَوْ الْغَنَمِ لَمْ تَفْسِدْ الْمَاءَ إِسْتِحْسَانًا﴾ وَالْقِيَاسُ أَنْ تَفْسِدَهُ لَوْ قَوِيَ النَّجَاسَةُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، وَجَهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ أَبَارَ الْفَلَوَاتِ لَيْسَتْ لَهَا رَوْسٌ حَاجِرَةٌ، وَالْمَوَاشِي تَبْعُرُ حَوْلَهَا فَتَلْقِيهَا الرِّيحُ فِيهَا فَجَعَلَ الْقَلِيلُ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْكَثِيرِ وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاطِرُ إِلَيْهِ فِي الْمَرُوي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَالصَّحِيحُ وَالْمُنْكَسِرُ، وَالرَّوْبُ وَالْخِشْي وَالْبَعْرُ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَشْمَلُ الْكُلَّ، وَفِي شَاةٍ تَبْعُرُ فِي الْمَحَلِّ بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَيْنِ: قَالُوا تَرْمِي الْبَعْرَةَ وَيُشْرَبُ اللَّيْنُ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ، وَلَا يُعْفَى الْقَلِيلُ فِي الْإِنَاءِ عَلَى مَا قِيلَ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَالْبُرِّ فِي حَقِّ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَيْنِ.

**ترجمہ:** پھر اگر کنویں میں اونٹ یا بکری کی ایک دو میٹگنیاں گر جائیں تو استحساناً پانی کو فاسد نہیں کریں گی، جب کہ قیاس یہ ہے کہ پانی کو فاسد کر دیں گی، کیوں کہ تھوڑے پانی میں نجاست گر گئی ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ جنگلوں کے کنوؤں پر (نجاست وغیرہ کرنے سے) روکنے والے آڑ نہیں ہوتے، اور صورت حال یہ رہتی ہے کہ چوپائے کنوؤں کے ارد گرد میٹگنیاں کر دیتے ہیں جنھیں ہوائیں اڑا کر کنویں میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے بر بنائے ضرورت معمولی سی نجاست کو معاف قرار دے دیا گیا۔ اور کثیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ایک قول کے مطابق کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والا خود کثیر سمجھے۔ اور اسی قول پر اعتماد بھی ہے۔

اور تر اور خشک نیز صحیح سالم اور لوٹی ہوئی میٹگنیوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح لید، گوبر اور میٹگنی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت سب کو شامل ہے۔ اور اس مسئلے میں کہ بکری نے دودھ دوہنے کے برتن میں ایک یا دو میٹگنی کر دی، حضرات مشائخ کا فرمان یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے میٹگنی پھینک کر دودھ پی لیا جاوے۔ اور ایک قول کے مطابق برتن میں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے قلیل کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ ایک دو میٹگنی کے حق میں برتن بھی کنویں کی طرح ہے۔

## اللغات:

﴿بَعْرَةٌ﴾ میٹھی۔ ﴿فَلَوَاتٍ﴾ اسم جمع، واحد فلاة؛ بیابان، جنگل، غیر آباد جگہ۔ ﴿حَاجِزَةٌ﴾ آڑ، رکاوٹ۔ ﴿مَوَاشِئُ﴾ اسم جمع، واحد ماشیۃ؛ چوپایہ، چرندہ۔ ﴿تَلْقَى﴾ الفعی یُلْقِی، باب افعال؛ ڈالنا، گرانا۔ ﴿رَوْتٌ﴾ لید، تر گوبر۔ ﴿خُشْیٌ﴾ خشک لید، اُپلے۔ ﴿مَحْلَبٌ﴾ دودھ دوہنے کا برتن۔

## کنویں میں قلیل مقدار میں میٹھنیاں کرنے کی صورت میں پانی پاک رہنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کنویں میں اونٹ یا بکری وغیرہ کی ایک دو میٹھی گر جائے تو اس کنویں کے پانی کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دو میٹھی کرنے سے کنویں کے پانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ پاک رہے گا، جب کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کنویں میں جو پانی رہتا ہے، عام طور پر وہ کم اور قلیل ہوتا ہے اور بہت پہلے آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ ماء قلیل میں اگر نجاست گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں قیاساً تو کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔

استحساناً چون کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے صاحب کتاب استحسان کی دلیل یوں بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر جنگلوں اور صحراؤں میں جو کنویں ہوتے ہیں ان کے کناروں پر کوئی حاجز اور مانع نہیں ہوتا اور پھر مویشی ان کنوؤں کے ارد گرد میٹھنیاں کر ہی دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو یہ ساری گندگیاں کنویں میں سما جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو کنویں ان سے پٹ جاتے ہیں، اور کبھی ہوا دھیمی چلتی ہے، تو معمولی سی گندگی ہی کنویں میں جا پاتی ہے، اس لیے ہم نے قلیل اور کثیر مقدار میں فرق کو ملحوظ رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر کنویں میں ایک یا دو میٹھی (قلیل مقدار) گرے تو چون کہ اس سے بچنا ناممکن ہے، اس لیے بر بنائے ضرورت اس مقدار کو معاف کیا جائے گا اور اس سے کنویں کا پانی خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار میں میٹھنیاں گر جائیں تو اس صورت میں کنویں کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، کیوں کہ کثیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور جب ضرورت نہیں ہے تو اس مقدار میں غنوبھی نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ نے کثیر کے سلسلے میں حضرت امام صاحب سے مروی ایک قول کو ذکر کر کے اسی کو قابل اعتماد بھی بتایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کثیر اس مقدار کو کہتے ہیں جسے خود دیکھنے والا کثیر سمجھے۔ اس قول کے معتمد ہونے کی تائید صاحب بدائع اور قاضی خان وغیرہ نے بھی کی ہے۔ (بنا یہ)

ویسے کثیر کے سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر کنویں میں اتنی میٹھنیاں ہوں جو چوتھائی یا تہائی پانی پر چھا جائیں تو اس مقدار کو کثیر سمجھا جائے گا، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پورے پانی پر محیط ہوں تب کثیر ہے، بعض کا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈول میٹھی کے بغیر نہ نکلے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ مقدار کثیر ہے۔ واللہ اعلم (بنا یہ ۳۹۰، فتح القدیر ۱۰۴۱)

ولا فرق الخ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ متن میں جو بعورۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ اوپر بیان کردہ حکم صرف میٹھی کے ساتھ خاص ہے اور لید یا گوبر اس حکم سے خارج ہیں، بل کہ اس حکم میں لید، گوبر اور میٹھی سب برابر ہیں، اسی طرح تر، خشک اور درست اور ٹوٹی ہوئی ہر طرح کی میٹھی وغیرہ کا یہی حکم ہے، کیوں کہ جنگلوں میں مویشیوں کو لانے اور چرانے

نیز کنوؤں کو پانی پلانے کی ضرورت میں اونٹ، بھینس، گائے بکری اور گھوڑے وغیرہ سب شامل ہیں، لہذا جب ضرورت کے تحت سب داخل ہیں تو حکم میں بھی سب شامل ہوں گے اور سب کا حکم یکساں ہوگا، کہ اتھنا مقدار قلیل معاف ہے اور مقدار کثیر مُفسد ہے۔

وفي شاة تبعه الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دودھ دوہنے کے وقت بکری برتن میں ایک یا دو میٹگی کر دے تو اس کا حکم یہ ہے کہ میٹگی نکال کر پھینک دی جائے اور دودھ پی لیا جائے، اس لیے کہ یہاں ضرورت موجود ہے، لہذا مقدار قلیل معاف ہوگی، یہاں ضرورت اس معنی کر کے ہے کہ بکری عام طور پر دودھ دیتے وقت میٹگی کرتی ہے، اب برتن لے کر دودھ نکالنا ایک ضرورت ہے اور اس پوزیشن پر بکری کی میٹگی سے بچنا ناممکن ہے، اس لیے بر بنائے ضرورت دودھ کو پاک اور صاف قرار دیا گیا ہے، اس کے برخلاف اگر دودھ نکالنے کے علاوہ کسی اور وقت میں بکری کسی برتن میں ایک یا دو میٹگی کر دے، تو یہ مقدار بھی معاف نہیں ہوگی، کیوں کہ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ برتن کو ڈھکنا اور بکری کی دسترس سے دور رکھنا ممکن ہے۔

اس سلسلے میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ منقول ہے کہ ایک یا دو میٹگی کے سلسلے میں برتن کا حکم کنویں کے حکم کی طرح ہے، یعنی جس طرح کنویں میں مقدار قلیل معاف ہے، اسی طرح برتن میں بھی مقدار قلیل معاف ہے اور خالی برتن میں بھی اگر ایک دو میٹگی گر جائے تو برتن ناپاک نہیں ہوگا۔

### جنگل اور آبادی کے کنوؤں میں فرق:

اس موقع پر صاحب عنایہ اور صاحب بنایہ دونوں حضرات نے جنگل اور آبادی کے کنوؤں میں فرق کو بڑے اہتمام سے قلم بند کیا ہے، آپ کے استفادے کی خاطر ان حضرات کی تحریروں کا خلاصہ یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جنگلات کے کنویں عام طور پر کھلے رہتے ہیں اس لیے بر بنائے ضرورت ان میں مقدار قلیل کو عفو قرار دیا گیا ہے، لیکن آبادی اور بستیوں کے کنوؤں سے لوگ پانی پیتے ہیں، اس لیے ان کو ڈھانکنے اور بند کرنے کا اچھا انتظام ہوتا ہے، لہذا آبادی کے کنوؤں کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ ان میں مقدار قلیل بھی معاف نہیں ہے اور ایک یا دو میٹگی کرنے سے بھی ان کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ (بنایہ ۱/۳۹۱، عنایہ ۱۰۴/۱)

﴿فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرٌّ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ﴾ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمۃ اللہ علیہ، لَهُ أَنَّهُ اسْتَحَالَ إِلَى تَنَنِ وَقَسَادٍ فَأَشْبَهَ خُرَّ الدَّجَاجَةِ، وَلَنَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِقْتِنَاءِ الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ مَعَ ① وَرُودِ الْأَمْرِ بِتَطْهِيرِهَا، وَاسْتِحَالَتُهَا لَا إِلَى تَنَنِ رَائِحَةٍ فَأَشْبَهَ الْحَمَامَةَ.

**ترجمہ:** پھر اگر کنویں میں کبوتر یا گوریے کی بیٹ گر جائے تو کنویں کے پانی کو خراب نہیں کرے گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ بیٹ بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہوگی، لہذا یہ مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہوگی۔ ہماری دلیل مسجدوں میں کبوتروں کے رکھنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے جب کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم وارد ہے۔ اور یہ بیٹ بدبو کی طرف منتقل

نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ کیچڑ کے مشابہ ہے۔

## اللغات:

﴿حُرء﴾ بیٹ، پرندوں کا فضلہ۔ ﴿عُصْفُور﴾ چڑیا۔ ﴿اِقْتِنَاء﴾ اسم مصدر، باب افتعال؛ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، چننا۔

## تخریج:

① اخرجه ابوداؤد فی کتاب الصلوٰۃ باب اتخاذ المساجد فی الدور حدیث رقم ۴۵۵.

ترمذی فی کتاب الجمعة باب ما ذکر فی تطیب المساجد حدیث ۵۹۴.

## کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کا حکم:

عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کبوتر یا گوریے کی بیٹ کنویں میں گر جائے تو ہمارے یہاں کنویں کا پانی خراب اور ناپاک نہیں ہوگا، جب کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں پانی کو نجس اور خراب قرار دیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں یہ بیٹ پانی میں گر کر بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہوگی اور مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہوگی، اور مرغی کی بیٹ بالاتفاق نجس ہے، لہذا یہ بیٹ بھی نجس اور ناپاک ہوگی اور کنویں کے پانی کو خراب اور برباد کر دے گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک مساجد میں کبوتروں کے رکھنے اور پالنے پر علماء سلف و خلف کا اجماع چلا آ رہا ہے اور کسی بھی عہد میں اس پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، جب کہ سختی کے ساتھ مساجد کی تطہیف اور تطہیر کا حکم وارد ہے، اس صورت حال میں مساجد کے اندر کبوتروں کا رہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی، کیوں کہ اگر یہ نجس ہوتی تو پھر مسجد جیسی مقدس جگہ میں کبوتروں کو آزادانہ طور پر رہنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ معلوم ہوا کہ کبوتر کی بیٹ نجس نہیں ہوتی اور جب یہ نجس نہیں ہوتی تو اس کے پانی میں گرنے سے پانی خراب اور ناپاک بھی نہیں ہوگا۔

واستحالتہ الخ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات والا بیٹ وغیرہ کے ناپاک ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں (۱) بدبو (۲) فساد۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کبوتر کی بیٹ میں بدبو نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ نجاست کے دونوں جزوں میں سے ایک جز پہلے ہی خارج اور منتفی ہو گیا، اور جب ایک چیز منتفی ہوگی تو گویا پورا سبب منتفی ہو گیا اور جب کبوتر کی بیٹ سے سبب نجاست ہی منتفی ہو گیا تو اس کے ناپاک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

﴿فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نَزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَأَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمۃ اللہ علیہ لَا يَنْزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا﴾ وَأَصْلُهُ أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤَكَّلُ لِحُمِّ طَاهِرٍ عِنْدَهُ، نَجَسٌ عِنْدَهُمَا، لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ الْعُرَبِيِّينَ ① بِشُرْبِ آبِوَالِ الْإِبِلِ وَالْبَنَاهَا، وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ② اسْتَنْزَهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى



تَنْزِيٍّ وَفَسَادٍ فَصَارَ كَبُولٍ مَّا لَا يُؤْكَلُ لِحَمِّهِ، وَتَأْوِيلُ مَا رَوَى أَنَّهُ عُرِفَ شِفَاؤُهُمْ وَحَيًّا، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِي، لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ فَلَا يُعْرَضُ عَنِ الحُرْمَةِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَحِلُّ لِلتَّدَاوِي لِلْقِصَّةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحِلُّ لِلتَّدَاوِي وَغَيْرِهِ لَطَهَارَتِهِ عِنْدَهُ.

**ترجمہ:** پھر اگر کنویں میں کوئی بکری پیشاب کر دے تو حضرات شیخین کے یہاں کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی نہیں نکالا جائے گا، الا یہ کہ پیشاب پانی پر غالب آجائے اور پانی مطہر ہونے سے نکل جائے۔ اور اس اختلاف کی جڑ یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب امام محمد رضی اللہ عنہ کے یہاں پاک ہے اور حضرات شیخین کے یہاں ناپاک ہے۔ امام محمد رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عربینہ کو اونٹوں کے پیشاب اور ان کا دودھ پینے کا حکم دیا تھا۔

حضرات شیخین کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ پیشاب سے بچے رہو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، بغیر کسی تفصیل کے، اور اس لیے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بدبو اور پیشاب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لہذا یہ غیر ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طرح ہو گیا۔

اور امام محمد رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کی تاویل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اہل عربینہ کی شفاء اسی میں معلوم ہوئی تھی۔ پھر حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ کے نزدیک ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بطور دوا پینا بھی حلال نہیں ہے، کیوں کہ (اب) اس پیشاب میں شفاء کا یقین نہیں ہے، لہذا اس کی حرمت سے اعراض نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے یہاں اہل عربینہ کے قصے کی بنیاد پر بطور دوا پینا حلال ہے۔ اور امام محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک دوا اور غیر دوا دونوں طرح پینا حلال ہے، اس لیے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ان کے یہاں پاک ہے۔

## اللغات:

﴿اِسْتَنْزَهُ هُوَ﴾ استنزہہ یستنزہہ، باب استفعال؛ پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، بچنا۔ ﴿تَدَاوَى﴾ اسم مصدر، باب تفاعل؛ دوا بنانا، علاج کے لیے استعمال کرنا۔

## تخریج:

- ① اخرجہ الاثمة الستة بخاری كتاب الوضوء باب ابوال ابل والذواب حدیث رقم ۲۳۳. و مسلم كتاب القسامه باب حكم المحاربين والمرتدين حدیث رقم ۴۳۵۳.
- ② اخرجہ دارقطنی فی كتاب الطهارة باب نجاسة البول والامر با التزه منه حدیث رقم ۴۵۳.

## ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم جانوروں کے فضلات کا حکم:

عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ درحقیقت حضرات ائمہ کے اصول پر متفرع ہے، اس لیے حل عبارت سے پہلے اصول کا جاننا زیادہ بہتر ہے۔ حضرات شیخین کا اصول یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے اور جس چیز میں گرے گا

اسے ناپاک کر دے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اصل یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے اور کسی چیز میں اس کے گرنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان اصول کے پیش نظر عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حل اور حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں بکری پیشاب کر دے تو حضرات شیخین کے یہاں یہ پیشاب پانی کو ناپاک کر دے گا اور اس کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، خواہ کم ہو زیادہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پیشاب اتنی مقدار میں کیا گیا ہے کہ پانی پر غالب آ گیا ہے، تب تو کنویں کا پانی ناپاک ہوگا اور اسے نکالا جائے گا، لیکن اگر معمولی پیشاب ہو تو اس صورت میں نہ تو پانی ناپاک ہوگا اور نہ ہی اسے نکالا جائے گا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اہل عرینہ کا وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آب و ہوا اس نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ اہل عرینہ مدینہ منورہ میں آ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور یہیں رہنے لگے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، جس کے نتیجے میں ان کے پیٹ پھول گئے، اور ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ صدقے کے اونٹ لے کر کچھ دن کے لیے مدینہ سے باہر چلے جاؤ اور ان کے پیشاب اور دودھ کو پیتے رہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور صحت مند ہو گئے، مگر پھر انہیں بد معاشی سوجھی اور یہ مرتد ہو گئے اور چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو بھی ہنکا لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی اور انہیں گرفتار کرا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کروا کر ڈلوادیا۔

بہر حال اس واقعے میں چونکہ ان کے لیے پیشاب پینے کی اجازت ثابت ہے، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرینہ کو ہرگز اس کے استعمال کا حکم نہ دیتے، اس لیے کہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو حرام ہوتا اور حرام چیزوں کے متعلق تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كَمِّ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ** یعنی جو چیزیں مسلمانوں پر حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں اہل اسلام کے لیے شفاء بھی نہیں رکھی ہے، معلوم یہ ہوا کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔

حضرات شیخین کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، یعنی **اسْتَنْزَهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ**، اور اس حدیث سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم میں امتیاز اور کسی تفصیل کے بغیر مطلق صیغہ امر کے ساتھ یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ پیشاب سے احتیاط کرو۔ جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ ہر طرح کا پیشاب ناپاک ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سعد بن معاذ کا ہے کہ جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو زمین نے انہیں بہت زور سے دبوچا، اس پر حاضرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، اس موقع پر صاحب عنایہ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ حضرت سعد کا عدم احتیاط اپنے نہیں بلکہ اونٹوں کے پیشاب سے تھا (۱۰۶/۱) اس واقعے سے بھی ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہو رہا ہے۔

حضرات شیخین کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بد بو اور فساد کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس سے پہلے یہ بات آچکی ہے کہ بد بو اور فساد پیشاب وغیرہ میں نجاست کے سبب ہیں اور چونکہ ان جانوروں کے پیشاب میں یہ سبب موجود

ہے، لہذا ان کا پیشاب بھی ناپاک ہوگا جس طرح کہ غیر ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔

و تاویل ماروی الخ یہاں سے صاحب کتاب نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث کا جواب پیش کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اصحاب عرینہ کے واقعے کو دلیل بنا کر ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طہارت کا قائل ہونا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی تھی کہ اہل عرینہ کی شفاء اونٹوں کے پیشاب ہی میں رکھی گئی ہے، آپ انھیں اس کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمادیں، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہے، اور یقینی طور سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ پیشاب میں شفاء ہے، اس لیے اب اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی، اور جب استعمال کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ ناپاک ہوگا۔

صاحب بنا یہ نے اس حدیث کے دو جواب اور بھی بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اس واقعے سے متعلق حضرت قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے جس میں صرف دودھ پینے کا ذکر ہے اور پیشاب کا تذکرہ نہیں ہے، اس حدیث کے پیش نظر تو بہر حال اس واقعے میں پیشاب کا ذکر ہونے اور نہ ہونے کا احتمال پیدا ہو گیا اور احتمال کے متعلق یہ حکم مذکور ہے کہ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

دوسرا جواب جو علامہ اکمل کے حوالے سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرینہ کے قصے سے متعلق حکم منسوخ ہے، ابتدائے اسلام میں اس کی گنجائش تھی، مگر اب نہیں ہے اور جب یہ حکم منسوخ ہے تو اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔

ثم عند أبي حنيفة اس عبارت کی آخری کڑی یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بر بنائے دوا پینا بھی حلال نہیں ہے، کیوں کہ اب اس میں شفاء کا یقین نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اہل عرینہ کو بطور دوا پیشاب پینے کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے ہم دواء کے طور پر اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو مطلق اجازت ہے، جسے پینا ہے وہ جی بھر کے پیئے، خواہ علاجاً اور دواءً پیئے یا تفکھاً اور تلذذاً پیئے، کیوں کہ ان کے یہاں ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے لہذا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

﴿وَأِنْ مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ سَوْدَانِيَّةٌ أَوْ صَعْوَةٌ أَوْ سَامٌ أَوْ بَرَصٌ نَزَحَ مِنْهَا عَشْرُونَ دَلْوًا إِلَى ثَلَاثِينَ بَعَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا﴾ يَعْنِي بَعْدَ إِخْرَاجِ الْفَارَةِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبَيْرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهِ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُونَ دَلْوًا، وَالْعُصْفُورَةُ وَنَحْوَهَا تَعَادِلُ الْفَارَةَ فِي الْجِنَّةِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا، وَالْعَشْرُونَ بِطَرِيقِ الْإِنْجَابِ وَالثَّلَاثُونَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ .

**ترجمہ:** اور اگر کنویں میں چوہا ماریا گورتیا مری، یا بھجگا یا مولا مرا، یا کوئی بڑی چھپکلی مری تو کنویں سے بیس ڈول سے لے کر تیس ڈول تک پانی نکالا جائے گا، ڈول کی بڑائی اور چھوٹائی کے اعتبار سے، یعنی چوہا وغیرہ کے نکالنے کے بعد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے جو انھوں نے اس چوہے کے متعلق فرمایا جو کنویں میں مرا اور اسے فوراً نکال لیا گیا کہ کنویں میں سے بیس ڈول

تک پانی نکالا جائے، اور گوریا وغیرہ جتنے میں چوہے کے برابر ہیں اس لیے انھوں نے چوہے کا حکم لے لیا۔ اور میں ڈول نکالنا بطور ایجاب ہے جب کہ میں ڈول بطریق استحباب ہیں۔

## اللغات:

﴿سَوْدَانِيَّةٌ﴾ ایک چھوٹی چیز، کلچری۔ ﴿صَعْوَةٌ﴾ بیا، مولا، ایک چھوٹا پرندہ۔ ﴿سَامٌ أَبْرَصٌ﴾ چھپکلی۔ ﴿جُنَّةٌ﴾ جسم، مردہ جسم، لاش۔

## بہت چھوٹے جانداروں کے کنویں میں گرنے کی صورت میں پاک کرنے کے طریقے کا بیان:

یہاں سے ان مسائل کا بیان ہے جن میں جانور کنویں کے اندر گرتا ہے، کبھی مر جاتا ہے اور کبھی زندہ نکال لیا جاتا ہے، پھر جانور کے جسم و جتنے کے اعتبار سے ہر صورت کا حکم الگ ہے، صاحب کتاب دھیرے دھیرے سب کو بیان کر رہے ہیں۔ اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں کوئی چوہا یا اس کے ہم مثل گوریا وغیرہ میں سے کوئی دوسرا جانور گر کر مر گیا، اور اسے فوراً ہی نکال لیا گیا تو اس کنویں کا حکم یہ ہے کہ گرے ہوئے جانور کو نکالنے کے بعد کنویں کی طہارت اور نظافت کے لیے اس میں سے بیس ڈول پانی نکالنا واجب ہے اور بیس ڈول تک پانی نکالنا مستحب ہے۔

اور اس حکم کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتاب میں مذکور ہے جس میں صاف یہ صراحت ہے کہ ایسی صورت حال میں بیس ڈول پانی نکالا جائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیس ڈول پانی نکالنا تو لازم اور ضروری ہے، ویسے مزید نظافت کے لیے اگر بیس ڈول پانی نکال دیا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں بیس اور بعض میں چالیس ڈول تک نکالنے کا حکم وارد ہے، لہذا بطور تطبیق ہم نے بیس ڈول کو واجب اور بیس ڈول کو مستحب قرار دے دیا۔ والعصفورة ونحوها الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ گوریا اور بھجگا وغیرہ جسم و جتنے میں چوہے کے ہم مثل ہیں اس لیے حکم شرع میں بھی یہ چوہے ہی کی طرح ہوں گے اور جو حکم چوہے کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

## فائدہ:

اوپر جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ ایک چوہے سے لے کر چار تک کا ہے، لیکن اگر پانچ یا بیس یا سات یا آٹھ یا نو چوہے گر کر مرجائیں تو اس صورت میں (۹) تک چالیس ڈول نکالنا واجب ہے، اور اگر دس یا اس سے زائد چوہے گر کر مرجائیں تو اس صورت میں پورا پانی نکالنا ضروری ہے۔ (عنا یہ ار ۱۰۷)

﴿فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوَهَا كَالدُّجَاجَةِ وَالسِّنُورِ نَزَحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ دَلْوًا إِلَى سِتِّينَ﴾ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَا رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الدُّجَاجَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبَيْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا، هَذَا لِبَيَانِ الْإِجَابِ وَالْخَمْسُونَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بَيْرٍ دَلْوَاهَا الَّذِي يُسْتَقَى بِهِ مِنْهَا، وَقِيلَ دَلْوٌ يَسَعُ فِيهِ صَاعٌ، وَلَوْ نَزَحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً

مَقْدَارُ عَشْرِينَ ذَلْوًا جَاَزًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ .

**ترجمہ:** پھر اگر کنویں میں کبوتر مرا، یا اس جیسا کوئی دوسرا جانور جیسے مرغی اور تلی تو کنویں میں سے چالیس سے لے کر ساٹھ ڈول تک پانی نکالا جائے۔ اور جامع صغیر میں چالیس یا پچاس ڈول ہے اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے مرغی کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر مرغی کنویں میں مر جائے تو اس سے چالیس ڈول پانی نکالا جائے، یہ (چالیس) مقدار بیان ایجاب کے لیے ہے اور پچاس (کی مقدار) بطریق استحباب ہے۔

پھر ہر کنویں کا وہی ڈول معتبر ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایسا ڈول معتبر ہے جس میں ایک صاع سماتا ہو۔ اور اگر کنویں میں سے بڑے ڈول سے ایک ہی مرتبہ تیس ڈول کے برابر پانی نکال دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ مقصود حاصل ہو رہا ہے۔

### اللغات:

﴿سُنُورٍ﴾ تلی۔ ﴿ذَلْوٌ﴾ ڈول۔ ﴿صَاعٌ﴾ ایک پیانہ جو 3.184272 کلوگرام کا ہوتا ہے۔

### درمیانے درجے کے جانوروں کے کنویں میں گرنے کی صورت میں پاک کرنے کے طریقے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کنویں میں کبوتر گر کر مر جائے یا کبوتر کے ہم مثل کوئی دوسری چیز مثلاً مرغی یا تلی وغیرہ گر کر مر جائیں تو اس صورت میں کنویں کی تطہیر کے لیے چالیس ڈول سے لے کر ساٹھ ڈول تک پانی نکالنا واجب ہے، اور ساٹھ ڈول نکالنا مستحب ہے، لیکن جامع صغیر میں یہ مذکور ہے کہ چالیس ڈول نکالنا واجب ہے اور پچاس ڈول نکالنا مستحب ہے، صاحب ہدایہ نے اسے زیادہ ظاہر قرار دیا ہے اور اس پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے فرمان سے استدلال کیا ہے جس میں انھوں نے مرغی کے متعلق چالیس ڈول نکالنے کی صراحت فرمائی ہے۔ لہذا چالیس ڈول نکالنا واجب ہوگا اور پچاس ڈول نکالنا مستحب ہوگا۔ اور اس قول کو اظہر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جامع صغیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیفات میں سے ہے، لہذا اس میں بیان کردہ قول ان کا رجوع کردہ قول ہوگا۔ (عمانیہ)

ثم المعتبر الخ یہاں سے صاحب کتاب ڈول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی کسی خاص ناپ اور مخصوص پیانے کے ڈول کی ضرورت نہیں ہے، بل کہ ہر کنویں میں وہی ڈول معتبر ہوگا جس کے ذریعے اس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ ڈول اس مقدار کا ہو جس میں ایک صاع پانی سما جائے، یہ قول انتہائی ضعیف ہے جس کی واضح علامت یہی ہے کہ اسے صیغہ ترمیض کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ولو نزع منها الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ کنویں کی طہارت اور اس کی نظافت کے سلسلے میں ڈول کی تعداد کا بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بل کہ اصل تو یہ ہے کہ پانی نکالنے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے اس مقدار میں پانی نکال دیا جائے، خواہ وہ ڈول کے ذریعے ہو یا ڈرام کے ذریعے، اس لیے کہ پانی نکالنا ہی مقصود ہے اور یہ مقصود جب بھی حاصل ہوگا کنواں پاک صاف ہو جائے گا۔

﴿وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ اِدْمِيٌّ أَوْ كَلْبٌ نَزَحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا﴾ مِنَ الْمَاءِ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَفْتَيَا بِنَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ حِينَ مَاتَ زَنْجِيٌّ فِي بِنْرِ زَمْزَمَ .

**ترجمہ:** اور اگر کنویں میں بکری یا آدمی یا کتا مرے تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، اس لیے کہ جب چاہ زمزم میں ایک حبشی مر گیا تھا تو حضرت ابن عباس اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے پورے پانی کو نکالنے کا فتویٰ دیا تھا۔

## اللُّغَاتُ:

﴿زَنْجِيٌّ﴾ زنگی، حبشی، سیاہ فام۔

## بڑے جانوروں کے کنویں میں گرنے کی صورت کا حکم:

اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں یہ ان کی آخری کڑی ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں بھاری بھرم جانور مثلاً بکری یا آدمی یا کتا گر کر مر جائے تو اس صورت میں کنویں کا پورا پانی نکالنا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ جب چاہ زمزم میں ایک حبشی گر گیا تھا تو اس وقت کے دو بیرونی حضرات ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے پورے کنویں کے پانی کو نکالنے کا حکم دیا تھا، ظاہر ہے یہ حکم صرف بزرگم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ طہارت اور نظافت کے حوالے سے ہر کنویں کا یہی حکم ہوگا۔

﴿فَإِنْ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ يَنْزَحُ جَمِيعُ مَا فِيهَا، صَغُرَ الْحَيَوَانُ﴾ أَوْ كَبُرَ، لِإِنْشَارِ الْبَلَّةِ فِي أَجْزَاءِ الْمَاءِ .

**ترجمہ:** پھر اگر کنویں میں حیوان پھول گیا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس صورت میں بھی کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، خواہ حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے کہ اس کی تری تمام اجزاء میں پھیل گئی ہے۔

## اللُّغَاتُ:

﴿انْتَفَخَ﴾ باب افتعال؛ پھولنا، ہوا بھر جانا۔ ﴿تَفَسَّخَ﴾ باب تفعّل؛ پھٹ جانا۔ ﴿بَلَّةٌ﴾ تری، طراوت۔

## جاندار کے پانی کے اندر ہی پھول یا پھٹ جانے کی صورت کا حکم:

ابھی تک کے مسائل تو صرف مرنے سے متعلق تھے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جانور کنویں میں گر کر مر اور پھول گیا یا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس صورت حال میں کنویں کا پورا پانی نکالنا ضروری ہوگا، خواہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا، بہر حال پانی پورا نکالا جائے گا، اس لیے کہ جانور کے پھولنے یا پھٹنے کی صورت میں اس کی تمام ناپاک تری پورے پانی میں پھیل جائے گی جس کی وجہ سے پانی خراب بھی ہوگا اور بدبودار بھی ہوگا، اس لیے اس صورت حال میں پورا پانی نکالنے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

﴿وَإِنْ كَانَتْ الْبَيْرُ مَعِينَةً بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُ نَزْحَهَا أُخْرِجُوا مِقْدَارَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ﴾ وَطَرِيقٌ مَعْرِفَتِهِ أَنْ تَحْفَرَ حُفْرَ مِثْلَ مَوْضِعِ الْمَاءِ مِنَ الْبَيْرِ وَيُصَبُّ فِيهَا مَا يَنْزُحُ مِنْهَا إِلَى أَنْ تَمْتَلِي، أَوْ تُرْسَلُ فِيهَا قَصْبَةٌ وَتُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ عَلَامَةً ثُمَّ يَنْزُحُ مِنْهَا مِثْلًا عَشْرَ دَلَّاءٍ، ثُمَّ تَعَادُ الْقَصْبَةُ فَتَنْتَظَرُ كَمَا انْتَقَصَ، فَيَنْزُحُ لِكُلِّ قَدْرٍ مِنْهَا عَشْرَ دَلَّاءٍ، وَهَذَا مِنْ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ نَزَحَ مَائِنَا دَلْوٍ إِلَى ثَلَاثِ مَائِنَةٍ، فَكَانَتْ بَنَى قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي مِثْلِهِ يَنْزُحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ، وَلَمْ يَقْدِرِ الْعَلْبَةُ بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ دَابُّهُ، وَقِيلَ يُؤْخَذُ فِي هَذَا بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ لَهَمَّا بَصَارَةٌ فِي أَمْرِ الْمَاءِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْفَقْهِ.

**ترجمہ:** اور اگر کنواں چشمہ دار ہو بائیں معنی کہ اس کا پورا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو اس میں موجود پانی کی مقدار کو نکال دو۔ اور اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ کنویں میں جہاں تک پانی ہو اسی جیسا ایک گڈھا کھودا جائے اور جو پانی کنویں سے نکالا جائے اسے اسی گڈھے میں ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ گڈھا بھر جائے۔ یا پھر کنویں میں ایک بانس ڈالا جائے اور پانی پہنچنے کی جگہ پر ایک علامت بنا دی جائے پھر کنویں میں سے مثلاً دس ڈول پانی نکال کر دوبارہ بانس کو کنویں میں ڈال کر یہ دیکھا جائے کہ کتنا پانی کم ہوا، اور پھر ہر مقدار کے لیے کنویں میں سے دس ڈول پانی نکالا جائے۔ یہ دونوں طریقے حضرت امام ابو یوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے منقول ہیں۔ اور امام محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ دو سو ڈول سے لے کر تین سو ڈول تک پانی نکالا جائے، ایسا لگتا ہے کہ امام محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے اپنے شہر میں جو کچھ دیکھا اسی پر اپنا قول فٹ کر دیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے جامع صغیر میں اس جیسے مسئلے کے متعلق یہ منقول ہے کہ اس مقدار میں پانی نکالا جائے کہ وہ لوگوں پر غالب آجائے۔ اور امام صاحب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے کسی چیز سے غلبہ کی کوئی مقدار نہیں متعین کی جیسا کہ یہ ان کی عادت (شریفہ) ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو ایسے آدمیوں کے قول پر عمل کیا جائے جنہیں پانی کے معاملے میں تجربہ ہو۔ اور یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہے۔

## اللغات:

﴿مَعِينَةً﴾ ایسا کنواں جس کی تہہ میں چشمے بہتا ہو، جاری پانی والا کنواں۔ ﴿تَحْفِرُ﴾ حَفَرَ يَحْفِرُ، باب ضرب؛ کھودنا۔ ﴿تَمْتَلِي﴾ امتلی یمتلی، باب افتعال؛ بھرنا۔ ﴿قَصْبَةٌ﴾ بانس۔ ﴿دَابُّ﴾ عاد، طرز، ڈھنگ۔

## چشمے دار کنویں کا حکم:

اس عبارت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی کنواں ایسا ہو جو چشمے دار ہو اور اس کا پانی بند ہی نہ ہوتا ہو اور اس میں کوئی بڑا جانور گر جائے یا چھوٹا جانور مر کر پھول پھٹ جائے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں کنویں کا پورا پانی نکالنا واجب اور ضروری ہے، مگر چونکہ یہ کنواں چشمے دار ہے اور اس کا پورا پانی نکالنا ناممکن ہے تو آخر اس کے پاک کرنے کی کیا صورت ہوگی، اس سلسلے میں صاحب کتاب نے کل پانچ صورتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے دو حضرت امام ابو یوسف سے منقول ہیں، ایک ایک حضرت امام محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور حضرت امام ابو حنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے اور ایک ابونصر بن محمد بن سلام سے منقول ہے۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی گہرائی وغیرہ کی پیمائش کر کے کنویں سے متصل اسی جیسا ایک گڈھا کھودا جائے اور کنویں کا پانی نکال کر اس میں ڈالا جائے، جب وہ گڈھا بھر جائے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ کنویں کا پورا پانی نکل گیا۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ کنویں میں ایک بانس ڈالا جائے جب وہ کنویں کی تک پہنچ جائے تو اسے نکال کر جہاں تک پانی پہنچا ہو اس جگہ پر نشان لگا دیا جائے، پھر کنویں سے دس ڈول پانی نکالا جائے اور دوبارہ اس بانس کو کنویں میں ڈال کر دیکھا جائے کہ کتنا پانی کم ہوا، اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بانس ڈال کر آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ کنویں میں دس فٹ پانی ہے اور دس ڈول نکالنے سے یہ معلوم ہوا کہ مثلاً اٹھ فٹ پانی کم ہوا ہے تو اب سمجھ لیجیے کہ مزید نو فٹ نکالنے کے لیے نوے (۹۰) ڈول اور نکالنے ہوں گے۔ (عنایہ ۱۰۹۱/۱۰۹۱ بنا یہ ۲۱۸/۱) یہ دونوں صورتیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔

(۳) حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو طریقہ مروی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس طرح کی صورت حال میں دوسو سے لے کر تین سو ڈول تک پانی نکالا جائے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دراصل ان کے اپنے شہر بغداد میں کیے ہوئے مشاہدے پر مبنی ہے، اس لیے کہ بغداد کے کنوؤں کا پانی عام طور پر اسی مقدار میں ہوا کرتا تھا۔

(۴) چوتھا طریقہ حضرت امام عالی مقام سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر اتنا پانی نکالا جائے کہ نکالنے والے نکالتے نکالتے تھک جائیں، جب وہ تھک جائیں تو یہ سمجھا جائے کہ کنویں کا پورا پانی خارج ہو گیا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت یہاں بھی پانی کے غالب ہونے اور لوگوں کو تھکانے کی کوئی مقدار نہیں متعین کی ہے، کیوں کہ اس طرح کے معاملات میں وہ حکم کا مدار مہتملی بہ پر ہی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔

(۵) اخراج ماء کی پانچویں صورت جو ابو نصر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی پوزیشن میں پانی کے امور اور معاملات کا تجربہ رکھنے والے دو عادل آدمیوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا جائے اور پانی نکالنے کی جو مقدار وہ تجویز کریں اسی پر عمل کیا جائے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہے، کیوں کہ شریعت میں اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے، چنانچہ شکار کی قیمت کا اندازہ لگانے کے متعلق تو خود قرآن کریم میں یہ صراحت ہے کہ فجزاء مثل ما قتل من النعم بحکم بہ ذوا عدل منکم، اسی طرح شہادت کے متعلق یہ وضاحت ہے وأشهدوا ذوی عدل منکم (بنایہ ۳۱۹/۱ عنایہ ۱۱۰۱) ان سے بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کے حالات اور معاملات میں ماہر اور تجربہ کار لوگوں کے مشورے اور ان کی رائے پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

وَأِنْ وَجَدُوا فِي الْبَيْرِ فَارَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ يَنْتَفِخْ أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّأُوا مِنْهَا وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَائُهَا، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ أَعَادُوا صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيْلِيَّهَا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ، وَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ حَتَّى يَتَحَقَّقُوا أَنَّهَا مَتَى وَقَعَتْ، لِأَنَّ



الْبَقِيْنَ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ، وَصَارَ كَمَنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ، وَلَا يَبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللهُ أَنْ لِمَوْتٍ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ فَيَحَالُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ الْإِنْتِفَاحَ وَالتَّفْسُخَ دَلِيلُ التَّقَادِمِ فَيَقْدَرُ بِالثَّلَاثِ، وَعَدَمُ الْإِنْتِفَاحِ وَالتَّفْسُخِ دَلِيلُ قُرْبِ الْعَهْدِ فَقَدَّرْنَا بِيَوْمٍ وَكَلِيلَةً، لِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ سَاعَاتٌ لَا يُمَكِّنُ ضَبْطَهَا، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النِّجَاسَةِ فَقَدْ قَالَ الْمُعَلِّيُّ هِيَ عَلَى الْخِلَافِ فَيَقْدَرُ بِالثَّلَاثِ فِي الْبَالِي، وَبِیَوْمٍ وَكَلِيلَةً فِي الطَّرِي، وَلَوْ سَلِمَ فَالثَّوْبُ بِمَرَأَى عَيْنِهِ، وَالْبِيْرُ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهِ فَيَقْتَرِفَانِ .

**ترجمہ:** اور اگر لوگوں نے کنویں میں چوہا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا (مرا ہوا) جانور پایا اور یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جانور کب گرا ہے تو یہ لوگ اپنی ایک دن رات کی نمازوں کا اعادہ کریں اس صورت میں جب کہ اس کنویں کے پانی سے انھوں نے وضو کیا ہو اور ہر اس چیز کو دھولیں جسے اس کنویں کا پانی لگا ہو۔ اور اگر وہ جانور پھول گیا ہو یا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تو یہ لوگ تین دن اور تین راتوں کی نمازوں کا اعادہ کریں، اور یہ حکم حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ جانور کے گرنے کی تحقیق نہ کر لیں ان پر کسی بھی چیز کا اعادہ ضروری نہیں ہے، کیوں کہ شک کی وجہ سے یقین نہیں زائل ہوا کرتا۔ اور یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے اپنے کپڑے میں نجاست دیکھی لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ نجاست کب کپڑے میں لگی۔

حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ موت کا ایک ظاہری سبب ہے اور وہ پانی میں گرنا ہے، لہذا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، لیکن جانور کا پھولنا یا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا یہ پرانا ہونے کی دلیل ہے، اس لیے تین دن کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اور نہ پھولنا اور نہ پھٹنا قرب عہد کی دلیل ہے، اس لیے ہم نے ایک دن رات سے اس کا اندازہ لگایا ہے، کیوں کہ اس مقدار سے کم (کا زمانہ) ایسی ساعتیں ہیں جن کا ضبط کرنا ممکن نہیں ہے۔

رہا نجاست کا مسئلہ تو معلیٰ نے کہا کہ یہ بھی اختلافی ہے، اس لیے پرانے میں تین دن کا اندازہ لگایا جائے گا اور نئے میں ایک دن ایک رات کا۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے (کہ اس میں اختلاف نہیں ہے) تو کپڑا انسان کی نگاہ میں ہے جب کہ کنواں اس کی نظر سے غائب ہے، لہذا دونوں صورتیں جدا ہو جائیں گی۔

## اللغات:

﴿قَارَةٌ﴾ چوہا۔ ﴿تَقَادِمٌ﴾ اسم مصدر، باب تفاعل؛ پرانا ہونا۔ ﴿بَالِي﴾ باسی، پرانا۔ ﴿طَرِي﴾ تازہ، نیا۔

**کنویں میں سے جانور ملنے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہونے کی صورت کا حکم:**

عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ان مقامات کے لیے جہاں آج بھی کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے نہایت اہم ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر لوگوں کو کنویں میں چوہا یا اس جیسا کوئی دوسرا مرا ہوا جانور دکھائی دیا اور یقینی طور سے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جانور کب گرا ہے، تو لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟

اس سلسلے میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، پھر امام صاحب کے یہاں اس میں تفصیل بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کنویں میں مراپایا جانے والا جانور صرف مرا ہی ہے یا مر کر پھول اور پھٹ بھی گیا ہے، اگر وہ جانور صرف مرا پایا گیا اور پھولا پھنسا نہیں تو اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کنویں کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کریں اور انھیں دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر وہ جانور مرنے کے ساتھ پھول گیا ہو یا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہو تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ مذکورہ کنویں کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے والے لوگ تین دن اور تین راتوں کی نمازوں کا اعادہ کریں۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ اس جانور کے گرنے کا صحیح وقت نہ معلوم کر لیں اس وقت تک ان پر کسی بھی چیز کا اعادہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جانور کے گرنے سے پہلے کنویں کا پانی بالیقین پاک تھا، لیکن جب اس میں مردہ جانور پایا گیا تو گذشتہ اوقات میں اس کنویں کے پاک ہونے میں شک واقع ہو گیا اور یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ شاید کنویں کا پانی زمانہ ماضی میں ناپاک تھا، اور پھر جب اس کے گرنے کا صحیح وقت نہیں معلوم ہے تو اس سے یہ شک مزید قوی ہو گیا، کیوں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جانور ابھی ابھی گرا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ بہت پہلے گرا ہو، بہر حال جب زمانہ ماضی میں کنویں کے پانی کا پاک ہونا متیقن تھا اور اب اس کی طہارت میں شک ہو گیا ہے تو اس شک کی وجہ سے اس کی سابقہ طہارت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ فقہ کا یہ مشہور قاعدہ ہے کہ ”الیقین لایزول بالشک“ اور یہ صورت بعینہ اس صورت سے ہم آہنگ ہے جس میں کسی نے اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ نجاست کب لگی تھی، تو جب تک اسے یقین سے نجاست کے لگنے کا علم نہ ہو اس وقت تک اس پر کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی علم یقینی سے پہلے کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔

ولأبی حنیفۃ الخ حضرت امام عالی مقام کی دلیل یہ ہے کہ یہاں جانور کی موت کا ایک ظاہری سبب موجود ہے اور وہ اس کا کنویں میں گرنا ہے اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مستب مخفی ہو تو سبب ظاہری پر حکم لگا دیا جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں چون کہ جانور کی موت کا اصلی محرک اور اصلی سبب مخفی ہے، اس لیے اس کی موت کو سبب ظاہری یعنی کنویں میں گرنے کی طرف منسوب کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ جانور کنویں میں ہی گر کر مرا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ مرا ہوا جانور پھولا اور پھنسا ہے یا نہیں؟ اگر جانور پھولا اور پھنسا نہ ہو تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ یہ جانور جلدی گرا ہے (کیوں کہ اگر اس کا وقوع پرانا ہو جاتا تو وہ پھول جاتا اور پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا) اور اس طرح کی صورت حال میں جلدی کی کم سے کم مقدار یوم ولیلۃ یعنی ایک دن ایک رات ہے، لہذا ہم نے ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کے اعادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور وہ صورت جس میں جانور پھول جائے یا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اس میں ظاہری علامت یہ ہے کہ جانور کو کنویں میں گرے ہوئے کچھ مدت بیت گئی ہے اور یہ گر کر پرانا ہو گیا ہے، اور اس طرح کی پوزیشن میں تین دن تین راتوں سے پرانا ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لہذا ہم نے بھی تین دن تین راتوں کی نمازوں کے اعادے کا حکم دے دیا۔

ومسألة النجاسة الخ صاحبین نے اپنے موقف کی تائید میں کپڑے کی نجاست والے مسئلے سے قیاس کیا تھا، صاحب ہدایہ یہاں سے ان کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی کپڑے کی نجاست والا مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے، کیوں کہ فقہ

معلیٰ بن منصور کی صراحت کے مطابق اس صورت میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر نجاست تازی ہے تو ایک دن ایک رات کی نمازیں اور اگر اس کی نجاست پرانی ہو چکی ہے تو تین دن اور تین رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، لہذا جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ صورت مسلم ہی نہیں تو اس پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے۔

ولو سلم الخ یہاں سے اس قیاس کا دوسرا جواب دیا جا رہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم مسئلہ ثوب کو متفق علیہ مان بھی لیں تو بھی اس پر مسئلہ بز کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ کپڑا انسان کے بدن سے مس کیے ہوئے رہتا ہے اور ہمہ وقت اس کی نگاہیں اس کپڑے پر متوجہ رہتی ہیں اور اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ نجاست لگتے ہی اسے دیکھ لیا جائے، لہذا کپڑے پر نجاست کے پہلے سے لگنے یا اس کے نہ معلوم ہو پانے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس کے برخلاف کنویں کا مسئلہ ہے، تو نہ تو کنواں ہمہ وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص ہر وقت کنویں پر رہتا ہے، بل کہ ضرورت ماء کے علاوہ دیگر اوقات میں کنواں انسان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے اور کنویں اور کپڑے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے ایک پر دوسرے کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔



## فَصْلٌ فِي الْأَسَارِ وَغَيْرِهَا

### فصل جوٹھے وغیرہ کے بیان میں ہے

صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے پانی میں جانوروں کے گرنے سے اس کی نجاست اور عدم نجاست کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے یہ بیان فرمائیں گے کہ اگر پانی میں حیوانوں یا انسانوں کا جوٹھا اور پس خوردہ گر جائے تو اس کی طہارت وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ چونکہ بعض حیوانوں کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے اور پانی میں اس کے گرنے سے پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے اس لیے جوٹھے کے احکام کو مکمل اور مفصل بیان کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے ایک علیحدہ فصل قائم فرمائی ہے۔

واضح رہے کہ اسار سوز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جوٹھا، پس خوردہ، کسی کی کھا کر چھوڑی اور بچائی ہوئی چیز۔ صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے یہاں سوز کی چار قسمیں ہیں (۱) سوز طاہر جیسے انسانوں اور ماکول اللحم جانوروں کا جوٹھا (۲) سوز مکروہ، جیسے بلی کا جوٹھا (۳) سوز نجس مثلاً خنزیر اور درندوں کا جوٹھا (۴) سوز مشکوک مثلاً گدھے اور خچر کا پس خوردہ۔ (عنایہ ۱۱۲/۱)

﴿وَعَرُقٌ كُلِّ شَيْءٍ مُّعْتَبَرٍ بِسُورِهِ﴾ لَآنَهُمَا يَتَوَلَّدَانِ مِنْ لَحْمِهِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا حُكْمَ صَاحِبِهِ.

**ترجمہ:** اور ہر چیز کے پسینے کو اس کے جوٹھے پر قیاس کیا گیا ہے، کیوں کہ پسینہ اور جوٹھا دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ایک نے دوسرے کا حکم لے لیا۔

### اللِّغَاتُ:

﴿عَرُقٌ﴾ پسینہ۔

پسینہ بھی جوٹھے کے حکم میں ہے:

صاحب کتاب سوز کے ضمن میں پسینے کے احکام کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے وسوز کل شیئ کے بجائے وعروق کل شیئ کی عبارت پیش کی ہے، تاکہ ایک ہی تیر سے دو شکار ہو جائے اور علیحدہ عروق کے لیے کوئی فصل نہ قائم کرنی پڑے۔ (عنایہ) بہر حال عبارت کا حاصل یہ ہے کہ شرعی حکم اور مسئلہ جاننے کے لیے ہر جاندار کے پسینے کو اس کے جوٹھے پر قیاس کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو حکم جوٹھے کا ہے وہی حکم پسینے کا بھی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں لہذا دونوں کا حکم بھی یکساں ہوگا۔

﴿ وَسُورِ الْآدَمِيِّ وَمَا يُؤَكَّلُ لَحْمَهُ طَاهِرٌ ﴾ لِأَنَّ الْمُخْتَلَطَ بِهِ اللَّعَابُ وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهِرًا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنْبُ وَالْحَائِضُ وَالْكَافِرُ .

**ترجمہ:** آدمی اور ماکول اللحم جانوروں کا جوٹھا پاک ہے، اس لیے کہ اس میں لعاب کی آمیزش رہتی ہے اور لعاب پاک گوشت سے پیدا ہوتا ہے، لہذا وہ پاک ہوگا۔ اور اس حکم میں جنسی، حائضہ اور کافر سب داخل ہیں۔

## اللَّغَاتُ:

﴿سُورٌ﴾ جوٹھا۔

## آدمی اور ماکول اللحم جانوروں کے جوٹھے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کا جوٹھا خواہ وہ مسلم ہوں یا کافر، اور چاہے پاک ہوں یا جنسی، یا کوئی حائضہ عورت ہو ان کا جوٹھا اور وہ تمام جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان سب کا جوٹھا پاک ہے، اگر ان میں سے کسی کا لعاب اور پس خوردہ پانی وغیرہ میں گر جائے تو پانی کی صحت اور اس کی طہارت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیوں کہ پانی وغیرہ میں لعاب ملنے کی وجہ سے جوٹھا پین آتا ہے اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور ماکول اللحم جانوروں کا گوشت پاک ہوتا ہے، اس لیے ان کا لعاب بھی پاک ہوگا۔ اور چونکہ جوٹھے میں لعاب کی آمیزش رہتی ہے، اس لیے ان کا جوٹھا بھی پاک ہوگا۔

یہ دلیل تو ماکول اللحم جانوروں کے جوٹھوں سے پاک ہونے کی ہے، انسانوں کے جوٹھے کی طہارت پر وہ حدیث دلیل ہے جس کا مضمون ان الفاظ میں ہے أن النبی ﷺ أتى بقدر من لبن فشر به وناول الباقي اعرابيا فشر به ثم ناول أبا بكر فشر به الحديث، یعنی آپ ﷺ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے جس میں سے خود آپ نے دودھ پیا پھر ایک دیہاتی کو دیا اس نے پیا اور پھر اس اعرابی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا انھوں نے بھی اس میں سے پیا، اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جوٹھا پاک ہے۔

حائضہ کے جوٹھے کی طہارت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت دلیل ہے جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے عن عائشة رضی اللہ عنہا شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله ﷺ فمه على موضع فمها وشرب، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حالت حیض میں ایک برتن سے منھ لگا کر پانی پیا اور ان کے بعد آپ ﷺ نے بھی اسی جگہ منھ لگا کر پانی پیا۔ (عنا، بنایہ)

﴿ وَسُورُ الْكَلْبِ نَجِسٌ وَيُغَسَّلُ الْإِنَاءُ مِنْ وَلُوغِهِ ثَلَاثًا ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① يُغَسَّلُ الْإِنَاءُ مِنْ وَلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا، وَلِسَانُهُ يَلَاقِي الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ فَلَمَّا تَنَجَّسَ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ أَوْلَى، وَهَذَا يُفِيدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدَ فِي الْغَسْلِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي اشْتِرَاطِ السَّبْعِ، وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ بَوْلُهُ يَطْهَرُ بِالثَّلَاثِ فَمَا يُصِيبُهُ سُورَةٌ وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَى، وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ ② بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ﴿ وَسُورُ الْخِنْزِيرِ

نَجَسٌ لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ.

**ترجمہ:** اور کتے کا جوٹھا ناپاک ہے، (اس لیے) اس کے (برتن میں) منہ ڈالنے کی وجہ سے تین مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”کتے کے منہ ڈالنے سے تین مرتبہ برتن دھویا جائے۔ اور کتے کی زبان پانی سے ملتی ہے نہ کہ برتن سے، لہذا جب برتن ناپاک ہو گیا تو پانی تو بدرجہ اولیٰ ناپاک ہوگا۔ اور یہ حدیث پانی کے ناپاک ہونے اور دھونے میں تین کے عدد (کے ضروری ہونے) کا فائدہ دے رہی ہے۔ اور یہ حدیث سات مرتبہ کی شرط لگانے کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جس چیز کو کتے کا پیشاب لگ جائے وہ تین مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ چیز جسے کتے کا جوٹھا لگ جائے جو پیشاب سے کم تر ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ تین بار دھلنے سے پاک ہو جائے گی۔

اور سات مرتبہ دھونے کا جو حکم وارد ہوا ہے وہ ابتدائے اسلام پر محمول ہے۔ اور خنزیر کا جوٹھا بھی ناپاک ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے، جیسا کہ گذر چکا ہے۔

## اللغات:

﴿سُور﴾ جوٹھا۔ ﴿وَلَوْغ﴾ اسم مصدر، باب فتح؛ کتے یا درندے کا برتن میں منہ ڈال کر زبان ہلانا یا زبان کے کنارے

سے پینا۔

## تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارۃ باب ولوغ القلب فی الاناء حدیث رقم ۱۹۳.

② اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارۃ باب ولوغ القلب فی الاناء حدیث رقم ۱۷۸.

## کتے کے جوٹھے کا حکم اور اس سے ناپاک ہونے والے برتن کو پاک کرنے کا بیان:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا اور اگر اس برتن میں پانی یا کوئی دوسری پاک چیز ہوگی تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ برتن کو پاک کرنے کا طریقہ خود حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اسے تین مرتبہ دھویا جائے، کیوں کہ ولوغ کلب کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور جب برتن ناپاک ہو جاتا ہے تو اس میں موجود پانی تو بدرجہ اولیٰ ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ کتا اپنی زبان سے پانی پیتا ہے اور اس کی زبان پانی ہی سے لگتی اور بچھرتی ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کتاب میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں (۱) کتے کے جوٹھے کی نجاست (۲) جس برتن میں وہ منہ ڈال دے اسے تین مرتبہ دھونے کا حکم، ان دونوں مفہوموں کے اعتبار سے یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے خلاف حجت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تو اس لیے حجت ہے کہ وہ کتے کے جوٹھے کو پاک کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس معنی کر کے حجت ہے کہ وہ ولوغ کلب سے سات مرتبہ برتن دھونے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس پر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا ولغ الکلب فی إنائمک فاعسلوہ سبعا وعقروہ الثامنة بالتراب یعنی اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے

سات مرتبہ دھلو اور آٹھویں بار منی سے مانجو، اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس میں صاف لفظوں میں سات مرتبہ دھونے کا حکم وارد ہے، لہذا اس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔

ہماری طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام پر محمول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شروع میں جب لوگوں کو کتے پالتے اور انھیں اپنے پیچھے لگائے رہتے دیکھا تو آپ نے کتوں کے سلسلے میں سختی کے ساتھ لوگوں کو منع فرمایا تھا کہ ہرگز انھیں اپنے قریب نہ آنے دو، پھر جب لوگوں کی عادتیں بدل گئیں تو پھر اس حکم میں کچھ نرمی آگئی، اور اس حکم میں نرمی پیدا ہونے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ پہلے والے حکم میں برتن کو منی سے مانجنا بھی ضروری تھا، مگر یہ حکم تو بالاتفاق اب منسوخ ہو گیا ہے۔ (عنایہ)

ولأن ما یصیبه الخ یہاں سے صاحب ہدایہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر الزامی دلیل پیش کرتے ہوئے انھیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ حضرت والا اگر کسی چیز کو کتے کا پیشاب لگ جائے تو وہ تو تین مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے اور جس چیز میں کتے کا جوٹھا پڑ جائے وہ سات مرتبہ دھلنے سے پاک نہ ہو؟ آخر ایسی کیا بات ہے، کیا تمام نجاست کتے کے منہ میں ہوتی ہے۔ ارے بھائی اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ پیشاب کے مقابلے میں جوٹھے کی نجاست، اس کی بو اور اس کا تعفن انتہائی کم تر، سچ اور معمولی ہے، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے جوٹھے کی طہارت کے بھی قائل ہیں جب کہ پیشاب کی طہارت کا کوئی قائل بھی نہیں ہے، اس لیے برائے کرم جوٹھے کے ساتھ آپ اتنا سخت رویہ مت اپنائیں اور اس کی نجاست کو بھی تین ہی بار دھلنے سے پاک قرار دے دیجیے۔

وسور الخنزیر الخ فرماتے ہیں کہ خنزیر کا بھی جوٹھا ناپاک ہے، کیوں کہ یہ تو اپنے گوشت پوست اور اجزاء سمیت نجس العین ہے اور چوں کہ جوٹھا لعاب اور گوشت ہی کی پیداوار ہے، اس لیے اس کی بھی نجاست میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔

﴿وَسُورُ سِبَاعِ الْبِهَائِمِ نَجِسٌ﴾ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمۃ اللہ علیہ فِيمَا سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، لِأَنَّ لِحْمَهُمَا نَجِسٌ وَمَنْهُ يَتَوَلَّدُ اللَّعَابُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ.

**ترجمہ:** اور درندے چوپایوں کا جوٹھا ناپاک ہے، لیکن کتے اور خنزیر کے علاوہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، کیوں کہ ان دونوں کا گوشت ناپاک ہے، اور گوشت ہی سے لعاب پیدا ہوتا ہے اور اس باب میں لعاب ہی پر اعتبار ہے۔

## اللَّعَاتُ:

﴿سِبَاعٌ﴾ اسم جمع، واحد سبُع؛ درندہ۔

## درندوں کے جوٹھے کے حکم کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے اور جس برتن یا پانی میں کوئی درندہ (پھاڑ کھانے والا جانور، مثلاً شیر، چیتا اور بھیریا وغیرہ) منہ ڈال دے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر اور کتے کے علاوہ دیگر درندوں اور چوپایوں کا جوٹھا پاک ہے، صاحب ہدایہ نے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نہیں بیان کی ہے، مگر آپ کے

فائدے کی خاطر عنایہ اور بنایہ میں بیان کردہ دلیلوں کو یہاں درج کیا جا رہا ہے۔

درندوں کے جوٹھے کی طہارت پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنل فقیل أنتوضاً بما أفضلت الحمر فقال نعم، وبما أفضلت السباع کلها یعنی حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم گدھوں کے چھوڑے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر لیا کرو اور سنو درندوں کے بچائے ہوئے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درندوں کا جوٹھا پاک ہے، ورنہ ان کے منہ لگائے ہوئے پانی سے وضو کی اجازت نہ دی جاتی۔

دوسری دلیل ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بطونہا، ولنا ما بقی شراب و طهور، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ اور مدینہ کے ان کنوؤں کے متعلق دریافت کیا گیا جن پر کتے اور دیگر درندے آکر پانی پیتے ہیں، آخر ان کے پانی وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ انھوں نے اپنے پیٹ میں بھر لیا وہ اٹکا ہے اور جو بیچ گیا وہ ہمارے پینے کے لیے ہے، اور پاک بھی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ درندوں کا جوٹھا پاک ہے۔

صاحب ہدایہ نے احناف کی عقلی دلیل تو بیان کی ہے، مگر نقلی کوئی دلیل نہیں بیان کی، سو اس سلسلے میں نقلی دلیل یہ ہے کہ ان عمر و عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما وردا حوضا فقال عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یا صاحب الحوض أترد السباع ماءك هذا، فقال عمر رضی اللہ عنہ یا صاحب الحوض لا تخبرنا، فلولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر علينا استعماله لما نهاه عن ذلك، یعنی حضرت فاروق اعظم اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ایک حوض پر تشریف لے گئے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حوض والے سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہارے حوض پر درندے بھی آتے ہیں، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ بھائی اس سلسلے میں ہمیں کچھ نہ بتانا، کیوں کہ اگر ہم کو درندوں کے حوض پر آنے کی اطلاع دے دی گئی تو ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔

اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ حضرت عمر درندوں کے جوٹھے کو ناپاک سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں انھوں نے اللہ کے نبی سے سن رکھا تھا بھی تو انھوں نے منع کیا اور پھر حضرت عمرو بن العاص کے دل میں بھی درندوں کے جوٹھے کے متعلق تشویش تھی، اسی لیے تو انھوں نے سوال کیا تھا۔

ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ جوٹھے کے باب میں سارا دار و مدار لعاب پر ہے اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور چون کہ درندوں کا گوشت ناپاک ہوتا ہے، اس لیے ان کا لعاب بھی ناپاک ہوگا اور جوٹھے میں لعاب کی آمیزش ہوتی ہے، اس لیے جوٹھا بھی ناپاک ہوگا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی متدل احادیث کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں درندوں کا گوشت کھانا حلال تھا، لہذا ان کا جوٹھا بھی پاک تھا، کیوں کہ لعاب گوشت ہی سے بنا اور پیدا ہوتا ہے، مگر جب ان کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا، تو ظاہر ہے



کہ ان کا جوٹھا بھی ناپاک ہو گیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں میں جن حوضوں اور تالابوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ سب کے سب بڑے اور ماء کثیر اور ماء جاری والے تھے۔ اور آب کثیر اور ماء جاری کی صورت میں تو ہم بھی درندوں کے جوٹھوں کو پاک کہتے ہیں کہ اس طرح کے پانی میں منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن یہ مسئلہ تو ماء قلیل کا ہے، لہذا قلیل و کثیر میں فرق کرنا تو ضروری ہے۔

﴿ وَسُورُ الْهَرَّةِ طَاهِرٌ مَكْرُوهٌ ﴾ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصْغِي ① لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْهَرَّةُ ② سَبْعٌ، وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعَلَّةٍ ③ الطَّوَافِ فَبَقِيَ الْكِرَاهَةُ، وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَلَى مَا قَبَلَ التَّحْرِيمَ، ثُمَّ قِيلَ كِرَاهَتُهُ لِحُرْمَةِ اللَّحْمِ، وَقِيلَ لِعَدَمِ تَحَامِيهَا النَّجَاسَةَ، وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى التَّنْزِهِ وَالْأَوَّلُ إِلَى الْإِقْرَابِ مِنَ التَّحْرِيمِ .

**ترجمہ:** اور بلی کا جوٹھا پاک ہے، لیکن مکروہ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن جھکا دیتے تھے، بلی اس میں پانی پیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ حضرات طرفین کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے ”بلی درندہ ہے“ اور اس سے حکم بیان کرنا مقصود ہے مگر علت طواف کی وجہ سے نجاست ساقط ہوگئی اور کراہت باقی رہ گئی۔

اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت تحریم سے پہلے کے حکم پر محمول ہے، پھر ایک قول یہ ہے کہ بلی کے جوٹھے کی کراہت اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ایک (دوسرا) قول یہ ہے کہ بلی کے نجاست سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، یہ قول مکروہ تنزیہی کی طرف مشیر ہے، اور پہلا قول مکروہ تحریمی سے زیادہ قریب ہے۔

## اللغات:

﴿هَرَّةٌ﴾ بلی۔ ﴿بُصْغِي﴾ أَصْغَى يُصْغِي، باب افعال؛ جھکانا، نیچے کرنا۔ ﴿تَحَامِي﴾ اسم مصدر، باب تفاعل؛ پرہیز

کرنا، بچنا، دور رہنا۔

## تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارة باب سور الہرة حدیث رقم ۱۹۵.

② اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارة باب سور الہرة حدیث رقم ۲۱۷.

③ اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارة باب سور الہرة حدیث رقم ۲۱۶.

## بلی کے جوٹھے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے جوٹھے کی طہارت اور نجاست کے سلسلے میں حضرات فقہائے احناف کے مابین اختلاف

ہے، چنانچہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے پانی کا برتن جھکا دیا کرتے تھے پھر جب بلی اس میں سے پانی پی لیتی تھی تو آپ اس پانی سے وضو فرماتے تھے، اگر بلی کے جوٹھے میں کسی طرح کی کوئی کراہت یا قباحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہ کرتے، آپ کا یہ عمل اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے۔

اس سلسلے میں حضرات طرفین کی رائے یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک تو ہے مگر اے دن کو الٹی کا نہیں ہے، بل کہ اس میں کراہت ہے، اس لیے کہ بلی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بلی درندہ ہے اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم درندوں کا ہے وہی حکم بلی کا ہے، اور درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے، لہذا بلی کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے بیان حکم اس وجہ سے مراد لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی تبلیغ اور مسائل کی تشریح کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، خلقت اور صورت بتانے کے لیے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔

بہر حال یہ بات طے ہوگئی کہ بلی کے جوٹھے کا وہی حکم ہے جو درندوں کے جوٹھے کا ہے اور درندوں کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے، اس اعتبار سے بلی کا بھی جوٹھا ناپاک ہونا چاہیے، مگر پھر بھی ہم اس کو ناپاک نہیں کہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھروں میں چکر لگنے والی قرار دیا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الہرة لیست بنجسة إنما هی من الطوائفین علیکم أو الطوائف۔ اس حدیث کے پیش نظر بلی کے جوٹھے کی نجاست ساقط ہوگئی اور کراہت باقی رہ گئی۔

صاحب ہدایہ نے إلا أنه أسقطت سے لے کر مارواہ تک یہی بیان کیا ہے۔

وما رواہ الخ یہاں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے حالات پر محمول ہے جب درندوں کے سلسلے میں حرمت کا فرمان صادر نہیں ہوا تھا، مگر جب بعد میں ان کے متعلق تحریم کا فیصلہ سنا دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ بلی بھی اس فیصلے کے تحت شامل اور داخل ہوگی۔

ثم قبیل الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ احناف میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے گوشت کو دیکھتے ہوئے اس کے جوٹھے کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، کیوں کہ اس کا گوشت حرام ہے، اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے نجاست سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کے جوٹھے کو مکروہ تنزیہی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ عدم تنزہ اور عدم احتیاط کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرمت بھی تنزیہی ہوگی۔

بلی کے جوٹھے کا مکروہ ہونا اس بات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت سے اس کا ظاہر ہونا اور حضرات طرفین کی بیان کردہ حدیث سے اس کا ناپاک ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور فقہ کا یہ مشہور ضابطہ ہے کہ إذا اجتمع الحلال والحرام أو المحرم والمبیح غلب الحرام والمحرم یعنی حلال اور حرام کے اجتماع کی صورت میں یا دلیل مبیح اور دلیل محرم کے جمع ہونے کی صورت میں حرمت ہی کے پہلو کو ترجیح ہوتی ہے۔ (الاشاہ والنظار ص ۱۳۳)

﴿وَلَوْ أَكَلَتِ الْفَارَةَ ثُمَّ شَرِبَتْ عَلَى قُورِهِ الْمَاءِ يَتَجَسُّسُ إِلَّا إِذَا مَكَتْ سَاعَةً﴾ لِعَسَلِهَا فَمَهَا بِلُعَابِهَا، وَالْإِسْتِنَاءُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَيَسْقُطُ إِعْتِبَارُ الصَّبِّ لِلضَّرُورَةِ .

**ترجمہ:** اور اگر بلی نے چوہا کھایا اور پھر اسی وقت پانی پی لیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، مگر جب وہ تھوڑی دیر ٹھہری رہے، کیوں کہ (اب) اس نے اپنے لعاب سے اپنا منہ صاف کر لیا۔ اور یہ استثناء حضرات شیخینؒ کے مذہب پر ہے اور بر بنائے ضرورت یہاں کا اعتبار ساقط ہو گیا۔

### مذکورہ بالا مسئلے کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلی نے چوہا کھا کر فوراً کسی برتن میں منہ ڈال کر پانی پی لیا تو بالاتفاق وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یہ حکم تو متفق علیہ ہے، دوسرا مختلف فیہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلی نے چوہا کھا کر تھوڑا سا توقف کیا اور اس کے بعد پانی پیا تو اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے یہاں پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب چوہا کھانے کے بعد بلی نے تھوڑا سا توقف کیا تو گویا منہ کی نجاست اور گندگی کو لعاب سے صاف کر کے نکل گئی اور پانی میں اس حال میں اس نے منہ داخل کیا کہ اس کے منہ اور ہونٹ پر کوئی نجاست نہیں تھی۔

اس کے برخلاف امام محمد، امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے یہاں اس صورت میں بھی پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست نہیں دور کی جاسکتی و لم یوجد الماء ههنا۔ ویسقط الخ سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے یہاں بھی اس صورت میں پانی ناپاک ہو جانا چاہیے، کیوں کہ ان کے یہاں ازالہ نجاست کے لیے صب یعنی پانی بہانا شرط ہے اور وہ یہاں نہیں پایا گیا؟ صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں صب شرط تو ہے، مگر یہاں ضرورت کے پیش نظر اسے ساقط کر دیا گیا ہے۔

﴿وَسُورُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ مَكْرُوهٌ﴾ لِأَنَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا إِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا لَا يُكْرَهُ لَوْ قُوعِ الْأَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ، ﴿وَكَذَا سُورُ سَبَاعِ الطَّيْرِ﴾ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ فَأَشْبَهَ الدَّجَاجَةَ الْمُخَلَّاةَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً يَعْلَمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا قَدْرَ عَلَى مِنْقَارِهَا لَا يُكْرَهُ لَوْ قُوعِ الْأَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ، وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَائِخُ هَذِهِ الرَّوَايَةَ .

**ترجمہ:** اور گندگیوں میں پھرنے والی مرغی کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ نجاست سے لت پت ہو جاتی ہے۔ اور اگر مرغی اس طرح محبوس ہو کہ اس کی چونچ اس کے پیروں کے نیچے تک نہ پہنچے تو اس کا جوٹھا مکروہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ (اب) اختلاط نجاست سے مامون ہے، نیز شکاری پرندوں کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، کیوں کہ یہ مردار جانور کھاتے ہیں، لہذا گندگی پر پھرنے والی مرغی کے مشابہ

ہو گئے۔

اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر شکاری پرندے بند رکھے جاتے ہوں اور ان کے مالک کو یہ معلوم ہو کہ ان کی چونچ پر نجاست نہیں ہے تو ان کا جوٹھا مکروہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اختلاط نجاست سے امن حاصل ہے۔ اور حضرات مشائخ نے اس روایت کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔

### اللغات:

﴿مُخَلَّاةٌ﴾ اسم مفعول، خَلَّى يُخَلِّي، باب تفعیل؛ کھول دینا، اکیلا کر دینا، چھوڑ دینا۔ مُخَلَّاةٌ جس کو کھلی چھوٹ ملی ہو۔ ﴿مِنْقَارٌ﴾ چونچ۔ ﴿قَدْرٌ﴾ ناپاکی، گندگی۔

### گندگی میں پھرنے والی مرغی اور شکاری پرندوں کے جوٹھے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرغی جو گندگیوں اور غلاظتوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اس لیے کہ گندگیوں میں پھرنے اور چونچ مارنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم نجاست اور غلاظت سے لت پت رہتا ہے، اس لیے اس کا جوٹھا کسی بھی حال میں طاہر اور پاک نہیں ہو سکتا۔

ہاں اگر کوئی شخص مرغیاں پالے اور اس طرح ان کی دیکھ رکھ کرے کہ وہ نجاست میں نہ جانے پائیں اور نہ ہی ان کی چونچ ان کے بچوں تک پہنچنے پائے تو اس صورت میں ان مرغیوں کا جوٹھا مکروہ نہیں ہوگا، بل کہ پاک ہوگا، کیوں کہ کراہت اختلاط نجاست کی وجہ سے آئی تھی اور جب اختلاط ہی نہیں ہوگا تو کراہت کہاں سے آئے گی۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی حکم شکاری پرندوں کا بھی ہے یعنی ان کا جوٹھا بھی مکروہ ہے اس لیے کہ یہ کم بخت مردار جانور کھاتے ہیں اور جس طرح گندگی میں نجاست ہوتی ہے اسی طرح مردار میں بھی نجاست ہوتی ہے اور گندگی پر پھرنے والی مرغی کا جوٹھا مکروہ ہے، لہذا ان کا جوٹھا بھی مکروہ ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جس طرح مرغیوں کو بند کر کے ان کی نگاہداشت اور اختلاط نجاست سے ان کی حفاظت کرنے کی صورت میں ان کا جوٹھا مکروہ نہیں ہوتا، اسی طرح اگر شکاری پرندوں کو بھی محبوس کر کے ان کی نگاہداشت کی جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی چونچ پر گندگی نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کے جوٹھے سے بھی کراہت ختم ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشائخ نے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بنظر استحسان دیکھا ہے اور امت کے لیے اسی کو مفتی بہ قرار دیا ہے۔

﴿وَسُورٌ مَا يَسْكُنُ الْبُيُوتَ كَالْحَيَّةِ وَالْفَارَةَ مَكْرُوهَةً﴾ لِأَنَّ حُرْمَةَ اللَّحْمِ أَوْجَبَتْ نَجَاسَةَ السُّورِ، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِغَلَّةِ الطَّوَافِ فَبَقِيَ الْكِرَاهَةُ، وَالتَّبْيُّهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْهَرَّةِ.

ترجمہ: اور گھروں میں رہنے والے جانوروں مثلاً سانپ اور چوہے کا جوٹھا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان کے گوشت کی حرمت

جوٹھے کے ناپاک ہونے کا سبب ہے، لیکن علتِ طواف کی وجہ سے یہ نجاست ساقط ہوگئی، لہذا کراہت باقی ہے، اور علت پر مسئلہ ہرہ میں متنبہ کر دیا گیا ہے۔

## اللغات:

﴿حَيْتَةَ﴾ سانپ۔

## گھروں میں پائے جانے والے عام جانوروں کے جوٹھے کا حکم:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ وہ جانور جو عموماً گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ اور چوہا وغیرہ ان کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، کیوں کہ ان کا گوشت حرام ہے اور گوشت کی حرمت جوٹھے کی حرمت اور نجاست کی متقاضی ہے، مگر علتِ طواف یعنی ان کے گھروں میں رہنے اور آنے جانے کی وجہ سے ان کے جوٹھے سے نجاست ختم ہوگئی اور کراہت باقی ہے۔

والتنبیہ علی الہرة الخ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں آنے جانے کو علت اور بنیاد بنا کر تلی کے جوٹھے سے نجاست کو ساقط کر دیا گیا تو جو جانور گھروں میں مستقل رہتے ہیں ان کے جوٹھے سے تو بدرجہ اولیٰ نجاست ساقط ہو جائے گی، البتہ کراہت باقی اور برقرار رہے گی۔

﴿وَسُورَ الْحِمَارِ وَالْبَعْلِ مَشْكُوكٍ فِيهِ﴾ وَقِيلَ الشُّكُّ فِي طَهَارَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَكَانَ طَهُورًا مَالًا يَغْلِبُ اللَّعَابُ عَلَى الْمَاءِ، وَقِيلَ الشُّكُّ فِي طَهُورِيَّتِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ رَأْسِهِ، وَكَذَا لَبَنُهُ طَاهِرٌ، وَعَرَفُهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَإِنْ فَحَشَ فَكَذَا سُورُهُ وَهُوَ الْأَصْحُ، وَيُرْوَى نَصُّ مُحَمَّدٍ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَسَبَبُ الشُّكِّ تَعَارُضُ الْأَدْلَةِ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، أَوْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ تَرَجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَالْبَعْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ.

**ترجمہ:** گدھے اور خچر کا جوٹھا مشکوک ہے، اور کہا گیا اس کے پاک ہونے میں شک ہے، کیوں کہ اگر وہ طاہر ہوتا تو جب تک لعابِ پانی پر غالب نہ ہوتا وہ مطہر بھی ہوتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے مطہر ہونے میں شک ہے، کیوں کہ اگر پانی پالیا جائے تو پانی پانے والے پر اپنا سر دھونا واجب نہیں ہے، نیز حمار کی طہارت پر امام محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی صراحت منقول ہے جب کہ شک کی وجہ اس کی اباحت اور حرمت کے سلسلے میں دلائل کا تعارض ہے، یا اس کی نجاست اور طہارت کے متعلق حضراتِ صحابہ کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ جانبِ حرمت اور نجاست کو ترجیح دیتے ہوئے گدھے کا جوٹھا ناپاک ہے۔ اور خچر بھی گدھے ہی کی نسل کا ہے، اس لیے وہ بھی اسی کے درجے میں ہوگا۔

## اللغات:

﴿حِمَارٍ﴾ گدھا۔ ﴿بَعْلٍ﴾ خچر۔

## گدھے اور خچر کے جوٹھے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ پالتو گدھوں اور گدھی کے پیٹ سے پیدا شدہ خچروں کا جوٹھا مشکوک ہے یہاں تک تو اکثر مشائخ متفق ہیں، پھر ان کے جوٹھے کی طہارت میں شک ہے یا ان کے مطہر ہونے میں شک ہے؟ اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ گدھے کے جوٹھے کی طہارت میں شک ہے، یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک، کیوں کہ اگر پاک ہوتا تو پانی وغیرہ میں اس کے گرنے کی وجہ سے اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک جوٹھا اس پر غالب نہ آجاتا، حالاں کہ بدون غلبہ بھی پانی میں سورحمار کے گرنے سے اس پانی سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے، اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خود جوٹھے کی طہارت اور عدم طہارت میں شک ہے۔

مشائخ میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورحمار بذات خود تو پاک ہے مگر اس کے مطہر ہونے میں شک ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کرتے ہوئے گدھے کے جوٹھے والے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا تھا اور بعد میں اسے پاک اور غیر جوٹھا پانی ہم دست ہو گیا، تو اب اس شخص کے لیے دوبارہ مسح کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورحمار بذات خود تو پاک ہے مگر دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں شک ہے۔

و کذا لبنہ الخ فرماتے ہیں کہ گدھی کا دودھ بھی پاک ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش اور اس کے بڑھنے یا نکلنے میں گوشت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نیز گدھے وغیرہ کا پسینہ بھی پاک ہے اگرچہ زیادہ ہو اور یہ پسینہ جواز صلاۃ سے مانع بھی نہیں ہے، سب سے صحیح اور معتقد قول یہی ہے، ورنہ تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تین روایات منقول ہیں جن میں سے ایک میں گدھے کے پسینے کو نجاست خفیہ اور دوسری میں نجاست غلیظہ سے جوڑا گیا ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ وہ پاک ہے اور جب پسینہ پاک ہے تو لعاب اور جوٹھا بھی پاک ہوگا۔ (عنایہ ۱۱۹/۱)

ویروعی الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ صراحت منقول ہے کہ سورحمار پاک ہے جس سے یہ بات مزید مؤکد ہو جاتی ہے کہ شک سورحمار کی طہارت میں نہیں، بل کہ اس کے مطہر ہونے میں ہے۔

وسبب الشک الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سورحمار کے مطہر ہونے میں جو بھی شک و شبہ ہے وہ دراصل احادیث کے تعارض اور خیر القرون میں حضرات صحابہ کے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ہے، اس کی پوری تفصیل عنایہ اور بنایہ میں موجود ہے، آپ کے فائدے کی خاطر یہاں اسے قلم بند کیا جا رہا ہے۔

روي أن غالب بن أبجر سأل رسول الله ﷺ وقال لم يبق لي مال إلا حميرات فقال عليه الصلاة والسلام كل من سمين مالك " یعنی غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس اونٹوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا ہے (میں کیا کروں) آپ نے فرمایا کہ اپنے موٹے تازے مال میں سے کھالیا کرو۔ اس حدیث سے گدھوں کے گوشت کا مباح اور حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، جب کہ دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس سے گدھوں کے گوشت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، حدیث یہ ہے عن جابر رضی اللہ عنہ أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمير الأهلية يوم خيبر الخ یعنی آپ ﷺ نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا تھا۔

اس کے علاوہ حضرات صحابہ میں بھی سور حمار کی طہارت اور عدم طہارت کے حوالے سے اختلاف تھا، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کا نجس ہونا مروی ہے جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا پاک ہونا مروی ہے، الحاصل جب شروع ہی سے اس میں اختلاف ہے تو آخر آج چودہ پندرہ سو سال بعد ہم کیسے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے ہم اس کے مطہر ہونے میں شک اور شبہ کے قائل ہیں۔ (عنایہ ۱۱۹/۱، بنایہ ۱۲۵/۱)

حضرت امام صاحب رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ جانب حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے سور حمار کو نجس ہی قرار دینا بہتر ہے اور پھر نچر چوں کہ اسی کی نسل سے ہے، اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے۔

﴿ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ بِهِمَا وَيَتِيمَمُ، وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ ﴾ وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُقَدِّمَ الْوَضُوءَ، لِأَنَّهُ وَاجِبٌ الْإِسْتِعْمَالِ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ، وَلَنَا أَنَّ الْمُطَهِّرَ أَحَدَهُمَا فَيُفِيدُ الْجَمْعَ دُونَ التَّرْتِيبِ، وَسُورُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ لَحْمَهُ مَا كُوِلَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ، لِأَنَّ الْكِرَاهَةَ لِلِإِظْهَارِ شَرِّهِ .

**ترجمہ:** پھر اگر متوضی سور حمار اور سور نچر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ پائے تو ان سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ اور جائز ہے کہ وہ وضو اور تیمم میں سے جسے چاہے مقدم کرے۔ امام زفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف وضو کو ہی مقدم کرنا جائز ہے، کیوں کہ سور حمار واجب الاستعمال پانی ہے، لہذا یہ ماء مطلق کے مشابہ ہو گیا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی مطہر ہے، لہذا یہ جمع کا فائدہ دے گا نہ کہ ترتیب کا۔

اور حضرات طرفین رضی اللہ عنہم کے یہاں گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، کیوں کہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی امام صاحب رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی (پاک ہے) صحیح قول میں، کیوں کہ گھوڑے کے گوشت کی کراہت اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

### مذکورہ بالا مسائل میں اختلاف اقوال کا ثمرہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والے کو گدھے اور نچر کے جوٹھے کے علاوہ کوئی دوسرا غیر مشکوک پانی نہ ملے تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے اور ہمارے یہاں وضو اور تیمم میں سے جسے چاہے پہلے یا بعد میں کرے، البتہ امام زفر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ ماء مشکوک واجب الاستعمال پانی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تیمم کو مقدم کیا جاسکتا، اس لیے کہ یہ پانی ماء مطلق کے مشابہ ہے اور ماء مطلق ہر حال میں تیمم سے مقدم رہتا ہے، اس لیے اس پانی کو بھی تیمم سے مقدم کیا جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قیاس اور تشبیہ سے پہلے مقصود اور مطلوب پر نظر ہونی چاہیے، غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں وضو اور تیمم میں سے ایک ہی مطہر ہے، کیوں کہ اگر دونوں مطہر ہوتے تو صرف ایک ہی پر اکتفاء کرایا جاتا، اور اب جب دونوں میں سے ایک ہی مطہر ہے تو پھر تقدیم و تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وضو پہلے کرے یا تیمم، طہارت ایک ہی سے حاصل ہوگی، اس لیے یہاں جمع کا فائدہ تو ہوگا مگر ترتیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

وسور الفرس الخ فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین کے یہاں گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، کیوں کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے اور جوٹھے کی طہارت اور نجاست کا مدار ہی چوں کہ گوشت پر ہے، اس لیے جب گوشت حلال ہے تو جوٹھا بھی حلال اور پاک ہوگا۔ اور صحیح قول کے مطابق حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، کیوں کہ اگرچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لحم فرس کی کراہت کے قائل ہیں، مگر آپ کا یہ قول نجاست کی وجہ سے نہیں ہے، بل کہ گھوڑے کی شرافت اور آکہ جہاد ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ لہذا اس سے گھوڑے کے جوٹھے کی طہارت اور پاکیزگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ نے فی الصحیح کہہ کر امام صاحب کے ان اقوال سے احتراز کیا ہے جن میں سے کسی میں وہ سور فرس کی کراہت اور کسی میں اس کے مشکوک ہونے کے قائل ہیں۔ (عناویہ)

﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتِيمُّمْ﴾ لِحَدِيثِ لَيْلَةِ الْجِنِّ فَإِنَّ ① النَّبِيَّ عليه السلام تَوَضَّأَ بِهِ حِينَ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ، وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ يَتِيمُّمْ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمۃ اللہ علیہ عَمَلًا بِأَيَّةِ التَّيْمِمْ، لِأَنَّهَا أَقْوَى أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِهَا، لِأَنَّهَا مَدْنِيَّةٌ، وَلَيْلَةُ الْجِنِّ كَانَتْ مَكِّيَّةً، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمۃ اللہ علیہ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتِيمُّمْ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ اضْطِرَابًا وَفِي التَّارِيخِ جِهَالَةٌ فَوَجَبَ الْجَمْعُ إِحْتِياطًا، قُلْنَا لَيْلَةُ الْجِنِّ كَانَتْ غَيْرٌ وَاحِدَةً فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى النَّسَخِ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَمِلْتُ بِهِ الصَّحَابَةُ، وَبِمِثْلِهِ يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ، وَأَمَّا الْإِغْتِسَالُ بِهِ فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ عِنْدَهُ إِعْتِبَارًا بِالْوَضُوءِ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ، وَالنَّبِيذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ حُلُومًا رَقِيقًا يَسِيلُ عَلَى الْأَعْضَاءِ كَالْمَاءِ، وَمَا اسْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ، وَإِنْ غَيَّرْتَهُ النَّارَ فَمَا دَامَ حُلُومًا عَلَى الْخِلَافِ، وَإِنْ اسْتَدَّ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ، لِأَنَّهُ يَحُلُّ شُرْبُهُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمۃ اللہ علیہ لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ لِحُرْمَةِ شُرْبِهِ عِنْدَهُ، وَلَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ جَرِيًّا عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ .

**ترجمہ:** پھر اگر متوضی نبیذ تمر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ پائے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس پانی سے وضو کر لے اور تیمم نہ کرے، لیلۃ الجن والی حدیث کی وجہ سے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا تھا جس وقت آپ کو پانی ہم دست نہ ہو سکا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تیمم کرے اور نبیذ تمر سے وضو نہ کرے، یہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، آیت تیمم پر عمل کرتے ہوئے، کیوں کہ آیت حدیث سے زیادہ قوی ہے، یا یہ کہ حدیث آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، اس لیے کہ آیت تیمم مدنی ہے اور لیلۃ الجن کا واقعہ مکی ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیذ سے وضو کرے اور (پھر) تیمم بھی کرے، کیوں کہ حدیث میں اضطراب ہے اور تاریخ نامعلوم ہے، اس لیے احتیاطاً وضو اور تیمم کو جمع کرنا واجب ہے۔



ہم نے جواب دیا کہ لیلۃ الجن کئی ایک تھیں اس لیے نسخ کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے اور حدیث مشہور ہے جس پر صحابہ کرام عمل پیرا تھے اور اس جیسی حدیث سے کتاب اللہ پر اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

رہا نبیذ تمر سے غسل کرنے کا مسئلہ تو ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو پر قیاس کر کے اس سے غسل کرنا بھی جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غسل جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ وضو سے بڑھا ہوا ہے۔

اور جس نبیذ میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پتلی اور شیریں ہو جو پانی کی طرح اعضاء پر بہہ جائے۔ اور جو نبیذ سخت ہو جائے وہ حرام ہے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آگ اس میں کچھ تبدیلی پیدا کر دے تو جب تک وہ شیریں ہے اسی اختلاف پر ہے۔ اور اگر سخت ہو جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیوں کہ ان کے یہاں اس کا پینا حلال ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وضو نہ کرے، اس لیے کہ ان کے یہاں اس کا پینا حرام ہے، اور مقتضائے قیاس پر عمل کرتے ہوئے نبیذ تمر کے علاوہ دیگر نبیذوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿نبیذ﴾ انگور یا کھجور وغیرہ سے بنا ہوا مشروب جس کو اگر جلد استعمال نہ کیا جائے تو اس میں نشہ آ جاتا ہے۔ ﴿حلو﴾ مینھا، شیریں۔ ﴿رقیق﴾ پتلا، باریک۔ ﴿اشبتہ﴾ باب افتعال؛ سخت ہونا، مضبوط ہونا، دودھ کا جم کر دی یا پنیر وغیرہ بن جانا، نبیذ کا گاڑھا اور نشہ آور بن جانا۔ ﴿أنبذة﴾ اسم جمع، واحد نبیذ؛ مطلب بیان ہو چکا۔

### تخریج:

- ① اخرجه ابوداؤد فی کتاب الطہارة باب الوضوء بالنبیذ حدیث رقم ۸۴.
- و ترمذی فی کتاب الطہارة باب الوضوء بال النبیذ حدیث رقم ۸۸.

### نبیذ تمر سے وضو کا حکم:

اس دراز نفس عبارت میں بیان کردہ مسئلہ بڑا معرکہ الآراء مسئلہ ہے، مسئلے کی وضاحت سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبیذ فعیل کے وزن پر منبوذ کے معنی میں ہے اور نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں کچھ کھجوریں ڈال دی جائیں تاکہ ان کی حلاوت پانی میں مل جائے۔ (بنایہ) اب یہ پانی جس میں کھجوروں کا عرق اور اس کا شیرہ جمع ہوا ہے اگر گاڑھا اور نشہ آور ہو جائے تو بالاتفاق اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پتلا ہو اور پانی کی طرح اعضاء پر بہنے والا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے اور اس پوری عبارت میں اسی کا بیان ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں کئی روایتیں منقول ہیں جن میں سب سے صحیح روایت یہ ہے (جو کتاب میں بھی ہے) کہ متوضیٰ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پانی سے صرف وضو کرے اور تیمم نہ کرے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا، بل کہ اگر نبیذ تمر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ اس

طرح کی پوزیشن میں وضو اور تیمم دونوں کو جمع کیا جائے گا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ایسی بھی ہے۔

بہر حال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول کتاب میں مذکور ہے (یتوضأ ولا یتیم) اس کی دلیل لیلۃ الجن والی حدیث ہے، یہ حدیث ہدایہ میں تو نہیں ہے، مگر عنایہ اور بنیہ عربی شرح ہدایہ میں مذکور ہے جسے آپ کے استفادے کی خاطر یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔

حدیث کا مضمون یہ ہے: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب ذات لیلۃ ثم قال لیقم معی منا لم یکن فی قلبہ منقال ذرۃ من کبر فقام ابن مسعود رضی اللہ عنہ فحملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع نفسه، فقال عبد اللہ بن مسعود خرجنا من مکة وخط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حولی خطا وقال لا تخرج عن هذا النخط فإنک إن خرجت عنه لم تلقنی الی یوم القیامۃ، ثم ذهب یدعوا الجن الی الإیمان ویقرأ علیہم القرآن حتی طلع الفجر، ثم رجع بعد طلوع الفجر وقال لی هل بقی معک ماء أتوضأ به، فقلت لا إلا نبیذ التمر فی إداوة، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ طیبۃ وماء طهور، وأخذہ وتوضأ به وصلى الفجر. (عنایہ: ۱/۱۲۲)

حدیث پاک بہت لمبی ہے اس لیے مختصر لفظوں میں اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابن مسعود کو لے کر جنات کی تبلیغ کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور صبح کو آکر وضو کے لیے ان سے پانی طلب فرمایا تو ابن مسعود نے نبیذ تمر کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہونے کی اطلاع دی، اس پر آپ نے فرمایا کہ بھائی کھجور پاکیزہ ہے اور پانی بھی مطہرہ ہے، لاؤ اسی سے وضو کر لو، چناں چہ آپ نے اسی پانی سے وضو فرمایا۔

اس حدیث سے وجہ استدلال باس معنی ہے کہ اگر نبیذ تمر سے وضو جائز نہ ہوتا یا اس کے ساتھ تیمم کی بھی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کرتے، حالاں کہ آپ نے صرف اس سے وضو فرمایا اور تیمم نہیں کیا جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے، اور اس وضو کے ساتھ تیمم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فإن لم تجدوا ماء فتمیموا صعیدا طیباً کا فرمان جاری کر کے ماء مطلق نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا ہے اور یہ بات طے ہے کہ نبیذ تمر ماء مطلق نہیں ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے بھی تیمم ہی کیا جائے گا، نہ کہ وضو۔ کیوں کہ قرآن کریم کی آیت بہر حال حدیث پاک سے اقوی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ حدیث کا حکم آیت قرآنی کی وجہ سے منسوخ ہے، کیوں کہ حدیث اور اس میں مذکور واقعہ کی زندگی کا ہے جب کہ آیت اور اس میں بیان کردہ حکم مدنی زندگی کا ہے جو کی زندگی کے بعد ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بعد والا حکم پہلے والے حکم کے لیے ناخ ہوتا ہے۔ اس لیے نبیذ تمر سے وضو کا حکم آیت تیمم کی وجہ سے منسوخ ہے۔

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ لیلۃ الجن کی حدیث میں اضطراب ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی معیت موجود ہے اور بعض میں نہیں ہے، پھر یہ کہ لیلۃ الجن کا واقعہ کب اور کس تاریخ میں پیش آیا یہ بھی حتمی طور پر نہیں معلوم ہے، اس لیے اس واقعے سے نبیذ تمر سے وضو کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، تاہم یہ بھی طے ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، لہذا اسے یکسر نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کو جمع کرایا جائے، اور نہ تو

صرف وضو کی اجازت دی جائے اور نہ ہی صرف تیمم کی طرف لوٹا جائے۔

قلنا الخ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے واقعہ لیلۃ الجن کو آیت تیمم سے منسوخ قرار دیا ہے، صاحب ہدایہ یہاں سے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعویٰ نسخ کے لیے تاریخ کی معلومات اور واقعہ کی پوری تفصیلات کا علم از حد ضروری ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بل کہ متعدد مرتبہ پیش آیا، اب آپ کس کس واقعے کو منسوخ مانیں گے یہ بتائیے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک دو واقعہ مدنی زندگی میں پیش آیا ہو پھر آپ اسے کس آیت سے منسوخ قرار دیں گے، اس لیے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ نسخ درست نہیں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ جس حدیث سے متعلق ہے وہ حدیث مشہور ہے اور حضرات صحابہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں، چنانچہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ حضرات نبیز تمر سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ وہ قال الوضوء بنیذ التمر وضوء من لم یجد الماء یعنی جو شخص پانی نہ پائے اس کے لیے نبیز تمر سے وضو کرنا کافی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے تو ضاؤا بنیذ التمر ولا تو ضاؤا باللبن کہ نبیز تمر سے وضو کر سکتے ہو مگر دودھ سے وضومت کرنا (عنایہ) الحاصل جب یہ حدیث مشہور ہے اور صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی تھا تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست ہے، کیوں کہ حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کی جاسکتی ہے۔

واما الاغتسال بہ الخ یہاں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے یہاں نبیز تمر سے وضو کرنا جائز ہے تو غسل کا کیا حکم ہے؟ کیا غسل کرنا بھی جائز ہے؟ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ وضو پر قیاس کر کے غسل کرنا بھی جائز ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ غسل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ غسل حدیث اکبر ہے، لہذا اسے حدیث اصغر پر نہیں قیاس کیا جاسکتا، پھر یہ کہ نبیز تمر سے جواز وضو کا حکم ایک ایسی حدیث کی وجہ سے ہے جس میں بھی وضو ہی کا تذکرہ ہے، غسل کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی غسل کو اس پر نہیں قیاس کیا جاسکتا۔

والنبیذ المختلف الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وہ نبیز جس میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شیریں ہو اور پتلی ہو کہ پانی کی طرح اعضاء پر بہہ جائے، لیکن اگر کوئی نبیز گاڑھی ہو جائے تو باتفاق علماء وائمہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر نبیز کو آگ پر پکایا جائے تو جب تک اس میں رقت اور سیلان کا مادہ رہے گا اس وقت تک وہ اسی اختلاف پر رہے گی جو اوپر بیان کیا گیا، لیکن اگر پکانے کی وجہ سے نبیز میں گاڑھاپن آ گیا تو اس صورت میں چوں کہ امام صاحب رضی اللہ عنہ کے یہاں اس کا پینا حلال ہے، اس لیے اس سے وضو کرنا بھی جائز ہوگا، اور امام محمد رضی اللہ عنہ کے یہاں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک اس کا پینا بھی حلال نہیں ہے۔

فرماتے ہیں کہ نبیز تمر کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنی ہوئی نبیذوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ لیلۃ الجن والی حدیث سے خلاف قیاس نبیز تمر سے وضو کو جائز قرار دیا گیا ہے، لہذا دوسرے نبیذیں موجب قیاس پر باقی رہیں گی اور انھیں تمر پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیزوں کے بارے میں فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لایقاس علیہ یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو اس پر دوسری چیزوں کو نہیں قیاس کیا جاسکتا۔

# بَابُ التَّيْمِ

یہ باب تیمم کے احکام کے بیان میں ہے

صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے اصل یعنی پانی سے طہارت حاصل کرنے کے احکام کو پوری تفصیلات اور اس کے تمام متعلقات کے ساتھ بیان کیا ہے، اب یہاں سے بدل اور فرع یعنی تیمم سے حصول طہارت کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اور مسائل تیمم کو بعد میں بیان کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے وضو اور پھر تیمم کے احکام کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے یا ایہا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم - اس کے بعد فرمایا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا بدل ہے اور ظاہر ہے کہ اصل بدل سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے بھی پہلے اصل یعنی وضو کے احکام بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے بدل یعنی تیمم کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔

## تیمم کی تعریف:

تیمم کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔

اور تیمم کی شرعی تعریف یہ ہے القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهر یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنے کا نام شرعاً تیمم ہے۔

پھر تیمم کا ثبوت قرآن، حدیث اور اجماع سب سے ہے، قرآن میں تو صاف لفظوں میں فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا کے ذریعے اس کی مشروعیت کو آشکارا کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک حدیث پاک سے اس کی مشروعیت کا سوال ہے تو صاحب فتح القدر اور صاحب عنایہ کی تحقیق یہ ہے کہ غزوہ مرتسیع جو ۵ھ میں پیش آیا تھا اسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کھو گیا تھا اور وہیں یہ حکم نازل ہوا۔ اور اس سفر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف فرما تھے۔

دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بیان فرمایا جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، أينما أدرکتني الصلاة تيممتُ وصليتُ یعنی روئے زمین کا پورا حصہ میرے لیے مسجد اور طہارت بنایا گیا ہے جہاں بھی نماز کا وقت آجاتا ہے میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ (عنایہ ۱۲۵/۱)

اور اجماع سے اس کا ثبوت بایں معنی ہے کہ جب سے تیمم مشروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک امت محمدیہ علی

صاحبہا الصلاة والسلام کا اس پر عمل رہا ہے۔

﴿وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ أَوْ أَكْثَرَ يَتِمُّمُ﴾ بِالصَّعِيدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "الْتَرَابُ طَهُورٌ" ① الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجْحٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَالْمِيلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمِقْدَارِ، لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ، وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً، وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُونَ خَوْفِ الْفُوتِ، لِأَنَّ التَّفْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ .

**ترجمہ:** اور جو شخص پانی نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو اور اس کے اور شہر کے درمیان ایک میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، تو وہ مٹی سے تیمم کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم پانی نہ پاسکو تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد بھی دلیل ہے کہ مٹی مسلمان کے لیے طہور ہے اگرچہ دس سال تک وہ پانی نہ پائے۔ اور مقدار کے سلسلے میں میل ہی مختار ہے، کیوں کہ شہر میں جانے سے انسان کو حرج لاحق ہوگا اور پانی حقیقتاً معدوم ہے، اور مسافت کا اعتبار ہے نہ کہ نماز کے فوت ہونے کا خوف معتبر ہے، اس لیے کہ کوتاہی اسی کی طرف سے آئی ہے۔

### اللغات:

﴿مِيلٌ﴾ لسبائی ناپنے کا ایک پیمانہ جو دو ہزار گز کا ہوتا ہے۔ ﴿صَعِيدٌ﴾ سطح زمین، روئے زمین، اونچی زمین، مٹی۔ ﴿تَفْرِيطٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ کمی کرنا، ضائع کرنا، کوتاہی کرنا۔

### تخریج:

- ① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب جنب یتیم حدیث رقم ۳۳۳۔  
و ترمذی فی کتاب الطہارۃ باب التیمم للجنب اذا لم يجد الماء حدیث رقم ۱۲۴۔  
و بیہقی فی سننہ فی کتاب الطہارۃ باب الصعید الطیب حدیث رقم ۱۰۲۰۔

### تیمم کے جائز ہونے کی شرائط:

عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پر بالکل ہی قادر نہ ہو یعنی وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی ہی نہ ہو، یا پانی تو ہو مگر جس جگہ وہ موجود ہے وہاں سے ایک میل کے فاصلے پر ہو تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ پانی کے بجائے مٹی کی طرف متوجہ ہو اور مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس حکم کی پہلی دلیل تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اور دوسری دلیل کتاب میں مذکور حدیث ہے جس میں پانی نہ ملنے کی صورت میں دس سال تک تیمم سے طہارت حاصل کرنے کا حکم وارد ہوا ہے۔

والمیل الخ فرماتے ہیں کہ پانی کی دوری کے سلسلے میں ایک میل کی جو مسافت مقرر کی گئی ہے یہی درست ہے، کیوں کہ ایک میل کا فاصلہ اچھا خاصا فاصلہ ہے اور اس اس مقدار کو طے کرنے میں انسان کو حرج لاحق ہوگا جب کہ مشروعیت تیمم کا مقصد ہی

دفع حرج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک میل سے کم دوری پر پانی ہو تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جب پانی ایک میل کی دوری پر ہوگا تو یہی کہا جائے کہ اب حقیقتاً پانی معدوم ہے، اور حقیقتاً پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے، لہذا ایک میل پانی دور ہونے کی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی۔

والمعتبر المسافة الخ یہاں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جواز تیمم کے لیے ایک میل یا اس سے زیادہ کی مسافت کا اعتبار ہے اور یہی صحیح ہے، اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ نماز فوت ہونے کے خوف کا اعتبار ہے یہ درست نہیں ہے، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی ایک میل سے کم دوری پر ہو لیکن نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بل کہ پانی کے ایک میل دور ہونے کی صورت میں ہی تیمم کی اجازت ہوگی ہر چند کہ فوات صلاۃ کا اندیشہ ہو، اس لیے کہ نماز کو مؤخر کر کے فوت ہونے کی پوزیشن خود انسان کی طرف سے بنائی گئی ہے، لہذا اس حوالے سے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔

﴿وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اسْتَدَّ مَرَضُهُ يَتِيمٌ﴾ لِمَا تَلَوْنَا، وَلَآنَ الضَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الضَّرْرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ وَذَلِكَ يَبِيحُ التَّيْمُمَ فَهَذَا أَوْلَى، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رحمۃ اللہ علیہ خَوْفَ التَّلْفِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ النَّصِّ .

**ترجمہ:** اور اگر وہ شخص پانی پائے لیکن وہ بیمار ہے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ شخص تیمم کرے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مرض کے بڑھ جانے کا ضرر پانی کی قیمت کے اضافے والے ضرر سے بڑھا ہوا ہے اور اضافہ ثمن والا ضرر تیمم کو مباح کر رہا ہے تو یہ تو بدرجہ اولی تیمم کو مباح کرے گا۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس شخص کا مرض حرکت کرنے سے بڑھے یا پانی کو استعمال کرنے سے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہلاک ہونے کے خوف کا اعتبار کیا ہے، لیکن وہ ظاہر نص سے مردود ہے۔

## اللغات:

﴿ضَرَرَ﴾ نقصان، تکلیف، تنگی۔ ﴿ثَمَنٌ﴾ قیمت، ریٹ۔ ﴿تَلْفٌ﴾ ہلاک ہونا، ضائع ہونا۔

## بیمار کے لیے تیمم کے جائز ہونے کی صورت:

جواز تیمم کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی تو موجود ہے، لیکن وہ اتنا بیمار ہے کہ اگر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا شفا یاب ہونے میں تاخیر ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ لَعَلَّكُمْ تَوَلُّوْنَ الْمَسَاجِدَ فَارْتَمِسُوا عَلَيْهَا أَلْتَمِسُ الْجَنَّةَ لَمَّا سَأَلْتَهُ لَمَّا تَلَوْنَا فَمَنْ يَمَسُّهَا إِذَا اسْتَغْتَسَبَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لہذا اگر بیمار ہو جائے تو اسے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن قریب ہی میں ایک دوسرا شخص پانی لیے ہوئے ہے اور اسے

فروخت کر رہا ہے، مگر پانی کی جو اوسط قیمت ہے اس سے زائد قیمت مانگ رہا ہے، ایسی صورت میں پہلے شخص کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اضافہ ثمن کے ضرر کو دور کر کے تیمم کرے اور وضو نہ کرے، تو جب اضافہ ثمن کے ضرر کو دور کرنے کے لیے تیمم کی اجازت ہے تو اضافہ مرض کے ضرر کو دور کرنے کے لیے بدرجہ اولیٰ اس کی اجازت ہوگی، کیوں کہ اضافہ مرض والا ضرر زیادتی ثمن کے ضرر سے بڑھا ہوا ہے۔

ولا فرق الخ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مرض کی زیادتی خواہ جسم کو حرکت دینے سے ہو یا پانی استعمال کرنے سے دونوں صورتوں میں تیمم مباح اور جائز ہوگا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اس وقت تیمم مباح ہوگا جب پانی کے استعمال سے جان چلی جانے یا کسی عضو کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن اس کا یہ قول وإن کنتم مرضی کے ظاہر سے مردود ہے، اس لیے کہ آیت میں مطلق مرض کو جواز تیمم کی وجہ قرار دیا گیا ہے اور جان یا کسی عضو کے ہلاک ہونے کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے، اب اگر ہم کوئی اس طرح کی قید لگاتے ہیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی جو درست نہیں ہے۔

اور احناف نے جو اشد امرض کی شرط لگائی ہے وہ ظاہر نص کے معارض نہیں ہے، کیوں کہ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ما یرید اللہ علیکم من حرج کہہ کر یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جواز تیمم کی اصل اور بنیاد دفع حرج ہے اور ظاہر ہے کہ اشد امرض بھی ایک طرح کا حرج ہی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی تیمم مباح ہوگا، اور اضافہ مرض کی شرط لگانا کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوگی۔ (بنایہ، عنایہ)

﴿وَلَوْ خَافَ الْجُنُبُ أَنْ يَغْتَسِلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبُرْدُ أَوْ يُمْرِضَهُ يَتِيمًا بِالصَّعِيدِ﴾ وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا، وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ خِلَافًا لَهُمَا، هُمَا يَقُولَانِ إِنَّ تَحَقُّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ، وَلَهُ أَنْ الْعِجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا بَأْسَ مِنْ إِعْتِبَارِهِ.

**ترجمہ:** اور اگر جنبی کو یہ خدشہ ہو کہ اگر اس نے غسل کیا تو ٹھنڈک اس کو مار ڈالے گی یا اسے بیمار کر دے گی تو یہ شخص پاک منی سے تیمم کر لے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب وہ شہر سے باہر ہو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر شہر میں ہو تو بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہی حکم ہے۔ حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شہر میں کہ اس طرح کی صورت حال کا پیش آنا نادر ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ عجز حقیقتاً ثابت ہے، لہذا اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

## اللغات:

﴿يُمْرِضُ﴾ أَمْرٌ يُمْرِضُ، بِأَبِ إِفْعَالٍ؛ بِيَامَرِي فِي مِثْلِهِ كَرِنَا، بِيَامَرُ هُوَ جَانَا۔ ﴿عِجْزٌ﴾ اسْمٌ مُصَدَّرٌ، بِأَبِ سَمْعٍ؛ لَاجِرٌ هُوْنَا، بِيَسْ هُوْنَا۔

## شدید سردی میں جواز تیمم کا بیان:

جواز تیمم کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ پانی سے غسل کرنے کی صورت میں ٹھنڈک اسے ہلاک کر دے گی یا یہ کہ اسے بیمار بنا دے گی، تو اس صورت حال میں اگر یہ شخص شہر سے باہر ہے تب تو بالاتفاق اس کے لیے تیمم کرنا مباح اور جائز ہے، کیوں کہ ظاہر ہے اسے شہر میں آنے جانے سے حرج لاحق ہوگا، اور جب دفع حرج ہی کے لیے تیمم مشروع ہوا ہے، تو اس کے لیے تیمم کا جواز ہوگا، یہ حکم تو متفق علیہ ہے۔

حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص شہر کے اندر ہو اور ٹھنڈک سے اس قدر ڈرتا ہو تو بھی اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے، لیکن حضرات صاحبین اس صورت میں تیمم کی اجازت نہیں دیتے اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً شہروں میں گرم پانی وغیرہ کا نظم ہوتا ہے اور ٹھنڈک سے بچنے کی تدبیریں ہم دست رہتی ہیں، اس لیے شہر میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی شہر اور دیہات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو پانی پر قادر نہ ہونے کا ہے اور خوف ہلاکت کے پیش نظر یہ شخص پانی پر قادر نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں تیمم کی اجازت ہوگی۔

﴿وَالْتَيْمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِأَحَدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْآخَرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① التَّيْمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ، وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابُ كَيْ لَا يَصِيرَ مِثْلَهُ، ﴿وَلَا بَدَّ مِنْهُ إِلَّا اسْتِيعَابَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقِيَامِهِ﴾ مَقَامَ الْوُضُوءِ، وَلِهَذَا قَالُوا يُخَلِّلُ الْأَصَابِعَ وَيَنْزِعُ الْخَاتَمَ لِتَيْمُّمِ الْمَسْحِ.

**ترجمہ:** اور تیمم کی دو ضربیں ہیں جن میں سے ایک کے ذریعے اپنے چہرے کا مسح کرے اور دوسری سے اپنے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ تیمم کی دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے، اور تیمم کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا جھاڑے کہ مٹی جھڑ جائے تاکہ وہ مثلہ نہ ہو جائے۔ اور ظاہر الروایہ میں استیعاب ضروری ہے، اس لیے کہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے، اسی وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ مسح کرنے والا انگلیوں میں خلال کرے اور انگوٹھی بھی اتار لے، تاکہ مسح پورا ہو جائے۔

## اللغات:

﴿مِرْفَقٌ﴾ کہنی۔ ﴿يَنْفُضُ﴾ نَفَضَ يَنْفُضُ، باب نصر؛ جھاڑنا۔ ﴿يَتَنَاثَرُ﴾ تَنَاثَرُ يَتَنَاثَرُ، باب تفاعل؛ اتر کر گر جانا، ہٹ جانا، چھٹنا، جھڑنا۔

## تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارۃ باب التیمم حدیث رقم ۶۷۵، ۶۷۴.

## تیمم کا صحیح طریقہ:

نبی اکرم ﷺ کے فرمان التیمم ضربتان کے پیش نظر تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم حصول طہارت کی نیت سے دو مرتبہ اپنے



ہاتھوں کو زمین پر مارے، اور پہلی دفعہ میں اپنے چہرے کا مسح کرے جب کہ دوسری دفعہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرے، اور مسح کرنے سے پہلے اتنا اہتمام ضرور کرے کہ ہاتھوں کو زمین پر مارنے کے بعد اسے اچھی طرح جھاڑ لے، تاکہ مٹی اور گرد وغبار جھڑ جائے اور جب مسح کر چکے تو چہرہ بھد اور بدنمانہ معلوم ہو۔

ولا بد الخ فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایۃ کے مطابق مسح کرنے میں استیعاب شرط ہے کیوں کہ مسح وضو کے قائم مقام ہے اور وضو میں استیعاب شرط ہے، لہذا جب اصل یعنی وضو میں استیعاب شرط ہے تو فرع یعنی مسح میں تو بدرجہ اولیٰ شرط ہوگا، یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء نے مسح کے سلسلے میں یہ تاکید و تلقین فرمائی ہے کہ تیمم کرنے والے کو اپنی نگاہوں میں خلل کرنا چاہیے اور اگر انگوٹھی پہننے ہوئے ہو تو اسے اتار کر مسح کرنا چاہیے تاکہ علی وجہ الکمال والتمام مسح ہو سکے۔

صاحب بدایہ نے فی ظاہر الروایۃ کہہ کر اس روایت سے احتراز کیا ہے جو حضرت حسن بن زیادؓ نے امام اعظمؒ سے بیان کی ہے اور جس میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ تیمم میں استیعاب شرط نہیں ہے، بل کہ اگر اکثر حصے پر مسح کر لیا گیا تو کافی ہوگا جیسا کہ مسح خف اور مسح رأس میں اکثر کل کے قائم مقام ہے اور استیعاب شرط نہیں ہے، لیکن ظاہر الروایۃ وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور اسی پر عمل بھی ہے۔ (عنایہ ۱۳۰/۱)

﴿وَالْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ فِيهِ سَوَاءٌ وَكَذَٰلِكَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ﴾ لِمَا رُوِيَ ۱ أَنْ قَوْمًا جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالِ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ وَفِينَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالنِّفَسَاءُ، فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِأَرْضِكُمْ .

**ترجمہ:** اور تیمم میں حدث اور جنابت دونوں برابر ہیں نیز حیض اور نفاس کا بھی یہی حکم ہے، اس واقعے کی وجہ سے جو مروی ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہم ریگستان میں رہنے والے لوگ ہیں، اور مہینہ دو مہینہ تک ہمیں پانی نہیں ملتا جب کہ ہم میں جنبی، حائضہ اور نفساء (ہر طرح کے لوگ) ہوتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنی زمین کو لازم پکڑو (یعنی اسی سے طہارت حاصل کر لیا کرو)۔

### اللغات:

﴿رِمَالٌ﴾ اسم جمع، واحدرمَلٌ؛ ریت مجازاً ریگستان، صحرائی علاقہ۔

### تخریج:

① اخرجہ بیہقی فی السنن کتاب الطہارۃ باب ماروی فی الحائض و لنفساء حدیث رقم ۱۰۳۹۔

### حدث اصغر و اکبر میں تیمم کے مساوی ہونے کا بیان:

صاحب عنایہ اور علامہ محمود عینیؒ نے یہاں یہ تشریح کی ہے کہ جواز، کیفیت اور آلہ ہر اعتبار سے تیمم میں حدث اور جنابت دونوں کا حکم یکساں ہے، یعنی جو تیمم حدث اصغر کے لیے جن کیفیات اور لوازمات کے ساتھ کیا جائے گا اور کافی ہوگا وہی تیمم حدث

اکبر (غسل جنابت اور غسل حیض اور نفاس) کے لیے بھی کافی و دانی ہوگا اور اس میں کسی بھی طرح کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

در اصل یہ اس قول کی تردید ہے جس میں جنسی اور حائضہ وغیرہ کے لیے تیمم کو مشروع نہیں مانا گیا ہے، یہ قول حضرت عمر، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، صاحب بنایہ اور صاحب عنایہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس اختلاف کا منشا قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں وضو اور تیمم کا حکم مذکور ہے یعنی إذا قمتم سے او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممو صعيدا طيبا تک، اختلاف کی تفصیل یہ ہے کہ آیت میں جو لامستم کا بیان ہے وہ مس بالید پر محمول ہے یا جماع پر؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ نے اسے مس بالید پر محمول کیا ہے اور علت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلاف قیاس محدث کے لیے تیمم کو وضو کے قائم مقام بنایا ہے تو یہ اپنے مقتضی قیاس پر ہی منحصر ہوگا اور جنسی وغیرہ اس حکم میں شامل نہیں ہوں گے، کیوں کہ جنسی وغیرہ کا حدث محدث کے حدث سے بڑھا ہوا ہے۔

اس کے برخلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور علماء و فقہاء لامستم سے مجازاً جماع مراد لیتے ہیں اور سیاق آیت کے قرینے سے جنسی کے لیے بھی تیمم کو مشروع قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں محدث اور جنسی دونوں کا حکم بیان فرمایا ہے چنانچہ إذا قمتم سے لے کر وأرجلكم إلى الكعبين تک تو حدث اصغر کا بیان ہے، اس کے بعد وإن كنتم جنبا فاطهروا میں حدث اکبر کو بیان کیا گیا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں حکم طہارت کو مٹی کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر أو جاء أحد منكم من الغائط سے حدث اصغر کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے لامستم کو جماع پر محمول کیا جانا اس حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آیت وضو میں حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں داخل ہیں، اسی طرح آیت تیمم میں بھی دونوں داخل اور شامل ہو جائیں۔ (عنایہ ۱۳۱/۱، بنایہ ۵۰۳/۴)

اور پھر جنسی اور حائضہ وغیرہ کے لیے مشروعیت تیمم کی دلیل وہ حدیث تو ہے ہی جو کتاب میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے ریگستان کے باشندوں کو حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں مہینے دو مہینے تک تیمم کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت قرآنی لامستم سے جماع ہی مراد ہے اور آیت تیمم میں حدث اکبر بھی داخل ہے، کیوں کہ احادیث نبویہ قرآن کریم کی سب سے معتبر اور مستند تفاسیر ہیں اور یہ اس زبان ذیشان سے صادر ہوئی ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کا اعلان یہ ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ (شارح عقی عند)

﴿وَيَجُوزُ التَّيْمُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْتُرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَصِّ وَالنُّورَةِ وَالْكَحْلِ وَالزَّرْنِيخِ﴾ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ الْمُنْبِتِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُونُسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَيْمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، أَي تَرَابًا مُنْبِتًا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ عَلَيْهِ الرَّمْلَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَلَهُمَا أَنَّ الصَّعِيدَ اسْمٌ لَوَجْهِ الْأَرْضِ سَمِّيَ بِهِ لِصَعُودِهِ، وَالطَّيِّبُ يَحْتَمِلُ الطَّاهِرَ

فَحُمِلَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَلْتَقَ بِمَوْضِعِ الطَّهَارَةِ أَوْ هُوَ مُرَادُ الْإِجْمَاعِ.

**ترجمہ:** اور حضرات طرفین کے یہاں ہر اس چیز سے تیمم جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی، ریت، پتھر، گچ، چونا، سرمہ اور ہڑتال۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مٹی اور ریت ہی سے تیمم جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اگانے والی مٹی سے تیمم جائز ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہی ایک روایت ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صعیدا طیباً فرمایا ہے اور طیباً سے منجنا مراد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی فرمایا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے (ما قبل میں) ہماری بیان کردہ حدیث کی وجہ سے اس پر رمل (ریت) کا اضافہ فرمایا ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ صعید روئے زمین کا نام ہے اور (باطن ارض سے) اس کے اوپر چڑھنے ہی کی وجہ سے اس کا نام صعید رکھا گیا ہے۔ اور طیب طاہر کا احتمال رکھتا ہے، لہذا اسی پر محمول کر دیا گیا، کیوں کہ یہ مقام طہارت کے زیادہ لائق ہے، یا اجماع سے یہی مراد ہے۔

## اللغات:

﴿جَصَّ﴾ گچ۔ ﴿نُورَةٌ﴾ چونا۔ ﴿زُرْنِجٌ﴾ ایک دوا جس سے بال چھڑائے جاتے ہیں، ہڑتال۔

**تیمم کس چیز سے کیا جانا جائز ہے اور کس سے نہیں:**

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین رضی اللہ عنہم کے یہاں ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، مثلاً مٹی ہے اور ریت اور گچ وغیرہ ہیں، ان حضرات کے یہاں مذکورہ تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اول یہ ہے کہ مٹی اور ریت کے علاوہ کسی تیسری چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ایسی مٹی سے تیمم درست ہے جس میں اِنْبَات یعنی اگانے کی صلاحیت ہو، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم جائز نہیں ہے، یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ثانی اور قول مرجوع الیہ ہے۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صعیدا طیباً فرمایا کہ مٹی سے تیمم کرنے کی ایک صفت (طیباً) بھی بیان کر دی ہے اور یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ایسی مٹی سے تیمم کیا جائے جو وصف طیب سے متصف ہو، اب جب ہم طیب کے معنی میں غور کرتے ہیں تو اس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے منبتا کا معنی مراد لیا ہے، اس لیے اس تفسیر کے پیش نظر ہم بھی صعیدا کو منبتا کے معنی میں لیتے ہیں اور صعیدا کے ساتھ منبتا کی قید کا اضافہ کرتے ہیں، البتہ ما قبل میں جو علیکم بارضکم کا مضمون وارد ہوا ہے، اس کے پیش نظر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مراد لیا ہے، اس لیے اس تفسیر کے اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مرجوع قول ہے۔

ولہما الخ اس سلسلے میں حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ صعید روئے زمین کا نام ہے اور صعید کو اسی وجہ سے صعید کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندرونی حصوں کے بالمقابل اوپر ہے، اب جب صعید زمین کے بالائی حصے کا نام ہے تو اس حصے میں جس طرح تراب منبت موجود ہے اسی طرح تراب غیر منبت بھی موجود ہے، مثلاً ریت اور چونا وغیرہ، لہذا اب

صعید سے صرف تراب مراد نہیں ہوگی، بل کہ ہر وہ چیز مراد ہوگی جو زمین کی جنس سے ہوگی اور ظاہر ہے کہ ریت وغیرہ زمین کی جنس سے ہیں اس لیے ان سے بھی تیمم کرنا درست اور جائز ہوگا۔ اور صعید کے مفہوم کو تراب نبت کے ساتھ خاص کرنا مطلق کو بلا دلیل مقید کرنا ہوگا جو صحیح نہیں ہے۔

والطیب الخ یہاں سے امام شافعی کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ طیب جس طرح نبت کے معنی میں آتا ہے اسی طرح نظیف، ظاہر اور حلال ان سب کے معنی میں بھی آتا ہے، اب جب طیب کئی معنوں میں مشترک ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس مقام پر اس کا ذکر ہے وہ مقام کون سے معنی کا متقاضی ہے، جب ہم نے یہاں غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مقام طہارت ہے اور مقام طہارت میں طیب کو ظاہر یعنی پاک کے معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے ہم نے اسے پاک ہونے کے معنی پر محمول کر دیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ طیب ظاہر اور نبت وغیرہ کے معنی میں مشترک ہے اور موقع محل کے اعتبار سے بالا جماع اس سے ظاہر والا معنی مراد لے لیا گیا ہے، لہذا اب اس سے نبت کا معنی نہیں مراد لیا جائے گا، کیوں کہ ہمارے یہاں مشترک میں عموم نہیں چلتا۔ (عناویہ، نایہ)

﴿ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ غُبَارٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ﴾ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا، ﴿وَكَذَا يَجُوزُ بِالْغُبَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّعِيدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ﴾ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ تَرَابٌ رَفِيقٌ.

**ترجمہ:** پھر حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ کے یہاں مٹی پر غبار ہونا شرط نہیں ہے اُس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی ہے، نیز حضرات طرفین کے یہاں مٹی پر قدرت کے باوجود غبار سے تیمم کرنا جائز ہے، اس لیے کہ غبار پتلی مٹی ہے۔

### جواز تیمم کے لئے پتلی مٹی کے شرط نہ ہونے کا بیان:

اس مختصر عبارت میں دو مسئلے بیان کر دیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کے یہاں جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس پر گرد و غبار کا ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صعیدا طیباً کے ذریعہ مطلق مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں غبار وغیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، لہذا ہمیں بھی قید لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین اور امام شافعی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس موقع پر غبار ہونے کی قید لگائی ہے اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صعیدا طیباً کے بعد فامسحوا بوجوہکم وأیدیکم منہ فرمایا ہے اور منہ کی ضمیر صعید کی طرف راجع ہے نیز من یہاں تبعیضیہ ہے اور تبعیض کا مفہوم اسی وقت پورا ہوگا جب مٹی میں گرد و غبار ہو، اسی لیے ہمارے یہاں غبار شرط ہے۔

حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ منہ کی ضمیر میں جس طرح یہ احتمال ہے کہ وہ صعید کی طرف راجع ہے اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ضمیر محدث کی طرف راجع ہو، لہذا جب اس میں دوسرے مرجع کا احتمال ہے تو اس سے

استدلال کر کے غبار کے ہونے کو شرط قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں من بعض کے لیے نہ ہو، بل کہ ابتدا کے لیے ہو، اس صورت میں بھی آپ کا استدلال درست نہیں ہوگا۔  
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں مٹی کے ہوتے ہوئے بھی صرف غبار سے تیمم کرنا درست اور جائز ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں صعید مطلوب ہے اور غبار بھی صعید ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ وہ تلی مٹی ہے۔

﴿وَالنِّيَّةُ قَرَضٌ فِي التَّيْمُمِ﴾ وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ، لِأَنَّهُ حَلْفٌ عَنِ الْوُضُوءِ فَلَا يُخَالَفُهُ فِي وَصْفِهِ، وَلِنَا أَنَّهُ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ فَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ، أَوْ جُعِلَ طَهُورًا فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ، ثُمَّ إِذَا نَوَى الطَّهَارَةَ أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَجْرَاهُ، وَلَا يَشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّيْمُمِ لِلْحَدِيثِ أَوَّلُ الْجَنَابَةِ ﴿هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ﴾.

**ترجمہ:** اور تیمم میں نیت فرض ہے، لیکن امام زفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، کیوں کہ تیمم وضو کا بدل ہے، لہذا وصف میں وضو کے مخالف نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم قصد کی خبر دیتا ہے لہذا بدون قصد متحقق نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ مٹی کو ایک مخصوص حالت میں طہور بنایا گیا ہے، جب کہ پانی بذات خود مطہر ہے جیسا کہ گذر چکا۔  
پھر اگر تیمم کرنے والے نے طہارت یا استباحہ صلاۃ کی نیت کی تو یہ کافی ہے۔ اور صحیح مذہب میں حدیث یا جنابت کے لیے تیمم کی نیت کرنا شرط نہیں ہے۔

## اللُّغَاتُ:

﴿يُنْبِئُ﴾ أنبا ينبئ، باب افعال؛ خبر دینا، دلیل ہونا۔ ﴿اسْتِبَاحَةٌ﴾ اسم مصدر، باب استفعال؛ حلال ہونا، جائز ہونا۔

## تیمم میں نیت کے فرض ہونے کا بیان:

اس عبارت میں بھی دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تیمم کرنے کے لیے نیت فرض اور شرط ہے، جب کہ امام زفر رضی اللہ عنہ کے یہاں نیت کرنا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی شرط ہے۔ امام زفر رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ تیمم وضو کا خلیفہ اور بدل ہے اور اصل یعنی وضو میں نیت فرض نہیں ہے تو فرع اور بدل (تیمم) میں کیسے فرض قرار دی جاسکتی ہے جب کہ بدل وصف صحت میں اصل کے مخالف نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم تیمم میں نیت کو فرض قرار دے دیں، تو وصف صحت میں بدل کا اصل کے مخالف ہونا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

اس سلسلے میں ہماری دو دلیلیں ہیں (۱) پہلی دلیل یہ ہے کہ لفظ تیمم لغت میں قصد اور ارادے کے معنی میں مستعمل ہے اور قصد ہی کا دوسرا نام نیت ہے، اس لیے نیت کے بغیر تیمم کا تحقق نہیں ہوگا۔ (۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے اور مٹی ہر حال میں نماز کے لیے مطہر نہیں ہے، بل کہ مٹی کے مطہر ہونے کی شرط یہ ہے کہ پانی دستیاب نہ ہو اور تیمم نماز کے واسطے اور نماز کے ارادے سے کیا جا رہا ہو اور ارادے ہی کا نام نیت ہے، لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ تیمم میں نیت شرط ہے۔

اس کے برخلاف پانی کا مسئلہ ہے تو پانی میں نیت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پانی ہر حالت میں مطہر ہے اور بذات خود مطہر ہے، لہذا پانی کے استعمال میں نیت اور ارادے کو مشروط قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیمم کرنے والا صرف طہارت حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کرے یا نماز مباح ہونے کی نیت سے تیمم کرے تو یہ نیت کافی ہے۔ اور اسے اس طرح کی نیت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کہ میں حدث سے طہارت کی نیت کرتا ہوں، یا جنابت سے پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، یہی صحیح مذہب ہے، کیوں کہ تیمم کا مقصد ہی طہارت کی تحصیل ہے، لہذا اس مقصد کے لیے حدث کی نوع کو متعین کر کے طہارت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے الصحيح من المذہب کہہ کر ابو بکر رازی کے اس قول سے احتراز کیا ہے جس میں وہ حدث یا جنابت کے لیے الگ الگ نیت تیمم کے قائل ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدث اور جنابت کے لیے چوں کہ ایک ہی طرح کا تیمم کیا جاتا ہے، اس لیے نیت کے ذریعے ایک کو دوسرے سے ممتاز کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ظاہر مذہب کے خلاف ہے۔

﴿فَإِنْ تَيَمَّمْ نَصْرَانِي يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ تَيَمُّمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هُوَ تَيَمُّمٌ لِأَنَّهُ نَوَى قُرْبَةَ مَقْصُودَةٍ، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَلَهُمَا أَنْ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طَهُورًا إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ قُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَارَةِ، وَالْإِسْلَامُ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ يَصِحُّ بِدُونِهَا، بِخِلَافِ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ، لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَخْصُوصَةٌ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَارَةِ، وَإِنْ تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَضِّئٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ النَّيَّةِ .﴾

**ترجمہ:** چنانچہ اگر نصرانی نے اسلام لانے کے ارادے سے تیمم کیا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو حضرات طرفین کے یہاں وہ تیمم والائین رہ جائے گا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ (اب بھی) تیمم والا ہے، کیوں کہ اس نے ایک قربت مقصودہ کی نیت کر رکھی ہے۔

برخلاف مسجد میں داخل ہونے اور قرآن چھونے کے لیے تیمم کرنا، اس لیے کہ ان میں سے ایک بھی قربت مقصودہ نہیں ہے۔ حضرات طرفین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مٹی کو صرف ایسی مخصوص عبادت کا ارادہ کرنے کی صورت میں مطہر بنایا گیا ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، جب کہ اسلام ایسی قربت مقصودہ ہے جو بدون طہارت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ برخلاف سجدہ تلاوت کے، کیوں کہ وہ ایسی قربت مخصوصہ ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔

اور اگر نصرانی نے اسلام لانے کے ارادے کے بغیر وضو کیا پھر وہ اسلام لے آیا تو اب وہ با وضو ہے، جب کہ نیت شرط ہونے کی بنیاد پر امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔

## اللغات:

﴿مُصْحَفٌ﴾ مجلد کتاب، مراد ”قرآن مجید“۔ ﴿قُرْبَانِيَّةٌ﴾ نیکی، ایسا عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔

## تیمم کی تعریف میں اختلاف اقوال کا ثمرہ:

حل عبادت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربت مقصودہ سے مراد ایسی عبادت ہے جو مطلوب بنا کر بالذات ادا کی جائے اور کسی دوسری عبادت کے ضمن میں داخل نہ ہو۔ جیسے نماز اور روزہ وغیرہ۔

عبادت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نصرانی نے اسلام لانے کی نیت سے تیمم کیا اور پھر وہ اسلام لے آیا تو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں اس کا پہلے والا تیمم ختم ہو گیا، اب اگر وہ نماز وغیرہ پڑھنا چاہے اور پانی ہم دست نہ ہو تو اسے دوسرا تیمم کرنا ہوگا۔

اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اب بھی تیمم پر ہے اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے اسے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اس تیمم سے ایک ایسی مقصودہ (اسلام لانے کی) نیت کی ہے جس کی نیت کرنا فی الحال اس کے لیے صحیح ہے اور ہر وہ تیمم جو قربت مقصودہ کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ شرعاً معتبر ہوتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں نصرانی کا مذکورہ تیمم معتبر ہوگا اور اس تیمم سے اسے نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت ملے گی۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص صرف مسجد میں داخل ہونے یا قرآن چھونے کی نیت سے تیمم کرے تو وہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا یا قرآن چھونا قربت مقصودہ میں سے نہیں ہیں اور دوسری چیزوں کے ضمن میں آسکتی ہیں، مثلاً کوئی نماز کے لیے تیمم کرے تو ظاہر ہے وہ مسجد میں بھی جائے گا اور قرآن بھی پڑھے گا، الحاصل یہ دونوں قربت مقصودہ میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے کیا ہوا تیمم ان کی ذات تک محدود رہے گا اور اس تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ اسلام چوں کہ قربت مقصودہ ہے لہذا اس کے لیے کیے ہوئے تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔

ولہما الخ حضرات طرفین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مٹی بذات خود مطہر نہیں ہے بل کہ وہ صرف اس حالت میں مطہر ہے جب اس سے ایسی قربت مقصودہ کی ادائیگی کا ارادہ کیا جائے جو بدون طہارت صحیح نہ ہوتی ہو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اسلام ایسی قربت مقصودہ ہے جو بدون طہارت بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس نقطہ نظر سے اسلام کے لیے اس کا تیمم ہی نہیں ہوا اور چونکہ تیمم کرنے کی حالت میں نصرانی مسلم نہیں ہوا تھا اور غیر مسلم تیمم کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیت شرط ہے اور کافر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کا یہ تیمم ہی درست نہیں ہوا اور جب اس کا تیمم درست نہیں ہوا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس تیمم سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بل کہ اسے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

اس کے بالمقابل اگر کوئی مسلمان سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرتا ہے تو وہ اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت ایک عبادت مقصودہ ہے جو کسی کے ضمن میں نہیں ادا کی جاسکتی اور عبادت مقصودہ کی نیت سے کیے گئے تیمم سے نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے۔

وإن توضأ الخ اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں تیمم میں تو نیت شرط اور فرض ہے، مگر وضو میں نیت فرض یا شرط نہیں ہے۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نصرانی نے وضو کیا اور اس نے اسلام لانے کے ارادے سے نہیں، بل کہ یوں ہی وضو کر لیا، مگر پھر قدرت الہی اس پر مہربان ہوئی اور وہ اسلام لے آیا، تو اب ہمارے یہاں اسلام لانے کے بعد بھی وہ شخص با وضو ہے بشرطیکہ اسے حدث نہ لاحق ہوا ہو، اور اسی سابقہ وضو سے اگر وہ چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، لہذا کافر ہونے کی حالت میں بھی اس کا وضو معتبر ہے اور اس کی عدم اہلیت سے وضو کی معتبریت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور جب اس کا وضو معتبر ہے تو اسلام لانے کے بعد اگر وہ حدث نہ ہوا ہو تو اس وضو سے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے۔

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چون کہ وضو میں نیت شرط اور ضروری ہے اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے، اس لیے قبل الاسلام والا اس کا وضو معتبر نہیں ہوگا اور اسلام لانے کے بعد نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا۔

﴿فَإِنْ تَيَمَّمْ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ﴾ وَقَالَ زُفَرٌ رحمۃ اللہ علیہ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ، لِأَنَّ الْكُفْرَ يَنَافِيهِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْإِبْتِدَاءُ وَالْإِنْتِهَاءُ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ صِفَةٌ كَوْنُهُ طَاهِرًا فَاعْتِرَاضُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ لَا يَنَافِيهِ كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَى الْوُضُوءِ، وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ إِبْتِدَاءُ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُ.

**ترجمہ:** پھر اگر کوئی مسلمان تیمم کرنے کے بعد العیاذ باللہ مرتد ہو گیا اور اس کے بعد اسلام لے آیا تو وہ اپنے تیمم پر قائم ہے، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تیمم باطل ہو گیا، کیوں کہ کفر اس کے منافی ہے، لہذا اس حکم میں ابتداء اور انتہاء دونوں برابر ہوں گی، جیسے نکاح کی محرمیت۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم کے بعد اس شخص کے طاہر ہونے کی صفت باقی ہے، لہذا اس پر کفر کا پیش آنا اس کے لیے منافی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اگر وضو پر کفر طاری ہو جائے، اور ابتداء کافر کا تیمم نیت نہ ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے۔

## اللغات:

﴿ارْتَدَّ﴾ باب افتعال؛ الٹے پاؤں پھر جانا، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جانا۔ ﴿اعْتِرَاضٌ﴾ اسم مصدر، باب افتعال؛ پیش آ جانا، طاری ہو جانا، لگ جانا۔

## کفر کے تیمم پر اثر انداز ہونے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بحالت اسلام تیمم کیا پھر (العیاذ باللہ) وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب ہمارے یہاں اس کا پہلا تیمم باقی ہے اور اسے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا سابقہ تیمم ختم ہو گیا اور اب نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے اسے دوبارہ تیمم کرنا ہوگا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ کفر تیمم کے منافی ہے اور اس میں ابتداء اور انتہاء دونوں برابر ہیں یعنی جس طرح ابتداء کافر



کا تیمم درست نہیں ہے، اسی طرح بقاء اور انتہاء میں بھی کافر کا تیمم درست اور معتبر نہیں ہے، اور یہ مسئلہ مسئلہ محرمیت فی الزکاح کے عین مطابق ہے اور جس طرح اس میں ابتداء اور انتہاء دونوں برابر ہیں، اسی طرح اس میں بھی دونوں برابر ہیں۔

محرمیت فی الزکاح کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ اور شیر خوار بچے تھے، اسی حالت میں ان کے والدین نے ان دونوں کا نکاح کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح درست ہے، لیکن اگر نکاح کے بعد کسی عورت نے دونوں کو اپنا دودھ پلا دیا تو اب ان کا نکاح باطل ہو گیا، ہر چند کہ یہ نکاح ابتداء درست تھا، اس لیے کہ بقاء محرمیت پائی گئی، لہذا جس طرح انتہاء محرمیت پائی جانے کی وجہ سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح انتہاء کفر طاری ہونے کی وجہ سے تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب کسی شخص نے تیمم کر لیا تو تیمم کا وجود ختم ہو گیا، اور اب صرف تیمم کا حکم یعنی تیمم کرنے والے کا پاک ہونا باقی رہ گیا اور اس حکم پر کفر کے طاری ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ کفر طہارت کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ اگر کوئی مسلم شخص با وضو ہو اور پھر وہ مرتد ہو کر مسلمان ہو جائے تو اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وضو برقرار رہتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ارتداد کی وجہ سے صفت طہارت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ شخص علیٰ حالہ پاک صاف اور ظاہر رہے گا۔

وإنما لا یصح الخ فرماتے ہیں کہ ابتداء کافر سے تیمم معتبر نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ تیمم میں نیت شرط اور فرض ہے اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے، لیکن جب ایک مرتبہ اہلیت کے ساتھ اس نے تیمم کر لیا ہے تو کفر کی وجہ سے اس کا تیمم ختم نہیں ہوگا۔

﴿وَيَنْقِضُ التَّيْمَمَ كُلَّ شَيْءٍ يَنْقِضُ الْوُضُوءَ﴾ لِأَنَّهُ خَلَفَ عَنْهُ فَأَخَذَ حُكْمَهُ، ﴿وَيَنْقِضُهُ أَيضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ﴾ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ لَطْهُورِيَّةِ التُّرَابِ، وَخَائِفُ السَّبْعِ وَالْعَدْوِ وَالْعَطَشِ عَاجِزٌ حُكْمًا، وَالنَّائِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَادِرٌ تَقْدِيرًا، حَتَّى لَوْ مَرَّ النَّائِمُ الْمُتَيَّمِمُ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَيْمَمُهُ عِنْدَهُ، وَالْمُرَادُ مَا يَكْفِي لِلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِمَا دُونَهُ ابْتِدَاءً فَكَمَا انْتَهَاءً.

**ترجمہ:** اور ہر وہ چیز تیمم کو توڑ دیتی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، کیوں کہ تیمم کا وضو بدل ہے، لہذا تیمم نے اس کا حکم لے لیا، نیز پانی کا دیکھنا بھی تیمم کے لیے ناقص ہے بشرطیکہ تیمم کرنے والا اس کے استعمال پر قادر ہو، کیوں کہ مٹی کی طہوریت کے لیے جو غایت ہے اس میں وجود سے قدرت ہی مراد ہے۔ اور درندہ، دشمن اور پیاس سے ڈرنے والا شخص حکماً عاجز ہے جب کہ سویا ہوا شخص امام صاحب کے یہاں حکماً قادر ہے، حتیٰ کہ اگر سویا ہوا تیمم شخص پانی کے پاس سے گزرے تو امام صاحب رضی اللہ عنہ کے یہاں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔

اور پانی کا اتنی مقدار میں ہونا مراد ہے، جو وضو کے لیے کافی ہو، کیوں کہ اس سے کم پانی کا ابتداء ابھی اعتبار نہیں تھا، لہذا انتہاء ابھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

### اللغات:

﴿خَلَفَ﴾ بعد میں آنے والا، قائم مقام، نائب۔ ﴿غَايَةَ﴾ انتہاء، مقصود، غرض۔ ﴿سَبْعٌ﴾ درندہ۔ ﴿عَطَشٌ﴾ پیاس۔

## نواقض تیمم کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تیمم وضو کا بدل اور نائب ہے، لہذا ہر وہ چیز جو اصل اور اقویٰ یعنی وضو کے لیے ناقض ہوگی وہ بدل اور ضعیف یعنی تیمم کے لیے بدرجہ اولیٰ ناقض ہوگی، مثلاً حدث اور خروج ریح وغیرہ سے چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نواقض وضو تو تیمم کے لیے نواقض ہیں ہی، ان کے علاوہ اگر تیمم کرنے والا شخص پانی کو دیکھ لے اور اس کے استعمال پر قادر بھی ہو تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ صاحب ہدایہ نے جو إذا قدر علی استعمالہ کے ذریعے استعمال پر قادر ہونے کی شرط لگائی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حدیث پاک میں جو التراب طہور المسلم ولو بالی عشر حجج مالم یجد الماء فرمایا گیا ہے اس میں بھی وجدان سے قدرت ہی مراد ہے اور یہی قدرت ہی مٹی کے مطہر ہونے کی غایت اور انتہاء ہے، یعنی جب تیمم پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے گا تب مٹی کا مطہر ہونا باطل ہو جائے گا اور جب مٹی کا مطہر ہونا باطل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔

و خائف السبع الخ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تیمم کے باطل نہ ہونے کی ایک علت خوف ہے، یعنی اگر کوئی تیمم پانی پر قادر تو ہو مگر پانی کے پاس کوئی درندہ یا موذی جانور ہو یا دشمن ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ پانی لینے اور اسے استعمال کرنے کی صورت میں اس کی جان یا اس کا مال ہلاک ہو جائے گا یا پھر اس کے پاس موجود پانی اتنا کم اور معمولی ہو کہ اگر وہ اس پانی سے وضو کر لے تو پیاس سے پریشان ہو جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں وہ شخص حکماً عاجز اور استعمال علی الماء کے متعلق غیر قادر شمار کیا جائے گا اور اس کا تیمم باقی اور برقرار رہے گا۔

والنائم الخ فرماتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام کے یہاں اگر کوئی شخص تیمم ہے اور بحالت تیمم سویا ہوا ہے تو اسے حکماً پانی پر قادر شمار کیا جائے گا، اس دوران اگر وہ شخص سوتا ہو پانی کے پاس سے گزر جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، کیوں کہ یہ حکماً پانی پر قادر ہے اور ایک ایسے عذر کی وجہ سے حقیقتاً پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو سکا جو خود اسی کی جانب سے پیش آیا ہے، یعنی سونا، لہذا شریعت کی نظر میں وہ معذور نہیں ہوگا اور اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔

والمراد ما یکفی الخ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پانی پانے اور اس کے استعمال پر قادر ہونے یا نائم کے اس پر سے گذرنے کی بات کہی ہے، اس سے مراد اتنی مقدار میں پانی کا ہم دست ہونا ہے جو وضو کے لیے کافی ہو، کیوں کہ جب ابتداء میں اس سے کم پانی کا اعتبار نہیں ہے تو انتہاء میں اسے کیوں کر معتبر مانیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہو لیکن اتنا پانی نہ ہو جو وضو کے لیے کافی ہو تو اس شخص کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح اگر کوئی تیمم پانی پا جائے لیکن وہ پانی وضو کے لیے کافی نہ ہو تو وجدان ماء کی وجہ سے اس کا تیمم باطل نہیں ہوگا۔

﴿وَلَا يَتِيمٌ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ﴾ لَأَنَّ الطَّيِّبَ أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِرُ، وَلِأَنَّهُ أَلْفٌ التَّطْهِيرِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْمَاءِ.

ترجمہ: اور صرف پاک مٹی ہی سے تیمم کرے، کیوں کہ طیب سے ظاہر مراد لے لیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ مٹی پاک کرنے کا

آلہ ہے، لہذا پانی کی طرح بذات خود اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔

### توضیح:

فرماتے ہیں کہ تیمم کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صرف پاک مٹی یا اس کی ہم جنس پاک چیزوں سے ہی تیمم کرے اور اس حکم کی دو دلیلیں ہیں (۱) قرآن کریم کی آیت فتمموا صعبا طيبا میں طیب سے ظاہر مراد ہے، اس لیے جس چیز سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے (۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ تیمم کرنے والے کے لیے مٹی پاک کرنے کا آلہ ہے، لہذا جس طرح پانی پاک کرنے کا آلہ ہے اور بذات خود پاک ہے اسی طرح مٹی کا بھی بذات خود پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔

﴿وَيَسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ يَتَوَضَّأُ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ﴾ لِيَقَعَ الْأَدَاءُ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ، فَصَارَ كَالطَّامِعِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأَصُولِ أَنَّ التَّأخِيرَ حَتْمٌ، لِأَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ، وَجَهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا بِبَيِّنٍ مِثْلِهِ.

**ترجمہ:** اور پانی نہ پانے والے کے لیے جب کہ اسے پانی کی امید ہو آخر وقت تک نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے، چنانچہ اگر پانی پالے تو وضو کر لے، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تاکہ دو طہارتوں میں سے اکمل طہارت سے نماز کی ادائیگی ہو، اور ایسا شخص جماعت کی لالچ میں انتظار کرنے والے شخص کی طرح ہے۔ اور حضرات شیخین سے اصول کے علاوہ دیگر روایتوں میں یہ منقول ہے کہ نماز کو مؤخر کرنا ضروری ہے، کیوں کہ غالب رائے امر متحقق کی طرح ہے۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں حقیقتاً عجز ثابت ہے، لہذا اسی جیسے یقین کے بغیر اس کا حکم زائل نہیں ہوگا۔

### اللغات:

﴿عَادِمٌ﴾ اسم فاعل، باب کرم؛ نہ پانے والا، کھونے والا، تہی دست۔ ﴿طَامِعٌ﴾ اسم فاعل، باب فتح؛ لالچ کرنا، حرص کرنا۔ ﴿حَتْمٌ﴾ لازمی، قطعی، ضروری۔

### پانی نہ ہونے کی صورت میں تاخیر صلاۃ کے استحباب کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پانی ہم دست نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا اور اسے نماز پڑھنی ہے، اب وہ کیا کرے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یا آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرے؟ اس سلسلے میں ظاہر الروایۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے پانی ملنے کی امید ہو تب تو وہ آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرے اور پانی مل جانے کی صورت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے، تاکہ اکمل الطہارتین یعنی وضو سے نماز کی ادائیگی ہو۔ لیکن اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو اس شخص کے لیے نماز کو مؤخر کرنا مستحب نہیں ہے۔ اور یہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو با وضو ہو اور نماز پڑھنا چاہتا ہو، لیکن اس امید سے نماز کو مؤخر کر رہا ہو تاکہ کوئی دوسرا نمازی بھی مل جائے اور جماعت سے نماز پڑھ لے،

تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر کسی دوسرے کے ملنے کا امکان ہو تب تو تاخیر مستحب ہے ورنہ نہیں، بلکہ صورت مسئلہ میں بھی اگر پانی ملنے کی امید ہو تب تو نماز مؤخر کی جائے ورنہ تیمم کر کے پڑھ لی جائے۔

اس سلسلے میں حضرات شیخین سے اصول کے علاوہ نوادر اور آمانی وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ اگر مذکورہ شخص کو پانی ملنے کی توقع ہو تو اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا لازمی اور ضروری ہے، کیوں کہ یہاں اس شخص کو پانی ملنے کی امید ہے اور غالب رائے کو متحقق شدہ امر کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے ایسی صورت حال میں نماز کی تاخیر ضروری ہے۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں حقیقتاً عجز ثابت ہے اور اس شخص کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لہذا جب پانی نہ ملنے سے حقیقتاً عجز ثابت ہے تو جب تک حقیقی اور یقینی طور پر پانی نہ مل جائے اس وقت تک یہ عجز ختم نہیں ہوگا، کیوں کہ حقیقتاً ثابت ہونے والی چیزوں کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت بیقین لا یرتفع إلا بیقین مثله یعنی جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین کے بغیر غالب رائے وائے سے نہیں ختم ہوتی (الاشاہ ص ۸۰) اس لیے صورت مسئلہ میں بھی جب تک یقینی طور سے پانی دستیاب ہونے کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک تیمم کا حکم باقی اور برقرار رہے گا۔

﴿وَيُصَلِّي بَتَيْمَمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ﴾ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَتَيْمَمٍ لِكُلِّ فَرَضٍ، لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ، وَلِنَا أَنَّهُ طَهُورٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِيَ شَرْطُهُ.

**ترجمہ:** اور تیمم اپنے تیمم سے فرائض اور نوافل میں سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر فرض نماز کے لیے تیمم کرے، کیوں کہ تیمم طہارت ضروری یہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم مطہر ہے، لہذا جب تک اس کی شرط باقی رہے گی وہ پانی کا کام کرتا رہے گا۔

**ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھنے کے جواز کا بیان:**

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تیمم کرنے والا ایک تیمم سے فرض اور نفل ملا کر متعدد نمازیں پڑھ سکتا ہے، خواہ ایک وقت میں پڑھے یا الگ الگ اوقات میں پڑھے، جب تک اس کا تیمم باقی رہے گا اس وقت تک وہ نماز وغیرہ پڑھتا رہے گا بشرطیکہ اس دوران حدث لاحق نہ ہو اور تیمم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ تیمم ایک تیمم سے ایک فرض ادا کر سکتا ہے، البتہ نوافل میں ان کے یہاں بھی توسع ہے اور وقت کے اندر جتنی چاہے نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ (بنایہ)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ تیمم ایک طہارت ضروریہ ہے بایں معنی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں بحالت عجز مٹی کو مطہر مان کر اس سے تیمم کرنے اور اس تیمم سے نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جب ایک تیمم سے ایک فرض نماز ادا کر لی گئی تو چوں کہ اس کی ضرورت ختم ہوگئی، اس لیے دوسری فرض نماز ادا کرنے کے لیے دوبارہ تیمم کرنا ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کا مطہر ہونا نص سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے الصعیذ

الطیب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين کہ اگر دس سال تک کسی مسلمان کو پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی اس کے لیے وضوء کے قائم مقام ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مٹی کا مطہر ہونا پانی نہ ملنے کی شرط کے ساتھ خاص ہے، لہذا جب تک یہ شرط پائی جائے گی مٹی مطہر رہے گی اور تیمم ایک تیمم سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، خواہ فرائض پڑھے یا نوافل پڑھے۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تیمم وضوء کا نائب اور اس کا بدل ہے تو جس طرح ایک وضوء سے متعدد نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بھی متعدد نمازیں پڑھی جائیں گی ورنہ بدایت میں نقص اور کمی لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

﴿وَيَتِيمٌ الصَّحِيحُ فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنْ اشْتَعَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ﴾  
 لِأَنَّهَا لَا تَقْضَى فَيَتَحَقَّقُ الْعِجْزُ، وَكَذَا مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ ﴿فَخَافَ إِنْ اشْتَعَلَ بِالطَّهَارَةِ﴾ أَنْ تَقُوتَهُ الْعِيدُ يَتِيمٌ،  
 لِأَنَّهَا لَا تَعَادُ، وَقَوْلُهُ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ  
 الصَّحِيحُ، لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْإِعَادَةِ فَلَا قَوَاتٍ فِي حَقِّهِ.

**ترجمہ:** اور جب جنازہ حاضر ہو تو تندرست آدمی شہر میں تیمم کر سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ولی نہ ہو اور اسے یہ خوف ہو کہ اگر وضوء کرنے میں مشغول ہو تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، کیوں کہ نماز جنازہ کی قضا نہیں کی جاتی، لہذا عجز متحقق ہے، نیز وہ شخص جو عید کی نماز کے لیے جائے اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ وضوء میں مشغول ہونے سے نماز عید فوت ہو جائے گی، تو وہ بھی تیمم کر لے، اس لیے کہ نماز عید کا بھی اعادہ نہیں کیا جاتا۔

اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا والولی غیرہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ولی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اور یہی صحیح ہے، کیوں کہ ولی کو اعادہ کا حق حاصل ہے، اس لیے اس کے حق میں فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔

## اللغات:

﴿تَعَادُ﴾ صيغة مجہول، باب افعال؛ لوانانا۔

## جواز تیمم کی چند نادر صورتیں:

حل عبارت سے پہلے ایک ضابطہ ذہن میں رکھیے تاکہ عبارت فہمی میں آسانی ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو بغیر بدل کے ہو اور فوت ہو جانے کے بعد اس کی قضا نہ ہوتی ہو، اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ادائیگی کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر جنازہ بالکل تیار ہو اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں اس حالت میں کوئی شخص پہنچتا ہے اور وضوء کرنے سے نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے تیمم کر کے نماز میں شریک ہونا جائز ہے ہر چند کہ وہ تندرست ہو، پانی پر قادر ہو اور شہر میں مقیم ہو۔

صاحب قدوری نے صحیح کی قید یہ بتانے کے لیے لگائی ہے کہ مریض کے لیے ہر حال میں تیمم جائز ہے، خواہ شہر میں ہو یا

دیہات میں، ولی ہو یا ولی نہ ہو، اسی طرح نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ اور فی المصنوع کہہ کر جنگل اور بیابان کو خارج کر دیا ہے، کیوں کہ جنگل میں بھی عموماً پانی ہم دست نہیں ہوتا، لہذا وہاں بھی سب کے لیے تیمم کی گنجائش ہے۔

یہی حال عید کی نماز کا بھی ہے کہ اگر اس کے بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے اسے پڑھا جاسکتا ہے کیوں کہ یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے اور فوت ہونے کے بعد ان کی قضاء بھی نہیں ہے، اس لیے ان نمازوں میں اگر اس طرح کی صورت حال پیش آجائے تو ثبوت عجز عن الماء کی وجہ سے تیمم کی اجازت ہوگی۔

وقوله الخ فرماتے ہیں کہ امام قدوریؒ نے نماز جنازہ کے متعلق جو الولی غیرہ (یعنی یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ولی نہ ہو اور صورت حال شہر کی ہو) کی شرط لگائی گئی ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جنازے کے ولی کے ساتھ اس طرح کی صورت حال پیش آئے تو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ اس کے حق میں فوت صلاۃ کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے، لہذا اس کے حق میں جواز تیمم کی علت (خوف فوت) مفقود ہے، اس لیے اسے تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی حضرت حسن بن زیادؒ نے امام اعظم سے روایت کی ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔

صاحب کتاب نے صحیح کہہ کر ظاہر الروایہ سے احتراز کیا ہے جس میں یہ حکم مذکور ہے کہ ولی کے لیے بھی فوت ہونے کے اندیشے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہے، کیوں کہ جنازہ میں تاخیر مکروہ ہے۔ (عیانہ ۱۴۱/۱)

﴿وَأِنْ أَحَدَتْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ تَيْمَّمَ وَبَنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَالَا لَا يَتَيْمَّمُ لِأَنَّ الْوَجْهَ يُصَلِّي بَعْدَ فَرَغِ الْإِمَامِ فَلَا يَخَافُ الْفَوْتَ، وَلَهُ أَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ لِأَنَّهُ يَوْمَ زَحْمَةَ فَيَعْتَرِيهِ عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا شَرَعَ بِالْوُضُوءِ، وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّيْمُمِ وَبَنَى بِالإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ لَوْ أَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ يَكُونُ وَاحِدًا لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ فَيُفْسَدُ .﴾

**ترجمہ:** اور اگر عید کی نماز میں امام یا مقتدی کو حدیث لاحق ہو گیا تو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے یہاں وہ شخص تیمم کر کے نماز کی بنا کر لے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تیمم نہ کرے، کیوں کہ لاحق امام کی فراغت کے بعد نماز پوری کر سکتا ہے، لہذا اس کے حق میں فوت ہونے کا خوف نہیں ہے، حضرت امام صاحبؒ کی دلیل یہ ہے کہ ابھی بھی خوف باقی ہے، کیوں کہ وہ (عید) بھیڑ بھاڑ کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسا عارض پیش آجائے جو اس کی نماز کو فاسد کر دے۔

اور اختلاف اس صورت میں ہے جب اس نے وضو کر کے نماز شروع کی ہو، لیکن اگر تیمم سے نماز شروع کی ہو تو بالاتفاق تیمم کر کے نماز کی بنا کر لے، اس لیے کہ اگر ہم (اب) وضو کو واجب قرار دے دیں تو وہ شخص اپنی نماز میں پانی کو پانے والا ہو جائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

## اللغات:

﴿أَحَدَتْ﴾ باب إفعال؛ وضو ٹوٹ جانا، حدیث لاحق ہو جانا۔ ﴿زَحْمَةَ﴾ بھیڑ،جوم۔ ﴿يَعْتَرِيهِ﴾ باب افتعال؛

پیش آنا، لاحق ہونا۔

## عیدین کی نماز میں تیمم کے جواز کی وضاحت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز میں امام یا مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جا کر تیمم کرے اور اپنی نماز کی بنا کرے، خواہ اس نے وضو سے نماز شروع کی تھی یا تیمم سے، حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس شخص نے وضو کر کے نماز شروع کیا تھا تو اب اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بل کہ یہ شخص جا کر وضو کرے اور پھر آ کر اپنی نماز کی بنا کرے۔

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ شخص اپنی نماز شروع کر چکا ہے تو یہ لاحق ہے اور لاحق شخص (نماز کو پانے والا) امام کی فراغت کے بعد بھی اپنی نماز پوری کر سکتا ہے، اس لیے اس کے حق میں جواز تیمم کی علت (خوف فوت صلاۃ) مفقود ہے، لہذا اسے تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ لاحق ہونے کے باوجود اس شخص کے حق میں فوت ہونے کا اندیشہ برقرار ہے بایں معنی کہ عید کا دن اژدحام اور بھیڑ بھاڑ کا دن ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ وضو کر کے واپس آئے اور جب تک نماز ختم ہو جائے اور کوئی اسے سلام کر لے، یہ شخص اس کا جواب دیدے، یا کوئی اسے عید کی مبارک باد دے اور یہ اسے قبول کر لے (عنایہ) یا اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا عارض پیش آجائے جو اس کی نماز کو فاسد کر دے، اور بعد میں یہ قضاء بھی نہ کر سکے (کیوں کہ نماز عید کی قضا نہیں ہوتی) الحاصل اس شخص کے حق میں خوف فوت اب بھی موجود ہے اس لیے تحقق عجز کے پیش نظر اس کے لیے تیمم کی اجازت اور گنجائش ہوگی۔

والخلاف الخ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس صورت میں ہے جب اس شخص نے وضو کر کے نماز کو شروع کیا تھا، لیکن اگر اس نے تیمم سے نماز شروع کیا تھا تو اس صورت میں بالاتفاق اس کے لیے تیمم کر کے بنا کرنے کا حکم ہوگا، کیوں کہ اگر اس صورت میں وضو کو لازم قرار دے دیا جائے تو یہ شخص دوران نماز ہی پانی پر قادر ہو جائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ تیمم کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے تیمم کر کے نماز شروع کیا اور نماز پوری کرنے سے پہلے پانی پر قادر ہو گیا تو اس کے لیے نماز کا اعادہ ضروری ہے۔

﴿وَلَا يَتِيمٌ لِلْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْ تَوَضَّأَ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّىهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا﴾ لِأَنَّهَا تَفَوَّتْ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ، بِخِلَافِ الْعِيدِ، ﴿وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ لَمْ يَتِيمٌ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْتَضِي﴾ مَا فَاتَهُ، لِأَنَّ الْفَوَاتَ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ.

**ترجمہ:** اور جمعہ کے لیے تیمم نہ کرے ہر چند کہ وضو کرنے سے اس کے فوت ہونے کا خوف ہو، چنانچہ (اگر وضو کر کے) جمعہ کو پالے تو جمعہ پڑھے، ورنہ چار رکعت ظہر پڑھے، کیوں کہ جمعہ ایک بدل کی طرف فوت ہوتا ہے اور وہ ظہر ہے، برخلاف عید کے۔ اور

ایسے ہی جب وضو کرنے سے وقت نکلنے کا خوف ہو، تو بھی تیمم نہ کرے اور وضو کر کے فوت شدہ نماز کی قضاء کر لے، کیوں کہ یہاں بھی ایک بدل یعنی قضاء کی طرف فوت تحقق ہوا ہے۔

**جمعے کے لیے تیمم کے عدم جواز کا بیان:**

یہ تمام مسائل اسی ضابطے پر متفرع ہو رہے ہیں جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی اگر فوات رالی خلف اور رالی بدل ہے تو اس صورت میں پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وضو میں لگنے اور مشغول ہونے کی وجہ سے اس کا جمعہ فوت ہو جائے گا تو بھی اس شخص کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بل کہ وہ وضو کر کے ہی نماز کے لیے جائے، اگر جمعہ مل جائے تو فیہا و نعمت، ورنہ ظہر کی چار رکعت پڑھ لے، اس لیے کہ اگرچہ یہاں فوات جمعہ کا اندیشہ ہے، مگر یہ فوات ایک بدل یعنی ظہر کے ساتھ ہے، اس لیے اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

و کذا الخ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی صورت میں نماز کا وقت نکل جائے گا، اس لیے تیمم کر کے وقت کے اندر نماز پڑھ لی جائے، تو اس خدشے کی وجہ سے بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ یہاں بھی فوتِ صلاة ایک بدل اور تائب کی طرف منتقل ہے اور وہ قضاء ہے، یعنی اگرچہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کی نماز کا وقت نکل جائے گا، مگر چونکہ بعد میں اس کی قضاء کی جاسکتی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف عید کا مسئلہ ہے، وہاں چونکہ فوات لا الی بدل ہوتا ہے اور عید کی قضاء بھی نہیں ہوتی، اس لیے عیدین میں تو ایسا کرنے (تیمم) کی اجازت ہوگی۔

وَالْمَسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمْ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمْ يُعِدْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ أَبُو يُونُسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعِيدُهَا وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ، وَذِكْرُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدِهِ سَوَاءٌ، لَهُ أَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ فَنَسِيَ، وَلَآنَ رَحْلَ الْمَسَافِرِ مَعْدَنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً فَيَفْتَرِضُ الطَّلُبَ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ بَدُونِ الْعِلْمِ وَهِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ، وَمَاءُ الرَّحْلِ مَعْدَنٌ لِلشُّرْبِ، لَا لِلِاسْتِعْمَالِ، وَمَسْأَلَةُ الثَّوْبِ عَلَى الْإِخْتِلَافِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ فَفَرَضُ السِّتْرِ يَقُوتُ لَا إِلَى خَلْفٍ، وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ تَقُوتُ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ التَّيَمُّمُ.

**ترجمہ:** اور اگر مسافر اپنے کجاوے میں پانی بھول گیا اور تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی پھر پانی یاد آیا تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نماز کا اعادہ نہ کرے، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے۔ اور اختلاف اس صورت میں ہے جب اس نے بذات خود پانی رکھا ہو، یا اس کے حکم سے دوسرے نے رکھا ہو۔ اور پانی کا یاد کرنا وقت کے اندر اور بعد میں برابر ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص پانی کو پانے والا ہے، لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسے اس کے کجاوے میں کپڑا تھا اور وہ



اسے بھول گیا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ مسافر کا کجاوہ عموماً پانی رکھنے کا معدن ہوتا ہے، اس لیے پانی طلب کرنا فرض ہوگا۔  
حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ علم کے بغیر قدرت متحقق نہیں ہوتی اور (آیت تیمم میں) وجود سے قدرت ہی مراد ہے، اور کجاوے کا پانی پینے کے لیے رکھا جاتا ہے نہ کہ استعمال کے لیے، اور کپڑے والا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے، اور اگر اس کو متفق علیہ مان لیں تو بھی ستر کا فرض بدون ناسب فوت ہوگا، جب کہ طہارت بالماء ایک بدل کے ساتھ فوت ہوگی اور وہ (بدل) تیمم ہے۔

## اللغات:

﴿رَحْلٍ﴾ پالان، کجاوہ، اونٹ پر رکھے جانے والی لکڑی کی نشست جس میں سامان سفر بھی رکھا جاتا ہے۔ ﴿مَعْدَنٍ﴾ کسی چیز کے پائے جانے کی اصل اور سرچشمہ، جز۔

## پانی پر قدرت نہ ہونے کی تحدید میں اختلاف احوال اور اس کا ثمرہ:

عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے، دوران سفر وہ اپنے کجاوے سے نیچے اُترا اور کجاوے تک نہیں پہنچا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اس کے کجاوے میں پانی موجود ہے مگر اس وقت اسے یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرے کجاوے میں پانی ہے، اس صورت حال میں اگر وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں اس کی نماز درست ہوگی اور پانی یاد آنے کے بعد اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ پانی یاد آنے کے بعد اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے، خواہ وقت باقی ہو یا نہ باقی ہو، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید ہے اور امام احمد کی ایک روایت ہے۔ (بنایہ)

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب وہ شخص خود ہی پانی رکھ کر بھول گیا ہو، یا کسی دوسرے کے ذریعہ رکھوایا ہو اور پھر خود بھول گیا ہو، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی تیسرے شخص نے کجاوے میں پانی رکھا ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو تو اس صورت میں بالاتفاق اس کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہے اور اعادہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ دوسرے کے فعل اور دوسرے کے علم کی بنیاد پر تیسرے شخص کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ (عنایہ)

بہر حال مسئلہ کتاب کے سلسلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ کجاوے میں پانی ہوتے ہوئے اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ تیمم اس آدمی کے لیے مشروع ہے جو پانی پر قادر نہ ہو، حالانکہ کجاوے میں پانی موجود ہونے کی وجہ سے یہ شخص پانی پر قادر ہے، اس لیے اس کا تیمم جائز نہیں ہو اور جب تیمم جائز نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ نماز بھی درست نہیں ہوئی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے۔

اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس کجاوے میں کپڑا ہو مگر وہ اسے بھول گیا ہو اور برہنہ ہو کر اس نے نماز پڑھ لی ہو، تو اس صورت میں بھی اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں پانی بھولنے والے پر بھی نماز کا اعادہ ضروری ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ عام طور پر مسافروں کے کجاوے میں پانی رکھا جاتا ہے اور اس کے رکھنے کا نظم بھی کیا جاتا ہے، لہذا اس شخص پر نماز کے وقت پانی طلب کرنا لازم تھا مگر اس نے ایسا نہ کر کے تیمم کی راہ اپنائی، اس لیے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا کیا ہوا تیمم بھی درست نہیں ہوگا، نتیجتاً اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب اسے پانی یاد ہی نہیں رہا اور غلبہ نسیان کی وجہ سے پانی کا علم ہی نہیں رہا تو وہ شخص پانی کے استعمال پر قادر بھی نہیں رہا (اگرچہ اس کے کجاوے میں پانی موجود ہو) اور جب وہ پانی پر قادر نہیں رہا تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز تھا، کیوں کہ فلم تجدوا ماء میں وجدان ماء سے قدرة على الماء ہی مراد ہے اور جب اس کا تیمم درست تھا تو اس کی نماز بھی درست ہوئی، اس لیے اب اسے نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ مسافر کے کجاوے میں عموماً پانی رہتا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر کے کجاوے میں جو پانی رہتا ہے وہ پینے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ وضو کرنے کے لیے، اسی وجہ سے عام طور پر کجاوے والے ایسی جگہ اترتے اور پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں انھیں پانی کی کوئی امید اور آس نظر آتی ہے، تاکہ ضروریات سے فارغ ہونے اور وضو وغیرہ کرنے میں سہولت ہو۔  
ومسألة الثوب الخ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی دلیل کو مؤکد اور مضبوط کرنے کے لیے اسے مسئلہ ثوب پر قیاس کیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے اس قیاس کی تردید فرما رہے ہیں، تردید کی پہلی صورت الزامی ہے کہ مسئلہ ثوب یعنی کپڑا بھول جانے کی صورت میں برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان مختلف فیہ ہے، اس لیے ہمارے خلاف اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔

تردید کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ کپڑے کا مسئلہ متفق علیہ ہے تو اس صورت میں اس کی توجیہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت بدن کا چھپانا اور بدن کو ڈھانکنا فرض ہے، لیکن اگر یہ فرض فوت ہو جائے اور انسان نسیان یا کسی اور وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو پھر اس کا کوئی بدل اور خلیفہ نہیں ہے، اس کے برخلاف نسیان ماء کا مسئلہ ہے کہ پانی بھول جانے کی صورت میں طہارت بالماء کے فوت ہونے کے وقت اس کا بدل اور خلیفہ یعنی تیمم موجود ہے اور ان دونوں مسئلوں میں یہی فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

﴿وَلَيْسَ عَلَى الْمُتِمِّمِ طَلْبُ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنْ يَقْرُبَهُ مَاءٌ﴾ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفَلَوَاتِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْوُجُودِ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدًا، ﴿وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءٌ لَمْ يَجْزُ لَهُ﴾ أَنْ يَتِمِّمَ ﴿حَتَّى يَطْلُبَهُ﴾ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ نَظْرًا إِلَى الدَّلِيلِ، ثُمَّ يَطْلُبُ مِقْدَارَ الْغُلُوةِ، وَلَا يَبْلُغُ مِيلًا كَمَا لَا يَنْقَطِعُ عَنْ رَفَقَتِهِ.

**ترجمہ:** اور تیمم کرنے والے پر پانی کو تلاش کرنا واجب نہیں ہے، جب اس کا غالب گمان یہ نہ ہو کہ اس کے قریب پانی ہے، کیوں کہ جنگلوں میں پانی کا نہ ہونا ہی غالب ہے، اور وجود ماء کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اس لیے تیمم پانی پانے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہاں پانی ہے تو تلاش کرنے سے پہلے اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ شخص پانی کو پانے والا ہے۔ پھر یہ شخص ایک غلوة کی مقدار تک پانی تلاش کرے، لیکن ایک میل تک نہ جائے، تاکہ اپنے ساتھیوں سے ٹکھڑ نہ جائے۔

## اللغات:

﴿فَلَوَاتٍ﴾ اسم جمع، واحده فَلَاةٌ؛ بیابان، بے آباد جگہ، جنگل۔ ﴿غُلُوةٌ﴾ فاصلہ ماپنے کا ایک پیمانہ، جس کی لمبائی

137.16 میٹر ہوتی ہے۔ ﴿رَفَقْتَهُ﴾ رفقاء، ساتھی، شرکاء سفر۔

### بے آباد جگہ میں تیمم کے جائز ہونے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جنگل و بیابان میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وضو کر کے نماز پڑھے یا تیمم کرے؟ یہ فیصلہ نہیں کر پارہا ہے، اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اپنے غالب گمان کو فیصل بنا کر اسی پر عمل کرے، اگر غالب گمان یہ ہو کہ آس پاس کہیں پانی نہیں ہے تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نہ بھٹکے، بل کہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، اس لیے کہ عام طور پر جنگلات میں پانی نہیں ہوتا، اور غلبہ ظن کے پانی کو نفی کرنے کی وجہ سے وجدان ماء پر کوئی دلیل بھی نہیں رہی، لہذا یہ شخص پانی پر قادر نہیں شمار کیا جائے گا اور اس شخص کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہوگا۔

لیکن اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہاں کہیں آس پاس پانی مل جائے گا تو اس شخص پر پانی تلاش کرنا ضروری ہے، اور طلب ماء سے پہلے اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب اس کا غالب گمان یہ ہے کہ پانی مل جائے گا تو گویا یہ وجود ماء کی دلیل ہے، لہذا اس دلیل کے ہوتے ہوئے اس شخص کو پانی پانے والا ہی سمجھا جائے گا اور پانی پانے والے کے لیے چوں کہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔

پھر اس شخص کے لیے ایک غلوۃ کی مقدار تک جا کر پانی تلاش کرنا ضروری ہے، اس سے آگے ایک میل تک نہ جائے ورنہ یہ اپنے ساتھیوں سے پھٹ جائے گا اور اسے پریشانی لاحق ہوگی۔

واضح رہے کہ صاحب عنایہ نے غلوۃ کی مقدار یہ بتلائی ہے کہ تیر انداز جس جگہ سے تیر پھینکے اور جہاں جا کر وہ تیر گرے، اس کے درمیان کا فاصلہ غلوۃ ہے، یعنی تیر پھینکنے اور گرنے کے مابین جو فاصلہ ہے وہی غلوۃ کہلاتا ہے۔

اور علامہ محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے حوالے سے لکھا ہے کہ تین سو گز سے لے کر چار سو گز تک کا فاصلہ غلوۃ کہلاتا

ہے۔ (بنایہ ۵۵۰/۱)

﴿وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتِيمَمَ﴾ لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ يَتِيمَمٌ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ، ﴿وَلَوْ تِيمَمَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَجْزَأُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ﴾ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الطَّلَبُ مِنْ مَلِكِ الْغَيْرِ، وَقَالَا: لَا يُجْزِيهِ، لِأَنَّ الْمَاءَ مَبْدُولٌ عَادَةً، ﴿وَلَوْ أَبِي أَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِمَنْ الْمِثْلِ وَعِنْدَهُ تَمَنُّهُ لَا يُجْزِيهِ التِيمَمُ﴾ لِتَحَقُّقِ الْقُدْرَةِ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَحْمُلُ الْغَيْنِ الْفَاحِشِ، لِأَنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

**ترجمہ:** اور اگر اس کے دوست کے پاس پانی ہو تو تیمم کرنے سے پہلے اس سے پانی مانگے، کیوں کہ عموماً پانی سے انکار نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ پانی دینے سے انکار کر دے تو تیمم کر لے، اس لیے کہ (اب) عجز متحقق ہے۔ اور اگر مانگنے سے پہلے اس نے تیمم کر لیا تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے، کیوں کہ دوسرے کی ملکیت سے مانگنا ضروری نہیں ہے۔

حضرات صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً پانی مفت دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر رفیق سفر ثمن مثل کے علاوہ (دوسری صورت میں) دینے سے انکار کر دے اور اس شخص کے پاس ثمن مثل ہو تو بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت متحقق ہے، لیکن اسے غبن فاحش برداشت کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ضرور کو ساقط کر دیا گیا ہے۔

## اللغات:

﴿أَجْزَاءً﴾ باب افعال: کافی ہونا، پورا ہو جانا۔ ﴿مَبْدُولٌ﴾ بلیب خاطر دیا جانے والا، برضا و رغبت خرچ کیا جانے والا۔ ﴿غَبْنُ الْفَاحِشِ﴾ بڑا نقصان، واضح نقصان۔

## پانی قیمتاً ملتا ہو تو جواز تیمم کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے اور وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، مگر اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے تو اب اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے پانی مانگے، اگر وہ دے دیتا ہے تو اس سے وضو کر کے نماز پڑھے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھے، کیوں کہ نہ دینے کی وجہ سے پانی پر قادر نہ ہونے کا عجز حقیقتاً متحقق ہے، اس لیے اب اس کے لیے تیمم کرنا درست اور جائز ہے، البتہ مانگنے سے پہلے تیمم کرنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ عام طور پر پانی وغیرہ دینے سے انکار نہیں کیا جاتا۔

ولو يتمم الخ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر یہ شخص اپنے ساتھی سے پانی مانگے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ پانی دوسرے کی ملکیت میں ہے اور دوسرے سے مانگنا اس پر لازم نہیں ہے۔ پھر یہ کہ سوال کرنے میں ذلت اور اہانت بھی ہے، اس لیے بھی مانگنا مناسب نہیں ہے۔

حضرات صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی مانگنا اس کے لیے ضروری ہے، اگر مانگے بغیر تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پانی وغیرہ دینے میں نہ تو کوئی حرج سمجھتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں، اس لیے اس شخص کے لیے پانی مانگنا ضروری ہے۔

ولو ابی الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر رفیق سفر کے پاس پانی ہو اور وہ مفت دینے کے لیے تیار نہ ہو، بل کہ اس کی قیمت مانگ رہا ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ ساتھی ثمن مثل یا اس سے کم میں پانی دے رہا ہو اور اس شخص کے پاس ثمن مثل کے بقدر رقم بھی موجود ہو تو بھی اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بل کہ اس سے پانی خرید کر وضو کرنا ضروری ہے، کیوں کہ جب اس شخص کے پاس پانی خریدنے کے لیے روپیہ ہے تو اب بھی یہ پانی پر قادر ہے اور قدرت علی الماء کی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے، لہذا یہاں بھی تیمم جائز نہیں ہوگا۔

البتہ اگر اس کا ساتھی ثمن مثل سے زائد ثمن میں پانی فروخت کر رہا ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، کیوں کہ ثمن مثل سے زائد ثمن دے کر پانی لینے میں ضرر ہے، حالانکہ تیمم کی مشروعیت ہی دفع ضرر کے لیے ہوتی ہے۔

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

یہ باب موزوں پر مسح کے احکام کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے تیمم کے احکام کو بیان کیا ہے اور اس کے معاً بعد مسح علی الخفین کے احکام کو بیان کر رہے ہیں اس مناسبت سے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی طہارت مسح کے ذریعے انجام پاتی ہے، یا اس وجہ سے کہ ان میں سے ہر ایک غسل کا بدل ہے، چنانچہ مسح علی الخفین غسل رجليں کا بدل ہے اور تیمم اعضائے وضو کے غسل کا بدل ہے، یا اس وجہ سے کہ تیمم اور مسح علی الخفین دونوں رخصت مؤقتہ ہیں اور عارضی طور پر ان سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ (عنایہ ۱۳۶۱، بنایہ ۱۵۳۱)

رہی یہ بات کہ مسح علی الخفین کو تیمم کے بعد کیوں بیان کیا گیا تو صاحب عنایہ نے اس کی وجہ یہ تحریر کی ہے کہ مسح علی الخفین صرف غسل رجليں کا بدل ہے جب کہ تیمم پورے وضو کا بدل ہے، اس لیے جس میں کامل بدلیت ہے اسے (تیمم) پہلے بیان کیا گیا ہے اور جس میں بعضیت کے اعتبار سے بدلیت ہے (مسح علی الخفین) اسے بعد میں بیان کیا جا رہا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تیمم کا ثبوت کتاب اور سنت دونوں سے ہے جب کہ مسح کا ثبوت صرف سنت سے ہے، اس لیے بھی تیمم کا بیان تقدیم کا مستحق تھا۔

تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ تیمم سے حاصل ہونے والی طہارت مسح علی الخفین کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور کامل ہے، بایں معنی کہ تیمم حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کے لیے مطہر ہے جب کہ مسح علی الخفین حدث اکبر تو درکنار مکمل طور پر حدث اصغر کے لیے بھی مطہر نہیں ہے، بل کہ اس کے ایک جزء یعنی غسل رجليں کے لیے ہی مطہر ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی تیمم کا بیان تقدیم کا متقاضی تھا۔

بہر حال مسح علی الخفین جائز اور مشروع ہے اور احادیث کثیرہ و مشہورہ سے ثابت ہے اور اس کا ثبوت اس درجہ قوی ہے کہ کبار صحابہ نے اس کی روایت کی ہے جو اس کی صحت اور اس کے استناد و اعتبار کی بین دلیل ہے، چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرامؓ نہ صرف یہ کہ مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے تھے، بل کہ اس پر عمل کر کے اس کے ثبوت اور جواز پر مہر تصدیق بھی لگایا کرتے تھے۔

اس سلسلے میں علامہ ابوالفضل احمد بن علی عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ کے تحت تقریباً

۲۶ حدیثیں بیان فرمائی ہیں جو ہدایہ ص ۵۶ کے حاشیے پر درج ہیں، ان میں سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

عن بلال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَالْخِمَارِ . (بحوالہ مسلم شریف)

عن عمرو ابن أمية أنه رأى النبي ﷺ يمسح على الخفين . (بخاری شریف)

عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْمَقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا . (مسلم شریف)

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمَقِيمِ،

وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ . (نسائی، دارقطنی)

یہ اور اس طرح کی دیگر تمام روایتیں اس امر پر تین ثبوت ہیں کہ مسح علی الخفین جائز اور ثابت ہے اور مقیم اور مسافر کے لیے علی الترتیب ایک دن رات اور تین دن تین راتوں تک مسح کرنے کی گنجائش ہے۔

صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ: مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِي فِيهِ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ يَعْنِي جَبَّ مِيرَءِي بِأَسْمَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ كَمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَفَيْنِ كَمَا قَالَ هُوَ هُوَ .

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ کسی شخص نے ان سے اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے متعلق معلوم کیا، اس پر حضرت والا نے یہ جواب دیا کہ: أَنْ يَفْضَلَ الشَّيْخَيْنِ وَيُحِبُّ الْخَتَيْنِ وَيُرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ كَمَا جَوَّزَتْهُ شَخِينِ يَعْنِي حَضْرَتِ صَدِيقِ الْكَبِيرِ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل اور برتر جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے نیز مسح علی الخفین کو جائز سمجھے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔

مَسْحُ كَالْعَوِي مَعْنَى: إِمْرَارِ الْيَدِ عَلَى شَيْءٍ: يَعْنِي كَيْسِي حَيْثُ يَرْتَدُّ بِهَا تَحْتِ بِحَيْرَانَا .

مَسْحُ كَالْعَوِي مَعْنَى: إِصَابَةِ الْيَدِ الْعَضْوِ: كَيْسِي حَيْثُ يَرْتَدُّ بِهَا تَحْتِ بِحَيْرَانَا .

مسح علی الخفین کے معنی: إِصَابَةُ الْيَدِ الْمَبْتَلَةِ الْخَفِ الْمَلْبُوسِ يَعْنِي تَرْتَادُهُ سَلْبًا مِنْهُ هُوَ مَوْزَعٌ كَوَجْهُنَا أَوْ اس

پرسح کرنا۔ (اب عبارت ملاحظہ کیجیے)

﴿ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ ﴾ وَالْأَخْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيضَةٌ، حَتَّى قِيلَ إِنَّ مَنْ لَمْ يَرَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا، لَكِنْ مَنْ رَأَاهُ ثُمَّ لَمْ يَمْسَحْ آخِذًا بِالْعَزِيمَةِ كَانَ مَاجُورًا .

**ترجمہ:** موزوں پر مسح کرنا سنت کی رو سے جائز ہے اور اس سلسلے میں احادیث پھیلی ہوئی ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو شخص مسح علی الخفین کو جائز نہ سمجھے وہ بدعتی ہے، البتہ جو شخص اسے جائز سمجھے لیکن عزیمت پر عمل کرتے ہوئے مسح نہ کرے اسے ثواب ملے گا۔

**موزوں پر مسح کا بیان:**

فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کے جواز اور اس کے ثبوت و وجود سے متعلق اس قدر معتبر اور مستند روایات مروی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس کے ثبوت میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں

تک کہہ دیا کہ اگر کوئی کورچشم مسح علی الخفین کے جواز کا معتقد نہ ہو تو وہ کم بخت بدعتی ہے اور دین حق سے منحرف ہے۔  
البتہ جو شخص مسح علی الخفین کے ثبوت اور جواز کا معتقد ہو، لیکن مسح نہ کر کے عزیمت پر عمل کرے اور مواقع رخصت میں بھی اپنے پیروں کو دھلتا رہے تو وہ دین حق پر قائم ہے اور اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اسے ثواب بھی ملے گا، کیوں کہ رخصت کے مقابلے عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ اور بہتر ہے۔

﴿وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُّوجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ﴾ ثُمَّ أَحَدَتْ، خَصَّهُ بِحَدَثٍ مُّوجِبٍ لِلْوُضُوءِ، لِأَنَّهُ لَا مَسْحَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَلَى مَا نَبِيْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبِحَدَثٍ مُّتَاخِرٍ، لِأَنَّ الْخُفَّ عَهْدٌ مَا نِعَاءً، وَلَوْ جَوَزَنَاهُ بِحَدَثٍ سَابِقٍ كَالْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَبِسَتْ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَالْمُتَيْمِمُ إِذَا لَبَسَ ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ كَانَ رَافِعًا، وَقَوْلُهُ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ الْكَمَالِ وَقْتُ اللَّبْسِ، بَلْ وَقْتُ الْحَدَثِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، حَتَّى لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبَسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ أَحَدَتْ يُجْزِيهِ الْمَسْحُ، وَهَذَا، لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ حُلُولِ الْحَدَثِ بِالْقَدَمِ فَيُرَاعَى كَمَالُ الطَّهَارَةِ وَقْتُ الْمَنْعِ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ ذَلِكَ كَانَ الْخُفَّ رَافِعًا.

**ترجمہ:** اور مسح علی الخفین ہر اس حدت سے جائز ہے جو موجب وضو ہو بشرطیکہ دونوں موزوں کو کامل طہارت پر پہنا ہو۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسح علی الخفین کو ایسے حدت کے ساتھ خاص کیا ہے جو موجب للوضوء ہو، اس لیے کہ جنابت سے مسح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ (آئندہ) ہم اسے ان شاء اللہ بیان کریں گے، نیز ایسے حدت کے ساتھ خاص کیا ہے جو بعد میں لاحق ہوا ہو، اس لیے کہ موزہ مانع بن کر پہچانا گیا ہے۔ اور اگر ہم اسے حدت سابق پر جائز قرار دیدیں جیسے مستحاضہ نے جب موزہ پہنا پھر وقت نکل گیا اور تیمم نے موزہ پہنتے ہی پانی دیکھ لیا، تو (اب) موزہ رافع حدت ہوگا۔

اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا إذ البسهما علی طہارۃ کاملہ کہنا موزہ پہننے کے وقت کمال طہارت کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا، بل کہ حدت کے وقت اس کا فائدہ دیتا ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے، یہاں تک کہ اگر پہلے کسی نے دونوں پیر دھوئے اور دونوں موزوں کو پہن لیا، پھر طہارت مکمل کی، اس کے بعد حدت لاحق ہوا، تو اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ موزہ پیر میں حدت کو حلول کرنے سے روکے ہوئے ہے، لہذا بوقت منع کمال طہارت کی رعایت کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر حلول حدت کے وقت طہارت ناقص ہو تو موزہ رافع حدت ہوگا۔

## اللغات:

﴿لَبَسَ﴾ باب مسح؛ اوڑھنا، پہننا۔ ﴿مُسْتَحَاضَةً﴾ ایسی عورت جس کو پیشاب کے راستے سے حیض کے علاوہ بھی خون

آتا ہو۔ ﴿حُلُولٌ﴾ اسم مصدر، باب نصر؛ اترنا، پڑاؤ کرنا، حل ہو جانا۔

## موزوں پر مسح کے جواز کی شرائط اور مسح کی حیثیت:

اس عبارت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ موزوں پر مسح کرنا صرف محدث اور بے وضو شخص کے لیے جائز ہے، جنبی کے لیے اس کا جواز نہیں ہے، اور محدث کے لیے بھی جواز اسی صورت میں ہے جب اس نے طہارت کاملہ کے بعد موزے پہنے ہوں اور اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا ہو تو حدث کے بعد سے اس کے مسح کی مدت شمار ہوگی، نہ کہ پہننے کے وقت سے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوریؒ نے مسح علی الخفین کے جواز کو دو چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسح علی الخفین اسی حدث کے ساتھ جائز ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے یعنی حدث اصغر، اس سے معلوم ہوا کہ حدث اکبر یعنی غسل جنابت میں مسح علی الخفین کا جواز نہیں ہے۔

اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدث کے ساتھ مسح جائز ہے جو وضو کر کے موزہ پہننے کے بعد پیش آیا ہو، اس لیے کہ مسح علی الخفین حلول حدث سے مانع تو ہے، مگر حدث کے لیے رافع نہیں ہے، رافع حدث تو پانی اور اس کے علاوہ مطہر چیزیں ہیں جب کہ مسح وصف تطہیر سے عاری اور خالی ہے۔

فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین مانع حدث ہے اور رافع نہیں ہے، کیوں کہ اگر حدث سابق پر مسح کی اجازت دے دی جائے تو یہ مانع نہیں ہوگا، بل کہ رافع ہوگا جب کہ مسح میں منع کی صلاحیت تو ہے، مگر رافع کی صلاحیت نہیں ہے۔ مثلاً حائضہ عورت نے موزے پہنے اس کے بعد اس نے وضو کیا پھر وقت نکل گیا، یا متمیم نے موزے پہنے اور اس کے بعد وہ پانی پر قادر ہو گیا تو اب ان دونوں کے لیے مسح علی الخفین کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ مستحاضہ کے حق میں وقت نکلنے سے اور متمیم کے پانی دیکھ لینے کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ پہلے حدث پیش آچکا ہے اور جب پہلے ہی حدث پیش آچکا ہے تو ظاہر ہے کہ مسح علی الخف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ رافع حدث نہیں ہے۔

وقوله إذا البسهما الخ فرماتے ہیں کہ امام قدوریؒ نے جو طہارت کاملہ پر موزے پہننے کی شرط لگائی ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موزہ پہننے کے وقت طہارت کاملہ ضروری ہے، بل کہ حدث کے وقت طہارت کاملہ ضروری ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں مسح کی مدت کا آغاز بھی حدث ہی کے بعد سے ہوگا، لبس کے وقت سے نہیں ہوگا۔

اس وضاحت کے پیش نظر اگر کسی شخص نے پہلے اپنے پاؤں کو دھو کر موزہ پہن لیا پھر اس نے بقیہ وضو کی تکمیل کی اور اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا تو اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، کیوں کہ موزے پہننے کے وقت اگرچہ طہارت کاملہ نہیں پائی گئی تھی، مگر حدث کے وقت کامل طہارت موجود ہے اور یہی مشروط بھی ہے، اس لیے اس شخص کے لیے مسح علی الخفین کی اجازت ہوگی، کیوں کہ پہلے ہی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ موزہ رافع حدث نہیں، بل کہ مانع حدث ہے اور پیروں میں حدث سرایت کرنے سے روکتا ہے، لہذا جب یہ مانع ہے تو طہارت کاملہ کا ہونا بوقت منع مشروط ہوگا اور منع کا وقت حدث ہی کا وقت ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بوقت حدث طہارت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس وقت میں طہارت کامل نہیں ہوگی تو مسح علی الخفین بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ طہارت کامل نہ ہونے کی صورت میں موزے کو رافع حدث ماننا پڑے گا، حالانکہ موزہ رافع حدث نہیں بل کہ مانع حدث ہے۔



﴿وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① يَمَسْحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا.

**ترجمہ:** اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات جب کہ مسافر کے لیے تین دن اور تین رات تک مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرمی ہے کہ مقیم ایک دن ایک رات اور مسافر تین دن تین رات تک مسح کرتا رہے۔

### تخریج:

① اخرجہ مسلم فی کتاب الطہارۃ باب التوقیت فی المسح علی الخفین حدیث رقم ۶۳۹۔  
و ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب التوقیت فی المسح حدیث رقم ۱۵۷۔

### مسح کے برقرار رہنے کی مدت:

امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک ہی کے الفاظ میں مقیم اور مسافر کے لیے مسح کی مدت بیان فرمائی ہے جو بالکل واضح ہے، البتہ اس سلسلے میں عربی شرح نے یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے بھی بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مقیم کے لیے عدم ضرورت کو علت قرار دے کر مسح کی اجازت نہیں دیتے اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے پیش نظر غیر موقت وقت تک مسح کی اجازت دیتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مضمون یہ ہے قال قلت یارسول اللہ أأمسح علی الخفین یومًا، قال نعم، فقلت یومین، فقال نعم، حتی انتهیت إلی سبعة أيام فقال علیہ الصلاة والسلام إذا كنت فی سفر فامسح ما بدالك، یعنی حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے مسح علی الخفین کے جواز کے متعلق آپ ﷺ سے پوچھا اور میں سات دنوں تک کے متعلق پوچھتا گیا اور آپ ہاں ہاں، فرما کر اجازت دیتے رہے اور اخیر میں آپ نے فرمایا جب تم سفر میں رہو تو جب تک دل کہے مسح کرتے رہو، اس حدیث کے پیش نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسافر کے لیے مدت مسح کی تحدید اور توقیت نہیں کرتے۔

مگر ہماری طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہلا جواب یہ ہے کہ مقیم اور مسافر دونوں کے متعلق آپ کا بیان کردہ مسلک ہماری پیش کردہ حدیث سے باطل ہے، کیوں کہ اس حدیث میں واضح طور پر مقیم اور مسافر دونوں کے لیے وقت اور دن کی تحدید کے ساتھ مسح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ عمار بن یاسر کی حدیث محدثین کی حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے، چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجہول ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کے رجال غیر معروف ہیں، امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ یہ ہے کہ اس کی سند میں اختلاف ہے، وقال الدارقطني إسنادہ لا یثبت وقال یحیی بن معین إسنادہ مضطرب۔ (عیانہ ۱۵۰/۱ بنایہ ۶۷، ۵۶۶) لہذا جب اس حدیث سے اتنے جھگڑے اور فساد ہیں تو پھر اس سے استدلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

﴿قَالَ وَابْتَدَأُوهَا عَقِيبَ الْحَدَثِ﴾ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ فَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ .

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ مسح کی ابتداء حدث کے بعد سے ہوگی، کیوں کہ موزہ سرایتِ حدث سے مانع ہے، لہذا اس کی مدت منع کے وقت سے ہی معتبر ہوگی۔

### اللغات:

﴿عَقِيبٌ﴾ بعد، پیچھے۔ ﴿سِرَايَةٌ﴾ گھس جانا، داخل ہو جانا۔

### مدت مسح کی ابتداء کا بیان:

یہ بات ماقبل میں آچکی ہے کہ موزوں پر مسح کا آغاز حدث لاحق ہونے کے بعد سے ہوگا اور اسی وقت سے مدت مسح شمار کی جائے گی، کیوں کہ موزہ حلولِ حدث سے مانع ہے، لہذا مدت مسح کی ابتداء بھی منع کے وقت سے ہوگی اور منع کا وقت حدث کا وقت ہے، اس لیے بالفاظ دیگر مدت مسح حدث کے وقت سے شمار ہوگی۔

﴿وَالْمَسْحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ يَبْدَأُ مِنْ قَبْلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ﴾ لِحَدِيثِ مُغِيرَةَ بْنِ ① شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خَفَيْهِ وَمَدَّهُمَا مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَى أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، وَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْمَسْحِ عَلَى خَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ، ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى الظَّاهِرِ حَتْمٌ حَتَّى لَا يَجُوزُ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ وَعَقْبِهِ وَسَاقِهِ، لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ فَيُرَاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، وَالْبِدَايَةُ مِنَ الْأَصَابِعِ اسْتِحْبَابٌ اِعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْغُسْلُ، وَقَرَضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ، وَقَالَ الْكُرْخِيُّ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اِعْتِبَارًا لِأَلَاةِ الْمَسْحِ .

**ترجمہ:** اور مسح دونوں موزوں کے ظاہری حصے پر ہوگا اس حال میں کہ انگلیوں سے خط بن جائیں اور (مسح کرنے والا) انگلیوں سے شروع کرے پنڈلی کی طرف، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں موزوں پر رکھ کر انگلیوں کے سرے سے اوپر کی طرف کھینچا (اور اس طرح سے آپ نے) ایک مرتبہ مسح فرمایا، اور ایسا لگتا تھا کہ میں آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے موزے پر مسح کا اثر دیکھ دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ ان پر انگلیوں کے ذریعے خط بنے ہوئے تھے۔

پھر ظاہری موزے پر مسح کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ موزے کے نچلے حصے پر نیز اس کی ایزی اور پنڈلی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ خلاف قیاس ثابت ہے، لہذا ماورد بہ الشرع کی پوری پوری رعایت کی جائے گی۔ اور اصل یعنی غسل پر قیاس کرتے ہوئے انگلیوں کے سرے سے شروع کرنا مستحب ہے، اور مسح کا فرض ہاتھ کی انگلیوں میں سے تین انگلی کی مقدار ہے، امام کرنی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں میں سے ہے، لیکن آلمسح کا اعتبار آتے ہوئے پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿خُطُوْطٌ﴾ اسم جمع، واحد خط؛ لکیریں۔ ﴿سَاقٌ﴾ پنڈلی۔ ﴿أَصَابِعُ﴾ اسم جمع، واحد اصبع؛ انگلی۔ ﴿حَتَمٌ﴾ ضروری، لازمی۔ ﴿عَقَبٌ﴾ پچھلا حصہ، ایرٹھی۔ ﴿رِجْلٌ﴾ پاؤں، ٹانگ۔

## تَخْرِیج:

① اخرجہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الطہارت باب الاختصار بالمسح علی ظاہر الخفین، حدیث رقم: ۱۳۸۵۔ و ابن ماجہ فی السنن بمعناہ، حدیث رقم: ۵۵۱۔

## توضیح:

اس عبارت میں مقام مسح اور طریقہ مسح دونوں کا بیان ہے، چنانچہ مقام مسح کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مسح موزوں کے ظاہری حصے پر ہی ہوگا، یہی جگہ شرعاً معتبر ہے، اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں کے سرے پر رکھ کر اوپر کو پنڈلی کی جانب ہاتھ کھینچا جائے اور اس انداز سے کھینچا جائے کہ موزے پر انگلیوں کے نشانات بن جائیں، مسح علی الخفین کا یہی طریقہ مسنون ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں (جو کتاب میں ہے) یہی طریقہ منقول ہے، چنانچہ حضرت مغیرہ کا عینی بیان یہ ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو موزوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر انھیں انگلیوں کے سرے کی طرف سے اوپر کو کھینچتے ہوئے دیکھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ کے موزوں پر لکیروں کی طرح نشانات بنے ہوئے ہیں۔

ثم المسح الخ فرماتے ہیں کہ ظاہری موزوں پر مسح کرنا واجب اور ضروری ہے اور اسی مسح کا شرعاً اعتبار بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موزوں کے نچلے حصے پر مسح کرے یا موزے میں بنی ہوئی ایرٹھی یا پنڈلی پر مسح کرے تو اس کا مسح جائز نہیں ہے، کیوں کہ موزوں پر مسح کرنے کا جو طریقہ منقول ہے وہ خلاف قیاس ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ باطن خف پر مسح کیا جائے، کیوں کہ موزہ پینے کی صورت میں جو بھی گردوغبار لگتا ہے وہ اس کے نچلے حصے میں لگتا ہے، لہذا اس حوالے سے عقلاً اور قیاساً تو نچلے حصے میں ہی مسح ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ لو کان الدین بالرأي لکان باطن الخف اولیٰ بالمسح من ظاہرہ، ولکنی رأیت رسول اللہ ﷺ یمسح علی ظاہر الخفین دون باطنہما“ یعنی اگر دین کا سمجھنا عقل پر موقوف ہوتا تو ظاہر خف کے بالمقابل باطن خف پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میں نے پچشم خود آپ ﷺ کو باطن خف کے بالمقابل ظاہر خف پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ظاہر خف پر مسح کرنا خلاف قیاس ہے۔

بہر حال جب ظاہر خف پر مسح کرنا خلاف قیاس ہے تو جس حکم اور طریقے کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے اس کی پوری پوری رعایت کی جائے گی اور چون کہ شریعت نے ظاہر خف پر مسح کا طریقہ بیان کیا ہے اس لیے ظاہر خف ہی پر مسح درست، جائز اور معتبر ہوگا۔ اور باطن خف پر کیے ہوئے مسح کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیزوں کے متعلق فقہ کا ضابطہ یہ ہے ”ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ“۔

والبدایۃ الخ فرماتے ہیں کہ چون کہ اصل یعنی غسل اور دھونے میں انگلیوں کے سرے سے آغاز کیا جاتا ہے، اس لیے فرغ

یعنی مسح کرنے میں بھی انگلیوں کے سرے سے ہی آغاز کرنا مستحب ہے، تاکہ اصل اور بدل میں طریقہ عمل کے حوالے سے بھی مساوات ہو جائے۔ اور ہاتھ کی تین انگلیوں کی مقدار میں مسح کرنا فرض ہے، یہی عامۃ الفقہاء کی رائے ہے، البتہ امام کرخیؒ کا مسلک یہ ہے کہ اس سلسلے میں پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار ہے، کیوں کہ پاؤں ہی پر مسح کیا جاتا ہے، اس لیے مقدار فرض کے سلسلے میں پاؤں کی انگلیاں معتبر ہوں گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام کرخی کے مقابلے میں عامۃ الفقہاء والا قول زیادہ صحیح ہے، کیوں کہ مسح ہاتھ سے کیا جاتا ہے اور ہاتھ ہی مسح کا آلہ ہے، لہذا مقدار فرض کے متعلق ہاتھ ہی کی انگلیوں کا اعتبار ہوگا۔

﴿ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفِّ فِيهِ خَرَقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازًا ﴾ وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَلَّ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِي يَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِي، وَلَمَّا أَنَّ الْخِصْفَاتِ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ خَرَقٍ عَادَةً فَيَلْحَقُهُمُ الْحَرَجُ فِي النَّزْعِ، وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ فَلَا حَرَجَ، وَالْكَثِيرُ أَنْ يَنْكَشِفَ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ أَصْغَرُهَا هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَدَمِ هُوَ الْأَصَابِعُ، وَالثَلَاثُ أَكْثَرُهَا فَتُقَامُ مَقَامَ الْكُلِّ، وَاعْتِبَارُ الْأَصْغَرِ لِلْحَتِيَاطِ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِدُخُولِ الْأَنَامِلِ إِذَا كَانَ لَا يَنْفَرِجُ عِنْدَ الْمَشْيِ، وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي كُلِّ خُفِّ عَلَى حِدَةٍ، فَيُجْمَعُ الْخَرَقُ فِي خُفِّ وَاحِدٍ وَلَا يَجْمَعُ فِي خُفَيْنِ، لِأَنَّ الْخَرَقَ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ قَطْعَ السَّفَرِ بِالْآخِرِ، بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ، لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلْكُلِّ، وَانْكَشَافُ الْعَوْرَةِ نَظِيرُ النَّجَاسَةِ .

**ترجمہ:** اور ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے جس میں بہت زیادہ پھٹن ہو اور اس سے پاؤں کی انگلیوں میں سے تین انگلیوں کی مقدار ظاہر ہوتا ہو اور اگر اس سے کم پھٹن ہو تو مسح کرنا جائز ہے، امام زفر رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہے اگرچہ پھٹن کم ہو، اس لیے کہ جب ظاہر کا دھونا واجب ہے تو باقی کا دھونا بھی واجب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عام طور پر موزے معمولی پھٹن سے خالی نہیں ہوتے، اس لیے اتارنے میں لوگوں کو حرج لاحق ہوگا۔ اور زیادہ پھٹن سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور کثیر یہ ہے کہ پیر کی تین چھوٹی انگلیوں کی مقدار کھل جائے یہی صحیح ہے، اس لیے کہ قدم کے معاملے میں انگلیاں ہی اصل ہیں اور تین کی تعداد انگلیوں کا اکثر حصہ ہے، اس لیے اسے کل کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ اور چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کرنا احتیاط کے پیش نظر ہے اور پوروں کے داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بشرطیکہ چلنے کے وقت پاؤں نہ کھلتا ہو۔ اور یہ مقدار ہر موزے میں الگ الگ معتبر ہے چنانچہ ایک موزے کی پھٹن کو جمع کیا جائے گا اور دوسروں کی پھٹن کو نہیں جمع کیا جائے گا، اس لیے کہ ایک موزے کی پھٹن دوسرے موزے سے سفر کرنے میں مانع نہیں ہوتی۔ برخلاف متفرق نجاست کے، اس لیے کہ وہ شخص پوری نجاست کو اٹھا رہا ہے، اور ستر عورت کا کھلنا نجاست کی نظیر ہے۔

## اللغات:

﴿بَادِي﴾ اسم فاعل، بدا ابيدو، باب نصر؛ ظاہر ہونے والا۔ ﴿خفاف﴾ اسم جمع، واحد خف؛ موزے۔ ﴿انامل﴾ اسم جمع، واحد ائملة؛ انگلیوں کے جوڑ، انگلیوں کی پوریں، انگلیاں۔

## موزے پھٹے ہونے کی صورت میں مسح کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر خفین میں سے کسی خف میں شگاف اور پھٹن ہو تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شگاف قلیل ہے یا کثیر؟ اگر شگاف قلیل ہے تو اس موزے پر مسح کرنا ہمارے یہاں جائز ہے، لیکن اگر پھٹن زیادہ ہے اور پیر کی تین چھوٹی انگلیاں کھل جاتی ہیں، تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھٹے ہوئے موزے پر مطلقاً مسح کرنا جائز نہیں ہے، خواہ شگاف قلیل ہو یا کثیر۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ موزہ پینے کی وجہ سے پیروں کا وظیفہ غسل سے مسح کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن موزہ میں شگاف ہونے کی وجہ سے غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا پڑے گا، کیوں کہ جو حصہ ظاہر ہوگا وہاں غسل ہوگا اور جو حصہ موزے کے اندر ہوگا اس پر مسح ہوگا اور غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مسح ہی جائز نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مسح علی الخفین کے جواز کا مقصد لوگوں سے حرج دور کرنا ہے اور عام طور پر موزوں میں تھوڑی بہت پھٹن ہوتی ہی ہے، اس لیے ہم نے خرق قلیل کو معاف کر دیا، کیوں کہ اگر خرق قلیل کو معاف نہیں قرار دیں گے تو موزے اتارنے کی وجہ سے لوگ حرج میں مبتلا ہوں گے اور مسح علی الخفین کے جواز کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

اس کے برخلاف خرق کثیر کی صورت میں مسح اس لیے جائز نہیں ہے کہ عموماً موزوں میں اس مقدار میں شگاف نہیں ہوتا، لہذا زیادہ شگاف کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے یہ صورت معاف بھی نہیں ہے اور اس صورت میں مسح بھی جائز نہیں ہے۔

والکثیر الخ صاحب ہدایہ خرق قلیل اور خرق کثیر کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق خرق کثیر یہ ہے کہ پاؤں کی چھوٹی انگلیوں میں سے تین انگلیوں کی مقدار میں پیر کھل جائے اور اگر تین انگلیوں سے کم پاؤں ظاہر ہو تو یہ خرق قلیل ہے، صحیح کہہ کر دراصل حضرت حسن بن زیاد کی اس روایت سے احتراز کیا گیا ہے جس میں خرق کے متعلق وہ ہاتھ کی انگلیوں کو معتبر مانتے ہیں، نیز شمس الائمہ حلوانی کے اس قول سے بھی احتراز کیا گیا ہے، جس میں وہ پیروں کی بڑی انگلیوں کی مقدار میں خرق کا اعتبار کرتے ہیں، بہر حال قول صحیح کی دلیل یہ ہے کہ پاؤں میں انگلیاں ہی اصل ہیں اور پھر تین کی مقدار انگلیوں کی مجموعی مقدار یعنی پانچ کا اکثر ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ للاکثر حکم الكل یعنی اکثر کو کل کا حکم دے دیا جاتا ہے، لہذا اس ضابطے کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر تین انگلیوں کی مقدار میں پاؤں کھل جاتا ہے تو یہ خرق کثیر ہے اور جواز مسح کے لیے مانع ہے، اور اگر اس سے کم کھلتا ہے تو یہ خرق قلیل ہے اور اس طرح کے موزے پر مسح جائز ہے۔

والاعتبار الخ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کیا ہے وہ احتیاط کے پیش نظر ہے، کیوں کہ یہ عبادات کا

معاملہ ہے اور عبادات میں احتیاط پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔ پھر اگر کوئی موزہ اس طرح پھٹا ہو کہ اس میں تین انگلیاں داخل ہو جاتی ہوں، لیکن جب اسے پہن کر چلا جائے تو اس وقت پاؤں نظر نہ آتا ہو تو ایسے موزے پر بھی مسح کرنا شرعاً جائز ہے، کیوں کہ اصل خرابی اور عدم جواز مسح کی اصل علت پیروں کا کھلنا اور ظاہر ہونا ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔

ويعتبر الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جو ہم شگاف اور پھین کی بات کر رہے ہیں اس کی مقدار ہر موزے میں الگ الگ معتبر ہے، چنانچہ اگر ایک موزے میں متعدد شگاف ہو اور ان کا مجموعہ تین انگلیوں کی مقدار تک پہنچتا ہو، تو اس صورت میں اس موزے پر مسح درست نہیں ہوگا، لیکن اگر دونوں موزوں پر شگاف ہو اور دونوں کا مجموعہ تین انگلیوں کی مقدار ظاہر ہونے تک پہنچتا ہو تو اس صورت میں ان پر مسح جائز ہوگا، اس لیے کہ ایک موزے کے شگاف کو جمع کیا جائے گا، مگر دونوں کے شگاف کو جمع کر کے عدم جواز مسح کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیوں کہ نہ تو معمولی شگاف چلنے اور سفر کرنے سے مانع ہے خواہ دونوں موزوں میں ہو اور نہ ہی ایک موزے کا شگاف دوسرے موزے کو پہن کر چلنے سے مانع ہے، لہذا اس صورت میں عدم جواز مسح کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

اس کے بالمقابل اگر دونوں موزوں میں تھوڑی تھوڑی نجاست لگی ہو اور دونوں موزوں کی نجاست کا مجموعہ ایک درہم سے زائد ہو جاتا ہو، تو اس صورت میں دونوں موزوں کی متفرق نجاست کو جمع کیا جائے گا اور ان موزوں کو پہن کر نماز جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب یہ شخص مجموعی طور پر ایک درہم سے زائد نجاست کو اٹھانے اور اپنے ساتھ رکھنے والا ہے حالانکہ ایک درہم سے زائد نجاست لگنے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوتی، اس لیے صورت مسئلہ میں مذکورہ موزوں کے ساتھ بھی نماز درست نہیں ہوگی۔

وانكشاف العورة الخ فرماتے ہیں کہ ستر عورت کا کھلنا نجاست کی نظیر ہے، یعنی جس طرح دو موزوں یا بدن کے الگ الگ حصوں پر لگی ہوئی متفرق نجاست کو جمع کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی عورت کی شرم گاہ سے تھوڑا حصہ کھل جائے، تھوڑا حصہ اس کی پنڈلی سے کھل جائے، کچھ اس کی ران اور کچھ اس کے بال سے کھل جائے اور ان کا مجموعہ چوتھائی حصے کو پہنچ جائے تو ان سب کو جمع کیا جائے گا اور اس عورت کی نماز کے عدم جواز کا فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ﴾ لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكِبَالِهَا إِلَّا عَنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ عَنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ نُومٍ، وَإِنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَتَكَرَّرُ عَادَةً فَلَا حَرَجَ فِي النَّزْعِ، بِخِلَافِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ.

**ترجمہ:** اور اس شخص کے لیے مسح (علی الخفین) جائز نہیں ہے جس پر غسل واجب ہو، حضرت صفوان بن عسالؓ کی حدیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو آپ ﷺ ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم تین دن تین رات تک اپنے موزوں کو نہ اتاریں، مگر جنابت سے (یعنی اتار دیں) لیکن پیشاب یا پاخانہ یا نیند سے۔ اور اس لیے بھی کہ عموماً جنابت مکرر نہیں ہوتی، لہذا اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، برخلاف حدیث کے، کیوں کہ وہ مکرر ہوتا ہے۔

**اللغات:**

① اخرجہ الترمذی فی کتاب الطہارۃ باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم حدیث رقم ۹۲.

والنسائی فی کتاب الطہارۃ باب المسح علی الخفین فی السفر حدیث ۱۲۵.

### موزوں پر مسح کس حدت کو دور کرتا ہے؟

یہ مسئلہ تو اس سے پہلے بھی آچکا ہے کہ مسح علی الخفین صرف محدث یعنی بے وضو کے لیے جائز ہے، جنبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی کو یہاں حضرت صفوان بن عسال کی حدیث سے مزید مؤکد کر دیا گیا ہے جس میں واضح طور پر یہ صراحت ہے کہ دوران سفر جنابت پیش آنے کی صورت میں تو موزہ اتار دیا جائے گا، لیکن اگر حدت لاحق ہو مثلاً پیشاب، پاخانہ یا سونا تو اس صورت میں تین دن اور تین رات سے پہلے موزہ نہیں اتارا جائے گا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ مسح علی الخفین کے جواز کی علت دفع حرج ہے اور جنابت چوں کہ کبھی کبھار ہی پیش آتی ہے، اس لیے اس صورت میں موزہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا جنابت میں تو اسے نکال دیں گے، اس کے برخلاف حدت اصغر چوں کہ بار بار پیش آتا ہے، اس لیے اس صورت میں موزہ نکالنے سے حرج لاحق ہوگا، لہذا حدت کی صورتوں اور وجہوں میں ہر بار موزہ نہیں نکالا جائے گا۔

﴿وَيَنْقُصُ الْمَسْحَ كُلَّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِأَنَّهُ بَعْضُ الْوُضُوءِ، وَيَنْقُضُهُ أَيضًا نَزْعُ الْحُفِّ﴾ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ، ﴿وَكَذَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا لِتَعَدُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ فِي وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ﴾ وَكَذَا مَضِي الْمُدَّةِ لِمَا رَوَيْنَا، وَإِذَا تَمَّتْ الْمُدَّةُ نَزَعَ حَقِيًّا، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ ﴿لِأَنَّ عِنْدَ النَّزْعِ يَسْرِي الْحَدَثُ السَّابِقُ إِلَى الْقَدَمَيْنِ كَأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا، وَحُكْمُ النَّزْعِ يَثْبُتُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ، لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْحِ، وَكَذَا بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ هُوَ الصَّحِيحُ .

**ترجمہ:** اور مسح کو ہر وہ چیز توڑ دیتی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، اس لیے کہ مسح وضو کا جزء ہے، نیز موزے کا نکالنا بھی اس کے لیے ناقض ہے، قدم تک حدت کے سرایت کرنے کی وجہ سے، کیوں کہ مانع زائل ہو گیا۔ نیز ایک موزے کا نکالنا بھی ناقض مسح ہے، اس لیے کہ ایک وظیفے میں غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا دشوار ہے۔ اور ایسے ہی مدت کا گزر جانا (بھی ناقض ہے) اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی۔ اور جب مسح کی مدت پوری ہوگئی تو مسح کرنے والا دونوں موزوں کو نکال دے اور پاؤں دھو کر نماز پڑھ لے اور اس پر بقیہ وضو کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب اس نے مدت گزرنے سے پہلے موزے نکال دیے، کیوں کہ موزے اتارتے وقت حدت سابق دونوں پیروں تک سرایت کر جائے گا اور ایسا ہو جائے گا کہ اس نے پیروں کو دھویا ہی نہیں تھا۔

اور پنڈلی تک پیر نکلنے سے نزع خف کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسح کے حق میں موزے کی پنڈلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نیز اکثر قدم نکلنے سے بھی (حکم نزع ثابت ہو جاتا ہے) یہی صحیح ہے۔

## اللغَات:

﴿تَعَدَّرُ﴾ اسم مصدر، باب تفعّل؛ مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ ﴿مَضَى﴾ اسم مصدر، باب ضرب؛ گزرنا، جاری ہونا۔

## نواقض مسح کا بیان:

یہاں سے نواقض مسح کا بیان ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ مسح کو بھی توڑ دیتی ہے، مثلاً پیشاب، پاخانہ اور سونا وغیرہ کہ یہ چیزیں وضو کے لیے ناقض ہیں تو مسح کے لیے بھی ناقض ہیں، کیوں کہ مسح وضو کا ایک جزء ہے، لہذا جو چیز کل اور اصل کے لیے ناقض ہوگی وہ بعض اور بدل کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ناقض ہوگی۔

فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موزوں کو اتار دے تو بھی اس کا مسح باطل ہو جائے گا، کیوں کہ موزے پیروں میں حدث سرایت کرنے سے مانع تھے، مگر اتار دینے کی وجہ سے یہ ممانعت دور ہوگئی، اس لیے حدث سرایت کر گیا اور مسح باطل ہو گیا۔ نیز اگر کسی شخص نے دونوں موزوں میں سے ایک موزہ نکال دیا تب بھی اس کا مسح ٹوٹ گیا، کیوں کہ خضین پہننے کی صورت میں قدموں کا وظیفہ غسل سے مسح کی طرف منتقل ہو گیا تھا، مگر ایک موزہ نکالنے کی وجہ سے ایک پیر میں غسل ضروری ہو گیا اور ایک پیر میں مسح ہے، حالاں کہ عضو میں غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا معذور ہے، اس لیے اس صورت میں مسح باطل ہو گیا، اس شخص کو چاہیے کہ دوسرا موزہ بھی نکال دے اور اچھی طرح پیروں کو دھو لے۔

و کذا مضی المدة الخ فرماتے ہیں کہ مدت مسح کے گذر جانے سے بھی مسح باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر مقیم اور مسافر کے لیے علی الترتیب ایک دن ایک رات اور تین دن تین راتوں تک مسح کی تحدید اور توقیت بیان کر دی گئی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ جب یہ توقیت پوری ہو جائے گی تو مسح باطل ہو جائے گا۔

و اذا تمت المدة الخ مدت مسح پوری ہونے کی صورت میں حکم یہ ہے کہ موزہ پہننے والا اپنے موزوں کو اتار کر پیروں کو دھو لے اور اگر کوئی اور ناقض وضو پیش نہ آیا ہو تو صرف پیروں کے دھلنے پر اکتفاء کرے اور پورا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لے، یعنی اس شخص پر ہمارے یہاں بقیہ وضو کا اعادہ واجب نہیں ہے۔

لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے پورا وضو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مدت مسح گذر جانے کی وجہ سے قدموں میں طہارت ختم ہوگئی اور جب قدموں میں طہارت ختم ہوگئی تو دیگر اعضائے وضو میں بھی ختم ہو جائے گی، کیوں کہ طہارت میں تجزی نہیں ہوتی، اور جس طرح اگر کسی کو حدث لاحق ہو جائے تو اسے پورا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس میں کوئی تجزی نہیں ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی کامل وضو واجب ہوگا اور وضو میں تجزی نہیں ہوگی۔

صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قیاس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت والا مضی مدت والے مسئلے کو مسئلہ حدث پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ حدث میں خروج نجاست ہوتا ہے جب کہ مضی مدت میں کسی بھی چیز کا خروج نہیں ہوتا، پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں ان کے ساتھ اس طرح کی صورت پیش



آئی تھی اور انھوں نے بھی موزے اتار کر صرف پیروں کے دھونے پر اکتفاء کیا تھا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضو کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ (عنایہ ۱۵۵/۱)

و کذا إذا نزع الخ فرماتے ہیں کہ عدم اعادہ وضو کا حکم اس صورت میں بھی ہے جب کسی شخص نے مضی مدت سے پہلے از خود اپنے موزے نکال دیے، تو اس صورت میں بھی وہ شخص صرف پیروں کو دھو کر نماز پڑھ سکتا ہے، کیوں کہ موزے نکالنے کی وجہ سے حدث اس کے قدموں تک ہی سرایت کرے گا، نہ کہ تمام اعضائے وضو پر اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس شخص نے بوقت وضو اپنے قدموں کو نہیں دھویا تھا، اس لیے اب صرف قدموں کا دھونا ہی واجب ہوگا۔

و یثبت الخ فرماتے ہیں کہ موزہ نکالنے کا حکم اس وقت ثابت اور لاگو ہوگا جب قدم موزے کی پنڈلی تک نکل آئے، کیوں کہ مسح کے متعلق موزے کی پنڈلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے وہ جگہ موضع مسح کے علاوہ ہے اور موضع مسح کے علاوہ تک قدم نکلنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، لہذا یہاں بھی پنڈلی تک قدم کے نکلنے اور باہر آنے کی صورت میں مسح ٹوٹ جائے گا۔

فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق اگر موزے کی پنڈلی میں پورا قدم تو نہیں آیا، مگر قدم کا اکثر حصہ پنڈلی تک نکل کر آ گیا تو اس صورت میں بھی مسح باطل ہو جائے گا، کیوں کہ للأكثر حکم الكل کا ضابطہ نہایت مشہور و معروف ہے۔

﴿وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَكَلِيلَةَ مَسْحٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَلِيلِيهَا﴾ عَمَلًا بِاطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ مَتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَكْمَلَ الْمُدَّةَ لِلْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ سَرَى إِلَى الْقَدَمِ وَالْخُفِّ لَيْسَ بِرَافِعٍ.

**ترجمہ:** اور جس شخص نے بحالت اقامت مسح کرنا شروع کیا پھر ایک دن ایک رات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مسافر ہو گیا تو (اب) وہ تین دن تین راتوں تک مسح کرتا رہے، حدیث کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یہ ایسا حکم ہے جو وقت کے ساتھ متعلق ہے، لہذا اس میں آخری وقت کا اعتبار ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب مدت اقامت پوری کرنے کے بعد وہ مسافر ہو گیا، کیوں کہ حدث قدم تک سرایت کر گیا اور موزہ رافع حدث نہیں ہے۔

### مسافر اور مقیم اگر دوران مسح حالت تبدیل کر لیں تو مدت مسح کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بحالت اقامت موزوں پر مسح کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے مسح کی مدت ایک دن ایک رات ہوگی، اب اگر یہ شخص مدت اقامت کو پوری کرنے سے پہلے ہی مسافر ہو گیا تو اس کی یہ مدت، مدت سفر کی طرف منتقل ہو جائے گی اور اس کے لیے تین دن اور تین رات تک مسح کرنے کی اجازت ہوگی، کیوں کہ حدیث یسمح المسافر ثلاثۃ ایام و لیلایہا میں مسافر کے لیے جو مدت بیان کی گئی ہے وہ مطلق مسافر کی ہے، خواہ سفر کے وقت وہ موزے پہنے ہو یا پہلے سے

پہنے ہو اور پھر سفر میں نکلے، بہر حال اگر مدت اقامت کی تکمیل سے پہلے پہلے وہ مسافر ہو جاتا ہے تو اس پر مسافر کے احکام جاری ہوں گے۔

اس حکم کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مسح علی الخفین کا حکم وقت کے ساتھ متعلق ہے اور ہر وہ چیز جس کا حکم وقت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس میں آخر وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، مثلاً حائضہ ہے، اگر یہ نماز کے آخری وقت میں پاک ہوگئی تو اس پر اس وقت کی نماز پڑھنا واجب ہوگا، کیوں کہ نماز کا حکم بھی وقت کے ساتھ متعلق ہے۔ بہر حال مسح میں بھی آخری وقت کا اعتبار ہوگا اور صورت مسئلہ میں چوں کہ آخر وقت میں یہ شخص مسافر ہو گیا ہے۔ اس لیے اب یہ تین دن تین راتوں تک مسح کرے گا۔

ہاں اگر یہ شخص مدت اقامت پوری کرنے کے بعد مسافر ہوا تو اب اس کے لیے تین دن تین رات تک مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ مضمی مدت اقامت کی وجہ سے اس کے قدموں میں حدث سرایت کر چکا ہے، اس لیے اب قدموں کا دھونا واجب ہے، کیوں کہ آپ پہلے ہی یہ جان چکے ہیں کہ موزہ رافع حدث نہیں ہے۔

﴿وَلَوْ أَقَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِنْ اسْتَكْمَلَ مَدَّةَ الْإِقَامَةِ نَزَعَ﴾ لِأَنَّ رُحْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبْقَى بِدُونِهِ، ﴿وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْ أَتَمَّهَا، لِأَنَّ هَذِهِ مَدَّةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مُقِيمٌ﴾

**ترجمہ:** اور اگر کوئی شخص مقیم ہو گیا حالانکہ وہ مسافر تھا، تو اگر اس نے مدت اقامت پوری کر لی ہے تب تو موزے نکال دے، کیوں کہ سفر کے بغیر رخصت سفر باقی نہیں رہتی، اور اگر مدت اقامت پوری نہ کر سکا ہو تو اسے پوری کر لے، کیوں کہ یہی مدت اقامت ہے اور یہ شخص مقیم بھی ہے۔

### مسافر اور مقیم اگر دوران مسح حالت تبدیل کر لیں تو مدت مسح کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بحالت سفر موزوں پر مسح کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کی مدت مسح تین دن اور تین رات تک ہوگی، لیکن اگر یہ مدت پوری کرنے سے پہلے ہی وہ مقیم ہو گیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے مدت اقامت (یعنی ایک دن ایک رات) بھی پوری کر لی ہے یا نہیں؟ اگر اس نے مدت اقامت پوری کر لی ہو تو اس صورت میں موزے اتار کر پیروں کو دھوئے، کیوں کہ اب یہ مقیم ہو چکا ہے، اور اس کا سفر بھی ختم ہو چکا ہے اور بدون سفر رخصت سفر نہیں ملتی۔

لیکن اگر ابھی تک اس شخص نے مدت اقامت کی تکمیل نہ کی ہو، تو اس صورت میں ایک دن ایک رات تک وہ موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، کیوں کہ اب یہ شخص مقیم ہے اور ایک دن ایک رات ہی مقیم کی مدت مسح ہے۔

﴿وَمَنْ لَبَسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ﴾ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ الْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ، وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ، وَلِأَنَّهُ تَبَعَ لِلْخُفِّ اسْتِعْمَالًا وَعَرَضًا فَصَارَ كَخُفِّ ذِي طَائِفَيْنِ، وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الرَّجْلِ لَا عَنِ الْخُفِّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَبَسَ الْجُرْمُوقَ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ حَلَّ بِالْخُفِّ فَلَا يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْجُرْمُوقُ مِنْ كِرْبَاسٍ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنِ

الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تَنْفَذَ الْبَلَّةُ إِلَى الْخُفِّ .

**ترجمہ:** اور جو شخص موزے کے اوپر جرموق پہنے ہو تو وہ جرموق پر مسح کرے، امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموقین پر مسح فرمایا ہے اور اس لیے بھی کہ جرموق استعمال کرنے اور مقصد حاصل کرنے کے اعتبار سے خف کے تابع ہوتا ہے، لہذا وہ دو طاقہ موزے کی طرح ہو گیا۔ اور جرموق پاؤں کا بدل ہے نہ کہ خف کا۔

برخلاف اس صورت کے جب کوئی شخص حدث لاحق ہونے کے بعد جرموق پہنے، کیوں کہ حدث خف میں سرایت کر گیا، لہذا دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور اگر جرموق سوتی کپڑے کا ہو تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ پاؤں کا بدل نہیں بن سکتا، **إِلَّا** یہ کہ تری خف تک سرایت کر جائے (تو اس پر مسح جائز ہوگا)۔

### اللُّغَاتُ:

﴿جُرْمُوقٌ﴾ چھوٹا موزہ جو بڑے موزے کے اوپر پہنا جائے، پائتایہ، ساق پوش۔ ﴿تَنْفِذٌ﴾ نَفَذَ يَنْفِذُ، باب نصر؛ پہنچنا، جاری ہونا، لگنا۔ ﴿بَلَّةٌ﴾ تری، طراوت۔ ﴿يَكْرُبَاسٌ﴾ سوتی کپڑا، کینوس کا کپڑا۔

### تَخْرِيجُ:

① اخرجه ابوداؤد بلفظ موقیہ مکان الجر موقین فی کتاب الطہارۃ باب المسح علی الخفین حدیث رقم ۱۵۳.

### جرموق؛ تعریف حکم اور مسح کے جواز کا بیان:

صاحب بنایہ اور صاحب عنایہ رحمہما اللہ نے جرموق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے الجر موق ما یلبس فوق الخف وساقہ أقصر من الخف (عنایہ، بنایہ) یعنی جرموق وہ موزہ کہلاتا ہے جو خفین کے اوپر پہنا جاتا ہے اور اس کی پنڈلی خفین کی پنڈلی سے چھوٹی ہوتی ہے۔

عبارت میں بیان کردہ مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خفین کی حفاظت اور اسے آلودگی اور نجاست وغیرہ سے بچانے کی غرض سے اس کے اوپر جرموق پہن لیا تو ہمارے یہاں اس شخص کے لیے جرموق پر مسح کرنا جائز ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ موزہ تو پہلے ہی پاؤں کا بدل ہے، اب اگر کوئی شخص جرموق پہن لیتا ہے تو یہ موزے کا بدل ہو جائے گا اور بدل کا بدل بھی ہوتا ہے؟ اس لیے جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔

ہماری پہلی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجر موقین، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جر موقین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس حدیث سے دو دو چار کی طرح یہ واضح ہے کہ جر موقین پر مسح کرنا جائز ہے۔

دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ جرموق استعمال اور غرض دونوں اعتبار سے خف کے تابع ہے، استعمال کے اعتبار سے تو اس معنی کر کے تابع ہے کہ جرموق موزے ہی کی طرح پاؤں میں پہنا جاتا ہے اور چلنے، پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں (موزے کے ساتھ ساتھ) لگا رہتا ہے۔ اور غرض کے اعتبار سے بایں معنی تابع ہے کہ جس طرح موزہ پیروں کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح جرموق موزے کی حفاظت کرتا ہے، لہذا یہ جب مقصد اور استعمال دونوں اعتبار سے خف کے تابع ہے تو حکم کے اعتبار سے بھی خف کے تابع ہوگا، اور چوں کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے، لہذا جرموقین پر مسح کرنا بھی جائز ہوگا۔

اور جرموق کی مثال دو تہہ والے موزوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح دو تہہ والے موزوں پر مسح جائز ہے، اسی طرح چوں کہ خف اور جرموق ملا کر یہاں بھی دو تہہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر بھی مسح جائز ہوگا۔

وہو بدل عن الرجل الخ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب ہے کہ آپ کا جرموقین کو خفین کا بدل کہنا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ جرموقین خفین کا نہیں، بل کہ قدم کا بدل ہیں، کیوں کہ اگر یہ خفین کا بدل ہوتے تو ان پر مسح جائز نہ ہوتا، حالانکہ ان پر شرعاً مسح کرنا جائز ہے، معلوم ہوا کہ یہ خفین کا نہیں، بل کہ قدمین کا بدل ہیں۔

بخلاف الخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدث لاحق ہونے کے بعد جرموقین پہنے تو اب اس کے لیے جرموقین پر مسح جائز نہیں ہے، کیوں کہ موزوں میں حدث حلول کر چکا ہے، لہذا اب وہ جرموقین کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سوتی کپڑوں کے جرموقین پہنے تو اس پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ سوتی کپڑوں کے جرموق موٹے ہوتے ہیں اور ان کو پہن کر چلنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے یہ مکاحقہ پیروں کا بدل نہیں بن سکیں گے، لہذا ان پر مسح بھی جائز نہیں ہوگا۔

ہاں اگر جرموق باریک کپڑے کے ہوں اور مسح کی تری خفین تک جا پہنچی ہو تو اس صورت میں ان پر مسح جائز ہوگا، لیکن اس وجہ سے جائز ہوگا کہ یہ جرموقین پر نہیں، بل کہ خفین پر مسح کیا گیا ہے اور خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ (بنیاد)

﴿وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُورِبِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجَلْدَيْنِ أَوْ مُنْعَلَيْنِ وَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَشْفَانِ﴾ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① مَسَحَ عَلَى جُورِبِيهِ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ إِذَا كَانَ ثَخِينًا، وَهُوَ أَنْ يَتَمَسَّكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْتَبَطَ بِشَيْءٍ فَاشْبَهَ الْخُفَّ، وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْخُفِّ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَوَاطَبَةُ الْمَشْيِ فِيهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُنْعَلًا وَهُوَ مُحْمَلُ الْحَدِيثِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

**ترجمہ:** اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جوربین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مجلد یا منعل ہوں (جب جائز ہے) حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر جوربین موٹے ہوں اور چھتے نہ ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوربین پر مسح فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ اگر وہ موٹے ہوں تو ان میں چلنا ممکن ہے، اور خفین ہونا یہ ہے کہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر نکلے رہیں، لہذا یہ خف کے مشابہ ہو گیا۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جورب خف کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ اسے پہن کر مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے، مگر اسی صورت میں جب وہ متعل ہو اور یہی حدیث کا محل ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انھوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔

## اللغات:

﴿جَوْرَبٌ﴾ اوننی یا سوتی موزہ، جراب۔ ﴿مُجَلَّدٌ﴾ چمڑے میں ہر طرف سے ڈھکا ہوا۔ ﴿مُنْعَلٌ﴾ ایسی جراب جس کے تلوے میں چمڑا لگا ہو۔ ﴿فَخِينِيْنٌ﴾ مونا، دبیز، گہرا، سخت کرخت۔

## تخریج:

- ① اخرجه ابو داؤد في كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين حديث رقم ۱۵۹.  
والترمذی فی کتاب الطهارة باب المسح على الجوربين والنعلين حديث رقم ۹۹.

## جوربین پر مسح کا بیان:

حل عبارت سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جوربین جورب کا تشبیہ ہے اور اس کی جمع جوارب اور جواربۃ آتی ہے، جورب اس پائتائے کو کہتے ہیں جو سخت سردی میں پہنا جاتا ہے یہ اون یا پتلے چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور خف کی سائز سے چھوٹا ہوتا ہے (بنایہ ۱۵۹/۵) مجلد وہ موزہ کہلاتا ہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں حصے میں چمڑا فٹ ہو متعل وہ موزہ کہلاتا ہے جس کے نچلے حصے یعنی تلوے میں چمڑا فٹ ہو۔ (بحوالہ سابقہ)

یشفان باب ض سے ہے تشبیہ کا صیغہ وشف کے معنی میں ہیں، کسی چیز کا چھٹنا یا رستا۔

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر جوربین مجلد یا متعل ہیں تب تو امام صاحب اور صاحبین کے یہاں ان پر مسح درست ہے، لیکن اگر جوربین مجلد یا متعل نہ ہوں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر جوربین اتنے موٹے ہوں کہ ان میں سے پانی چھٹتا اور رستا نہ ہو نیز ان کو پہن کر چلنا ممکن ہو تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔

حضرات صاحبین کی نقلی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی وہ حدیث ہے جو عنایہ اور بنایہ وغیرہ میں مذکور ہے جس کا مضمون یہ ہے أن النبی ﷺ مسح علی الجوربین اس حدیث سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ ﷺ نے جوربین پر مسح فرمایا ہے اور پھر چون کہ یہ حدیث مطلق ہے اور اس میں جوربین کے متعل یا مجلد ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے المطلق یجوز علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت مطلق جوربین پر مسح کرنا جائز ہوگا۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر جوربین موٹے کپڑے کے ہوں اور کسی چیز سے باندھے بغیر پیروں میں نکلے رہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو پہن کر چلنا بھی ممکن ہوگا اور جب چلنا ممکن ہوگا تو جس طرح خفین میں مشی کے ممکن ہونے کی وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح ان میں بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔

حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جورب من کل الوجوه خف کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ جورب کو پہن

کر تسلسل کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، اس لیے موزے پر قیاس کر کے اس پر جواز مسح کا قائل ہونا بھی درست نہیں ہے، البتہ اگر جو رب منعل ہو تو اس صورت میں چوں کہ اسے پہن کر تسلسل چلنا ممکن ہے، اس لیے جو رب منعل پر مسح کی اجازت ہوگی اور یہی (جو رب کا منعل ہوتا) ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا محمل بھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت الامامؑ کا یہ قول متروک ہے اور آپ نے اپنی وفات سے چند ایام پیشتر غیر منعل جو رب پر مسح کیا تھا اور یہ کہہ کر فعلت ما کنت امنع الناس عنہ (میں نے آج وہ کام کر لیا جس سے لوگوں کو منع کرتا تھا) اپنے اس قول سے رجوع فرمایا تھا، اس لیے اب حضرات صاحبین کا قول ہی مستند اور معتمد ہے، نیز اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔

﴿وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوتَةِ وَالْبُرُقِ وَالْقَفَازِينَ لِأَنَّهُ لَا حَرَاجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَالرُّخْصَةُ لِدَفْعِ الْحَرَاجِ .﴾

**ترجمہ:** اور عمامہ، ٹوپی، برقعہ اور دستانوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان چیزوں کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ رخصت مسح دفع حرج ہی کے پیش نظر ہے۔

### اللغات:

﴿عِمَامَةٌ﴾ پگڑی۔ ﴿قَلَنْسُوتَةٌ﴾ ٹوپی۔ ﴿قَفَازٌ﴾ دستانہ۔

### لباس کی ان چیزوں کا بیان جن پر مسح جائز نہیں:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ مسح علی الخفین کے جواز کی علت ہی دفع حرج ہے اور چوں کہ عمامہ، ٹوپی اور برقعہ وغیرہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ان میں سے کسی بھی چیز پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔

﴿وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ﴾ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① فَعَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِ، وَلَإِنَّ الْحَرَاجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرَاجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ فَكَانَ أَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْحِ، وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِهَا، ذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا يَتَوَقَّعُ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ بِالتَّوْقِيفِ، ﴿وَإِنْ سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بَرءٍ لَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ﴾ لِأَنَّ الْعُدْرَ قَائِمٌ، وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُدْرُ بَاقِيًا، وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بَرءٍ بَطَلَ لِرُزْوَالِ الْعُدْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدْلِ .

**ترجمہ:** اور جبائز پر مسح کرنا جائز ہے ہر چند کہ اسے بغیر وضو کے باندھا ہو، اس لیے کہ آپ ﷺ نے ایسا کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جبیرہ اتارنے کا حرج موزہ اتارنے کے حرج سے بڑھا ہوا ہے، لہذا یہ مشروعیت مسح کا زیادہ مستحق ہے، اور اکثر جبیرہ پر مسح کرنے پر اکتفاء کرے، اس کو حضرت حسنؑ نے بیان کیا ہے، اور مسح علی الجبیرة موقت نہیں ہے

کیوں کہ تعیین وقت کے سلسلے میں کوئی واقفیت نہیں ہے۔

اور اگر زخم ٹھیک ہوئے بغیر پٹی گر گئی تو مسح باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ عذر (اب بھی) باقی ہے۔ اور جب تک عذر باقی ہو جبیرہ پر مسح کرنا اس کے نچلے حصہ کو دھونے کی طرح ہے۔ اور اگر زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی گر جائے تو زوالِ عذر کی وجہ سے مسح باطل ہو جائے گا اور اگر ایسا شخص نماز میں تھا تو اسے نماز پڑھے، کیوں کہ بدل کے ذریعے حصولِ مقصود سے پہلے وہ اصل پر قادر ہو گیا۔

## اللغَات:

﴿جَبَانِرٌ﴾ اسم جمع، واحد جبیرہ: پٹی، زخم وغیرہ پر لپیٹے جانے والی کپڑے کی دھجی۔ ﴿بُرُءٌ﴾ اندمال، زخم یا چوٹ وغیرہ کا صحیح ہو جانا، تکلیف کا جاتے رہنا۔

## تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الحيض باب جواز المسح على الجبائر حديث رقم ۸۶۷.

## چوٹ اور زخم کی پٹی پر مسح کی تفصیل:

حل عبارت سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جبائر جبیرہ کی جمع ہے جیسے کبائر کبیرہ کی جمع ہے، اور جبیرہ اس لکڑی اور پیری کو کہتے ہیں جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جانے پر باندھی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ جبائر پر مسح کرنا جائز اور درست ہے ہر چند کہ اسے بغیر طہارت کے باندھا ہو، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود صاحب شریعت حضرت محمد ﷺ نے جبیرہ پر مسح فرمایا ہے اور غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت علی کا گنا ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے انھیں بھی باندھی ہوئی جبیرہ پر مسح کرنے کا حکم دیا تھا۔ جبیرہ پر جواز مسح کی دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مسح علی الخفین کا جواز دفع حرج کی وجہ سے ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خفین کے بالمقابل جبیرہ نکالنے میں اور بھی زیادہ حرج ہے، لہذا جب علت جواز میں جبیرہ خفین سے بھی آگے ہے تو اس پر مسح کا جواز بھی بدرجہ اولیٰ ہوگا۔

رہا یہ مسئلہ کہ پوری جبیرہ پر مسح کیا جائے یا بعض پر تو اس سلسلے میں افضل یہ ہے کہ پوری جبیرہ پر مسح کیا جائے، تاہم حضرت حسن بن زیاد سے منقول ہے کہ اگر کسی نے جبیرہ کے اکثر حصے پر مسح کیا تو بھی مسح جائز ہوگا، کیوں کہ اکثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، ضابطہ ہے للأكثر حکم الكل۔

ولا يتوقت الخ صاحب ہدایہ اس عبارت سے ایک حکم بھی بیان کر رہے ہیں اور جبیرہ نیز خفین کے مابین فرق کو بھی بیان کر رہے ہیں، گویا کہ ایک تیر سے دو دو شکار کر رہے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ جبیرہ پر مسح کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یعنی مقیم کے لیے ایک دن ایک رات مثلاً، یا مسافر کے لیے تین دن تین راتیں جس طرح مسح علی الخفین میں اس طرح کی تحدید اور توقیت ہے، اس طرح جبیرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہی دونوں میں فرق بھی ہے۔ جبیرہ میں توقیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں تحدید یا توقیت کے حوالے سے کوئی حدیث یا اثر نہیں مل سکی ہے، اس لیے ہم نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔

وان سقطت الخ یہاں سے مسح علی الخفین اور مسح علی الجبیرہ کے مابین دوسرے فرق کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر زخم ٹھیک ہونے سے پہلے ہی جبیرہ گر گئی تو بھی مسح علی الجبیرہ باطل نہیں ہوگا کیوں کہ اس کی مشروعیت عذر کے پیش نظر ہے اور زخم کا ٹھیک نہ ہونا اس بات کی واضح علامت ہے کہ عذر ابھی باقی ہے اور عذر باقی رہتے ہوئے مسح علی الجبیرہ کی اجازت ہوگی اور یہ مسح ایسا ہوگا گویا کہ عضو ہی کو دھویا جا رہا ہے، اس کے برخلاف اگر پیروں سے موزے نکل جائیں تو مسح ہر حال میں باطل ہو جائے گا، خواہ کسی بھی طرح نکلیں۔ البتہ اگر زخم ٹھیک ہونے کے بعد جبیرہ گر جائے تو اس صورت میں مسح باطل ہو جائے گا کیوں کہ اب عذر ختم ہو چکا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ما جاء لعذر بطل بزواله یعنی جو چیز کسی عذر کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ عذر کے زائل ہوتے ہی خود بھی ختم ہو جاتی ہے۔

وان كان في الصلاة الخ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جبیرہ پر مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے جبیرہ گر گئی تو اس شخص پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، کیوں کہ اب یہ شخص بدل (مسح علی الجبیرہ) کے ذریعے مقصود حاصل کرنے (نماز پڑھنے) سے پہلے اصل (پانی اور غسل) پر قادر ہو گیا اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قدرت ہو جائے تو جس چیز کو بدل سے شروع کیا تھا اس کا اعادہ ضروری ہے، ضابطے کے الفاظ یہ ہیں الأصل عندنا أن القدرة على الأصل أي على المبدل قبل استيفاء المقصود بالمبدل ينتقل الحكم إلى المبدل۔





## بَابُ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاظَةِ

یہ باب حیض اور استحاضہ کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے اُن احداث کو بیان کیا ہے جو کثیر الوقوع ہیں اور اب یہاں سے اُن احداث کو بیان کریں گے جو قلیل الوقوع ہیں، اس لیے پہلے کثیر الوقوع احداث کو بیان کیا گیا، بعد میں قلیل الوقوع احداث کو بیان کیا جا رہا ہے، اور صاحب عنایہ کی تحقیق کے مطابق حیض اور نفاس کو احداث میں سے شمار کرنا زیادہ مناسب ہے، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد باب الانجاس کا بیان ہے، اب اگر ہم حیض وغیرہ کو انجاس میں سے مان لیں جیسا کہ بعض حضرات کی یہی رائے ہے تو اس صورت میں باب الانجاس کا بیان مکرر ہوگا، جب کہ تکرار ترتیب اور تصنیف دونوں کے خلاف ہے، خاص کر وہ تکرار جو بلا فائدہ ہو۔

اور چون کہ نفاس حیض کا ہم معنی ہے یا یہ کہ وہ حیض کے بالمقابل قلیل الوقوع ہے، اس لیے عنوان کے تحت حیض کا تذکرہ تو کر دیا گیا، مگر نفاس کے تذکرے سے خاموشی برتی گئی۔

**حیض کے لغوی معنی:**

الدم الخارج نكته والاخون۔

**حیض کے اصطلاحی معنی:**

هو دم ينفسه رحم المرأة السليمة عن الداء والصفر، یعنی وہ خون جو بیماری اور صفرسنی سے پاک عورت کے رحم سے نکلے وہ حیض کہلاتا ہے۔

**حیض کی شرط:**

تقدم نصاب الطهر حقيقة أو حكما و فراغ الرحم عن الحمل، یعنی حقیقی یا حکمی طور پر نصاب طہر کا حیض سے مقدم ہونا نیز عورت کے رحم کا حمل وغیرہ سے خالی ہونا حیض کے لیے شرط ہے۔ (عنایہ ۱۶۳)

﴿أَقْلُ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِكُلِّيَّهَا، وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ إِسْتِحَاظَةٌ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① أَقْلُ الْحَيْضِ

لِلجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالنَّيِّبِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي التَّقْدِيرِ  
بِیَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَوْمَانِ وَالْأَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّلَاثِ إِقَامَةٌ لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ، قُلْنَا هَذَا  
نَقْصٌ عَنِ التَّقْدِيرِ الشَّرْعِ، «وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، وَالزَّائِدُ اسْتِحْضَاةٌ» لِمَا رَوَيْنَا، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
فِي التَّقْدِيرِ بِحَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ اسْتِحْضَاةٌ، لِأَنَّ تَقْدِيرَ الشَّرْعِ يَمْنَعُ إلْحَاقَ الْغَيْرِ بِهِ.

**ترجمہ:** اور حیض کی کم سے کم مدت تین دن تین راتیں ہیں اور جو اس (مقدار) سے کم ہو وہ استحاضہ ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ باکرہ اور ثیبہ عورت کے حیض کی ادنیٰ مدت تین دن اور تین راتیں ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہیں، اور یہ حدیث ایک دن ایک رات کے ساتھ اندازہ کرنے میں امام شافعی رضی اللہ عنہما کے خلاف حجت ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حیض کی اقل مدت دو دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی بیان کردہ مقدار سے کم کرنا ہے۔

اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے، اس رویت کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، اور وہ روایت پندرہ دن کے ساتھ اندازہ کرنے میں امام شافعی رضی اللہ عنہما کے خلاف حجت ہے، پھر زائد اور کم دونوں استحاضہ ہیں، اس لیے کہ شریعت کی بیان کردہ مقدار (اندازہ شرعی) اپنے ساتھ دوسرے کے الحاق سے مانع ہے۔

### تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الحيض باب الحيض حديث رقم ۸۳۶ بمعناه ۸۳۴.

### مدت حیض کا بیان:

اوپر کی عبارت میں حیض کی اقل اور اکثر مدت سے بحث کی گئی ہے، اقل مدت حیض کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مدت کم سے کم تین دن اور تین راتیں ہیں، چنانچہ اگر اس مقدار سے کم وقت تک کسی عورت کو خون آتا ہے تو وہ استحاضہ اور بیماری کا خون ہوگا، حیض کا خون نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کا وہ فرمان مستدل ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور جس میں نہایت وضاحت کے ساتھ تین دن اور تین راتوں کو حیض کی اقل مدت قرار دیا گیا ہے، صاحب عنایہ رضی اللہ عنہما نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود جیسے کبار صحابہ سے مروی ہے جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ اقل مدت حیض ثلاثہ ایام و لیلایہا ہی ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہما کا مسلک یہ ہے کہ حیض کی ادنیٰ مدت ایک دن ایک رات ہے، کیوں کہ جب چوبیس گھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے خون آتا رہے گا تو اچھی طرح یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ خون رحم ہی سے آ رہا ہے اور رحم سے آنے والا خون دم حیض ہوتا ہے، اس لیے دم حیض کی معلومات کے لیے یہ مدت کافی ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حیض کی اقل مدت ہے ہی نہیں، بل کہ اگر ایک ساعت بھی رحم سے خون آجائے تو وہ دم

حیض ہوگا، کیوں کہ یہ بھی ایک طرح کا حدث ہے، لہذا جس طرح دیگر احداث میں تحدید اور توقیت نہیں ہے، ہذا اس میں بھی کوئی تحدید اور توقیت نہیں ہوگی۔ (عنایہ ۱۶۳)

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ حیض کی اقل مدت دو دن دو راتیں اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے، اس لیے کہ حیض کا خون مسلسل نہیں آتا، بل کہ وقفے وقفے سے آتا ہے، لہذا تیسرے دن کے اکثر حصہ میں اگر ایک دو مرتبہ خون نظر آجائے گا تو لاکثر حکم الکل والے ضابطے سے وہ دن بھی حالت حیض میں شمار کیا جائے گا۔

لیکن جب حدیث پاک میں صاف طور پر ثلاثۃ ایام ولیالیہا کو اقل مدت حیض قرار دے دیا گیا تو پھر ظاہر نص کے مقابلے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں کہ اگر ہم اس مدت میں کمی مان لیں تو شریعت کی بیان کردہ مدت میں کمی ماننا لازم آئے گا جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔

واکثر الخ یہاں سے حیض کی اکثر مدت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے اور اس مدت سے زائد آنے والا خون دم استحاضہ کہلائے گا، اور اس پر وہ حدیث دلیل ہے جو شروع متن میں آچکی ہے اور جس میں واکثرہ عشرۃ ایام کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی ظاہر نص سے انحراف کر لیا، وہ فرماتے ہیں کہ حیض کی اکثر مدت پندرہ دن ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے تفعد احداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي یعنی ہر عورت اپنی نصف عمر یوں ہی بیٹھی رہتی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزے رکھتی ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف عمر تک عورتوں کو روزے نماز سے خالی رہنے کا اشارہ دیا ہے، اور نصف عمر روزہ نماز نہ کرنا اسی صورت میں متحقق ہوگا جب اکثر مدت حیض کو پندرہ دن مانا جائے، کیوں کہ حیض کے علاوہ اور دنوں میں عورتیں نماز روزہ کرتی اور کر سکتی ہیں۔

لیکن ہماری طرف سے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا نصف عمر عورتوں کے روزہ نماز نہ کرنے کو حیض ہی کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بلوغت سے پہلے کا زمانہ بھی نماز روزہ نہ کرنے کا زمانہ ہے، نیز نفاس کے دوران بھی عورت نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، اس لیے یہ مدت نصف عمر کے قریب قریب پر محمول ہے اور وہ دس دن کو اکثر مدت حیض قرار دینے سے بہ آسانی سمجھ میں آسکتی ہے اور اس حمل پر ہماری پیش کردہ دلیل بھی دلیل ہے۔

ثم الزائد الخ فرماتے ہیں کہ کہ اقل مدت سے کم اور اکثر مدت سے زیادہ جو خون آئے گا وہ حیض کا نہیں، بل کہ استحاضے اور بیماری کا خون ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے حیض کی اول اور اکثر دونوں مدت متعین کر دی ہے، لہذا شریعت کی متعین کردہ مدت اور اس کی بیان کردہ مقدار سے جو چیز بھی کم یا زیادہ ہوگی وہ ماتعین بہ الشرع سے خارج ہوگی، اور صورت مسئلہ میں اگر خون بیان کردہ مدت سے کم یا زیادہ مدت تک آئے گا تو وہ بھی دم حیض نہیں ہوگا، بل کہ استحاضے کا خون ہوگا۔

لَا تَكُونُ الْكُدْرَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا بَعْدَ الدَّمِ ﴿۱﴾ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرَّحِمِ لَتَأَخَّرَ خُرُوجُ الْكُدْرِ عَنِ الصَّافِي، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها جَعَلَتْ مَا سِوَى الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضًا، وَهَذَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا سَمَاعًا، وَقَمَّ الرَّحِمُ مَنكُوسٌ فَيَخْرُجُ الْكُدْرُ أَوَّلًا كَالْجَرَّةِ إِذَا نُقِبَ أَسْفَلُهَا. وَأَمَّا الْخُضْرَةُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَفْرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْغِذَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا تَرَى غَيْرَ الْخُضْرَةِ تُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْمَنَبَتِ فَلَا تَكُونُ حَيْضًا.

**ترجمہ:** اور وہ چیز جسے عورت دیکھے یعنی سرخی، زردی اور گدلا رنگی وہ حیض ہے یہاں تک کہ وہ خالص سفیدی کو دیکھ لے، امام ابو یوسف رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ گدلا رنگ حیض نہیں ہوگا مگر خون دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ اگر وہ رحم سے آتا تو صافی کے بعد نکلتا۔ اور حضرات طرفین کی دلیل وہ روایت ہے جو اس مضمون کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضي الله عنها نے خالص سفیدی کے علاوہ ہر طرح کے خون کو حیض قرار دیا ہے اور یہ بات صرف سن کر ہی معلوم ہو سکتی ہے، اور رحم کا منہ ابندھا ہوتا ہے، اس لیے مکرر خون پہلے نکلتا ہے، جیسے اگر گھڑے کے نیچے سوراخ کر دیا جائے۔ رہا سبز رنگ تو صحیح یہ ہے کہ اگر عورت ذوات الخیض میں سے ہو تو وہ حیض ہوگا اور اسے خرابی غذا پر محمول کیا جائے گا، لیکن اگر عورت عمر دراز ہو اور سبز رنگ کے علاوہ (دوسرا خون) دیکھتی ہی نہ ہو تو اسے فسادِ رحم پر محمول کیا جائے گا، اور وہ دم حیض نہیں ہوگا۔

## اللغات:

﴿حُمْرَةٌ﴾ سرخ رنگ، سرخی۔ ﴿صُفْرَةٌ﴾ پیلا رنگ، پیلاہٹ۔ ﴿كُدْرَةٌ﴾ گدلا رنگ، میل، نیلا رنگ۔ ﴿مَنكُوسٌ﴾ ابندھا، سر نیچے اور پاؤں اوپر کیا ہوا۔ ﴿جَرَّةٌ﴾ گھڑا۔ ﴿نُقِبَ﴾ صیغہ مجہول، ثقب یثقب، باب فتح، سمع؛ چھیدنا، سوراخ کرنا۔ ﴿أَفْرَاءٌ﴾ اسم جمع، واحد قرق، حیض اور طہر دونوں میں مشترک ہے۔ یعنی حیض مراد ہے۔

## حیض کے مختلف رنگوں کا بیان:

یہاں سے الوان حیض کا بیان شروع ہو رہا ہے، علامہ عینی اور صاحب عنایہ رضي الله عنهما نے لکھا ہے کہ حیض کے کل چھ رنگ ہوتے ہیں (۱) سیاہ (۲) سرخ (۳) زرد (۴) سبز (۵) گدلا (۶) نیلا، ان الوان ستہ میں سے صاحب قدوری نے صرف (۴) چار کا ذکر کیا ہے سیاہ اور نیالے کا ذکر نہیں کیا ہے، علامہ عینی وغیرہ نے ان دونوں کو بیان نہ کرنے کی وجہ یہ تحریر کی ہے کہ سیاہ خون کے دم حیض ہونے میں کوئی شک و شبہ اور کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے دم الحیض أسود عیبط محتدم یعنی حیض کا خون تازہ ہوتا ہے اور اس قدر سرخ ہوتا ہے سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس حدیث سے صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سیاہ خون کے دم حیض ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور نیالے رنگ کے خون سے بحث نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رنگ اور گدلا خون کا رنگ تقریباً یکساں ہوتا ہے، اس لیے گدلا رنگ والے خون کے تحت چون کہ وہ بھی آجاتا ہے،

لہذا لگ سے اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ (عناویہ ۱۶۵)

ان الوان کا حکم یہ ہے کہ سیاہ اور سرخ رنگ والا خون تو بالاتفاق دم حیض ہے، نیز اصح قول کے مطابق گاڑھا خون بھی دم حیض ہے، بقیہ کا بیان کتاب میں ہے۔ (عبارت دیکھئے)

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں سرخ، زرد اور گدلے رنگ کا خون تینوں دم حیض نہیں اور انھیں اس وقت تک حیض مانا جائے گا جب تک کہ عورت خالص سفید رنگ کا خون نہ دیکھ لے، اس کے بالمقابل امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گدلے رنگ کا خون اسی وقت حیض کا خون کہا جائے گا جب وہ صاف خون کے بعد نکلے، کیوں کہ دم حیض رحم سے آتا ہے، اور اگر گدلے رنگ کا خون بھی رحم سے آتا تو وہ صاف خون کے بعد ہی نکلتا، کیوں کہ ہر چیز کا گدلا پن اس چیز کے صاف اور شفاف جزء کے تابع ہوتا ہے، اگر یہ خون بھی اندرون رحم سے آتا تو یقیناً اس سے پہلے صاف خون آتا، لیکن خود اس کے صاف خون سے پہلے نکلنے کی وجہ سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ رحم سے نہیں آیا ہے، اور غیر رحم سے آنے والا خون دم حیض نہیں ہوتا، لہذا یہ بھی دم حیض نہیں ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ فرمان ہے جس کا ایک ٹکڑا کتاب میں مذکور ہے، پورا مضمون یوں ہے

كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسئلهن عن الصلاة ؟ فتقول لهن لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء، یعنی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنے کرسف کو ڈبے میں رکھ بھیجتی تھیں اور اس کرسف میں حیض کے زرد رنگ کا خون ہوتا تھا، عورتیں یہ کرسف بھیج کر ان سے نماز کے متعلق معلومات حاصل کرتی تھیں جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انھیں یہ جواب مرحمت فرماتی تھیں کہ ابھی جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم لوگ خالص سفیدی کو دیکھ لو، اس کے بعد ہی نماز پڑھنا شروع کرو۔ اس مضمون سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خالص سفیدی کے علاوہ ہر رنگ کا خون دم حیض ہے۔ کیوں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور ہر دل عزیز زوجہ محترمہ تھیں اور جن سے امت کو بہت ساری اندرونی معلومات فراہم ہوئی ہیں، اس لیے بجا پر طور یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کیا ہے۔

وفم الرحم منكوس الخ یہاں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ گدلے رنگ کے خون کو صاف خون کے بعد آنا چاہیے ہمیں تسلیم تو ہے، مگر اس وقت جب رحم کا منہ نیچے کی طرف اوندھا ہوا نہ ہوتا، حالاں کہ ایام حیض میں رحم کا منہ کھلا ہونے کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف اوندھا ہوا بھی ہوتا ہے اور رحم کے اوندھا ہونے کی صورت میں گدلے رنگ کے خون کا پہلے ہی نکلنا طے ہے، کیوں کہ اگر آپ کسی مٹکے اور گڑھے کے نیچے سراخ کر دیں تو پہلے نیچے کا کچڑا وغیرہ گرے گا یا صاف پانی نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ پہلے نیچے کا کچڑا ہی گرے گا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی پہلے گدلے رنگ کا خراب خون آئے گا اور اس کے بعد ہی صاف خون آئے گا، اس لیے گدلے رنگ کا خون بھی دم حیض ہے اور اسے الوان حیض سے مستثنیٰ کرنا درست نہیں ہے۔

وأما الخضرة صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کے خون میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت ذوات الحیض میں سے ہے اور وہ سبز رنگ کا خون دیکھ رہی ہے تو اس صورت میں یہ خون بھی دم حیض ہوگا اور خون کی سبزیگی کو غداء کی خرابی پر محمول کیا

جائے گا، لیکن اگر وہ عورت ذواتِ حیض میں سے نہ ہو تو اس صورت میں یہ خون دم حیض نہیں ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ رحم کی خرابی کی وجہ سے یہ خون اس رنگ میں آ رہا ہے، صاحب کتاب نے الصحیح کہہ کر نصر بن سلام کے اس قول سے احتراز کیا ہے جو سبز رنگ کے خون ہی کو نہیں مانتے اور رحمِ مرآة سے اس کے نکلنے کو محال اور مستبعد سمجھتے ہیں۔ (بنایہ)۔

﴿وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ﴾  
لِقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَتْ إِحْدَانَا عَلَىٰ عَهْدِ ① رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَهَّرْتُ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، وَلَآنَ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجًا لِتَضَاعُفِهَا، وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ .

**ترجمہ:** اور حیضِ حائضہ عورت سے نماز کو ساقط کر دیتا ہے اور اس پر روزے کو حرام قرار دیتا ہے اور حائضہ عورت روزے کی قضاء کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس فرمان کی وجہ سے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں جب ہم میں سے کوئی عورت اپنے حیض سے پاک ہوتی تھی تو وہ صرف روزوں کی قضاء کرتی تھی اور نمازوں کی قضاء نہیں کرتی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ نمازوں کے دوچند ہوجانے کی وجہ سے ان کی قضاء میں حرج ہے، جب کہ روزے کی قضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## اللغات:

﴿تَضَاعُفٌ﴾ اسم مصدر، باب تفاعل؛ دوگنا ہونا، دہرا ہونا۔

## تخریج:

① اخرجہ الاثمة السنة فی كتبہم والبخاری فی کتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة حديث رقم ۳۲۱ .  
و ابوداؤد فی کتاب الطهارة باب فی الحائض لا تقضي الصلاة حديث رقم ۳۶۲ .

## حیض کا حکم:

امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ حیض کے احکام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت سے نماز معاف ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو صرف روزوں کی قضاء کر لے اور نمازوں کی قضاء اس پر واجب نہیں ہے، اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ فرمان مستدل ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور جس میں صرف قضاے صوم کو بیان کیا گیا ہے۔

صاحب ہدایہ نے نمازوں کی قضاء واجب نہ ہونے کی عقلی دلیل بھی بیان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم حائضہ عورت پر نمازوں کی قضاء کو واجب اور لازم قرار دے دیں تو وہ بے چاری تاحیات قضاء ہی کرتی رہے گی، کیوں کہ اگر کسی عورت کو مثلاً دس دن حیض آتا ہے تو اس کی پچاس وقت کی نمازیں قضاء ہو گئیں، اب حیض سے فراغت کے بعد اگر ہر دن وہ پانچ وقتیہ نمازیں پڑھے اور پانچ نمازوں کی قضاء کرے تو دس دن تک لگاتار اسے دس وقت کی نمازیں پڑھنی ہوں گی، جو جوئے شیر لانے

کے مترادف ہے، کیوں کہ عورتوں پر گھریلو ذمے داریاں بھی کچھ کم نہیں ہوتیں، اس لیے نمازوں کی قضاء میں حرج ہے اور شریعت نے ہر محاذ پر اپنے ماننے والوں سے حرج کو دور کیا ہے، لہذا اس محاذ پر بھی حائضہ سے دفع حرج کے پیش نظر نمازوں کی قضاء معاف ہوگی۔

اس کے برخلاف روزوں کی قضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ روزہ گیارہ مہینے کے بعد فرض ہوتا ہے، اگر کسی عورت کے دس روزے بھی قضاء ہو گئے تو قضاء کرنے کی صورت میں ہر مہینے ایک روزہ بھی نہیں پڑے گا اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی لیے حائضہ پر روزوں کی قضاء بھی واجب ہے۔

﴿وَلَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ﴾ وَكَذَا الْجُنُبُ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ الدُّخُولِ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ، ﴿وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ﴾ لِأَنَّ الطَّوْفَ فِي الْمَسْجِدِ، ﴿وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (سورة البقرة: ۲۲۲)۔

**ترجمہ:** اور حائضہ مسجد میں بھی داخل نہ ہو، نیز جنبی بھی (مسجد میں داخل نہ ہو) اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے گزرنے اور پار کرنے کے طور پر دخول کی اجازت دینے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔

اور حائضہ بیت اللہ کا طواف بھی نہ کرے، کیوں کہ طواف مسجد میں ہوتا ہے۔ اور حائضہ سے اس کا شوہر ہم بستر نہ ہو، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ پاک ہو جانے تک حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔

## اللغات:

﴿عُبُور﴾ اسم مصدر، باب نصر؛ پار کرنا، تجاوز کرنا۔ ﴿مُرُور﴾ اسم مصدر، باب نصر۔

## تخریج:

① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطہارة باب فی الجنب یدخل المسجد حدیث رقم ۲۳۳۔

## حائضہ کے احکام:

اس عبارت میں حائضہ سے متعلق تین احکام کا بیان ہے (۱) پہلا حکم یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور چوں کہ عدم طہارت کے حوالے سے جنبی بھی حائضہ کا ہم معنی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ہمارے یہاں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اس پر نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان دلیل ہے کہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا، آپ کا یہ فرمان اس سلسلے میں بین دلیل ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگرچہ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، تاہم ان کے لیے مسجد سے گذرنا بہر حال جائز ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے لا تقربوا الصلاة وأنتم

سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابری سبیل الآیہ یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی مت جاؤ الآیہ کہ تم راہ چلنے والے ہو، اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ کا وجہ استدلال باین معنی ہے کہ آیت میں الصلاة سے مکان صلاة یعنی مسجد مراد ہے، اور آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نشے اور جنابت کی حالت میں مسجد کے قریب جانے کی ممانعت ہے اور پھر اس ممانعت سے إلا کے ذریعہ استثناء کرتے ہوئے یہ حکم مذکور ہے کہ اگر کوئی نشہ آور یا جنبی آدمی مسجد سے گذرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے ہم حائضہ (شوافع) اور جنبی کے لیے مرور اور عبور کی اجازت دیتے ہیں۔

ہماری طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کو پہلا جواب یہ ہے کہ ہماری بیان کردہ حدیث مطلق ہے اور اس میں عبور یا مرور کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے جنبی اور حائضہ کے لیے مطلقاً مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی، خواہ وہ علی وجہ المرور اور عبور ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت پاک کا جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ إلا یہاں ولا کے معنی میں ہے اور آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نہ تو نشہ آور کے لیے نماز کے قریب جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی جنبی کے لیے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی علی سبیل المرور مسجد کے قریب جائے۔

اور تیسرا جواب ہے یہ کہ صلاة سے نماز ہی مراد ہے اور عابری سبیل سے مسافر مراد ہیں اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نشہ اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن مسافروں کے لیے بحالت جنابت تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس آیت کا یہ مفہوم حضرت علی اور راس المفسرین حضرت ابن عباس سے مروی ہے، چنانچہ بنایہ میں ہے وقال أبو بکر الرازی فی احکام القرآن روی علی رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہما أن المراد بعابری السبیل المسافرین إذا لم یجدوا الماء یتیموا ویصلون بہ۔ (بنایہ ۶۲۸/۱)

(۲) عبارت کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہ کرے، اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف بھی مسجد حرام میں ہوتا ہے اور حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے، لہذا طواف بھی ممنوع ہوگا۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ حائضہ کے لیے مطلقاً طواف کرنا ممنوع ہے، خواہ مسجد کے اندر سے کرے یا باہر سے، اس کے بالمقابل طاہرہ عورت کے لیے اندر باہر دونوں جگہ سے طواف کرنے کی اجازت ہے، اس لیے اگر ممانعت طواف کی علت کو دخول مسجد کی ممانعت قرار نہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو علت قرار دیا جائے الطوف بالبیت صلاة (بیت اللہ کا طواف نماز کے مانند ہے) تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ اس حکم کے تحت باہر سے بھی حائضہ کے لیے طواف کی ممانعت واضح ہو جاتی۔

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ عورت سے ہم بستری نہ کی جائے، کیوں کہ قرآن کریم نے لاتقربوہن حتی یطہرن کے فرمان سے بحالت حیض وطی کرنے پر بند لگا دی ہے، نیز حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شئی إلا النکاح یعنی حالت حیض میں جماع کے علاوہ ہر کام کرو، اس حدیث میں النکاح سے الجماع مراد ہے۔



الْقُرْآنِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَائِضِ، وَهُوَ بِاطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الطَّحَاوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِبَاحَتِهِ .

**ترجمہ:** اور حائضہ، جنبی اور نساء کے لیے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، آپ ﷺ کے فرمان کی وجہ سے کہ حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں، اور یہ حدیث حائضہ کے متعلق امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے خلاف حجت ہے، نیز اپنے اطلاق کی وجہ سے ایک آیت سے کم کو بھی شامل ہے، لہذا مادون الایۃ کو مباح کرنے کے سلسلے میں امام طحاوی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے خلاف بھی حجت ہوگی۔

### اللغات:

﴿نفساء﴾ وہ عورت جس کو نفاس کا خون آتا ہو۔

### تخریج:

① أخرجه الترمذی فی کتاب الطہارت باب ماجاء فی الجنب والحائض انہما لا یقران القرآن، حدیث رقم: ۱۳۱۔  
و ابن ماجہ فی کتاب الطہارت باب ماجاء فی قراءۃ القرآن علی غیر طہارۃ، حدیث رقم: ۵۹۵۔

### حائضہ اور جنبی وغیرہ کے لئے ایک آیت قرآنی کی تلاوت کے جواز کا مسئلہ:

حائضہ اور اس کے ہم معنی جنبی اور نفاس والی عورتوں کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت عام ہے، یعنی یہ سب نہ تو قرآن کریم کی پوری آیت پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک آیت سے کم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ﷺ نے حدیث پاک میں جو ممانعت بیان فرمائی ہے وہ مطلق ہے اور اپنے اطلاق کی وجہ سے آیت اور مادون الایۃ سب کو شامل ہے۔

اس کے برخلاف امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حائضہ کے لیے قرأت قرآن کی اجازت دیتے ہیں اور اس اجازت کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت معذور ہے، کیوں کہ طہارت حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے اور معذورین کے لیے شریعت نے بہت سے مقامات پر نرم گوشہ اور نرم رویہ اپنایا ہے، اس لیے حائضہ کے لیے بھی شریعت میں نرم گوشہ ہوگا اور اسے قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی۔

ان کے علاوہ امام طحاوی حائضہ وغیرہ کے لیے ایک آیت سے کم قرآن پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور بقول صاحب عنایہ اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ شریعت میں قرآن کریم کے ساتھ دو حکم متعلق ہیں (۱) قراءت قرآن سے نماز کا جواز (۲) حائضہ اور نساء وغیرہ کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت، اور چونکہ پہلے حکم میں فصل ہے کہ اگر نماز میں ایک آیت کی مقدار قرآن پڑھا جائے تو نماز صحیح ہوگی۔ اور اگر ایک آیت کی مقدار سے کم پڑھا جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لہذا جب پہلے حکم میں آیت اور مادون الایۃ میں فرق ہے تو دوسرے حکم میں بھی ان کے مابین فرق اور فصل ہوگا، اور جب فرق ہوگا تو حائضہ وغیرہ کے لیے صرف پوری آیت پڑھنے کی ممانعت ہوگی اور مادون الایۃ پڑھنا ان کے لیے جائز اور درست ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہماری پیش کردہ حدیث دونوں کے خلاف حجت ہے، امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے خلاف باس معنی حجت ہے کہ اس حدیث میں صاف لفظوں میں حائضہ کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت وارد ہے، اس لیے اس قدر واضح نص کو چھوڑ کر عقلی پتنگ اڑانا درست نہیں ہے۔ اور امام طحاوی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے خلاف اس طرح حجت ہے کہ حدیث پاک میں شیئاً کا لفظ کمرہ

واقع ہے اور نکرہ جب مقام نفی اور جائے نفی میں واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے حدیث میں بیان کردہ قراءت قرآن کی ممانعت کا حکم عام ہوگا اور آیت اور مادون الآیة سب کو شامل ہوگا، لہذا اب اس میں سے مادون الآیة کو خارج کرنا نص کے ساتھ زیادتی کرنا ہے جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ (عنایہ ۱۷۰)

﴿وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا بِعَافٍ، وَلَا أُخِذُ دِرْهَمٌ فِيهِ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا بِبَصْرَتِهِ، وَكَذَٰلِكَ الْمُحَدِّثُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا بِعَافٍ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، ثُمَّ الْحَدِيثُ وَالْجَنَابَةُ حَلًّا أَيْدٍ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الْمَسِّ، وَالْجَنَابَةُ حَلَّتِ النَّفْسَ دُونَ الْحَدِيثِ فَيَفْتَرِقَانِ فِي حُكْمِ الْفِرَاعَةِ، وَغَافِلَةٌ مَا يَكُونُ مُتَجَافِيًا عَنْهُ دُونَ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ كَالْجِلْدِ الْمَشْرُوزِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَيَكْرَهُ مَسَّهُ بِالْكُمِّ هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ، بِخِلَافِ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ لِأَهْلِهَا حَيْثُ يُرَخَّصُ فِي مَسِّهَا بِالْكُمِّ، لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً، وَلَا بَأْسَ بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ إِلَى الصَّبْيَانِ، لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ تَضْيِيعَ حِفْظِ الْقُرْآنِ، وَفِي الْأَمْرِ بِالتَّطْهِيرِ حَرَجًا بِهِمْ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

**ترجمہ:** اور حائفہ وغیرہ کے لیے غلاف کے بغیر قرآن کریم چھونا بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایسے درہم کا پکڑنا جائز ہے جس میں قرآن کریم کی کوئی سورت (تحریر) ہو، مگر اس کی تھیلی کے ساتھ، نیز محدث کے لیے بھی غلاف کے بغیر قرآن چھونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے۔

پھر حدث اور جنابت دونوں چیزیں ہاتھ میں حلول کر گئیں، اس لیے یہ دونوں حکم مس میں برابر ہوں گی اور جنابت منہ میں سرایت کر گئی، نہ کہ حدث، اس لیے پڑھنے کے حکم میں دونوں جدا جدا ہوں گی۔

اور قرآن کا غلاف وہ ہے، جو اس سے جدا ہو جاتا ہو، نہ کہ وہ جو اس سے لگا رہتا ہو، جیسے بندھی ہوئی جلد، یہی صحیح ہے۔ اور آستین سے قرآن پاک چھونا مکروہ ہے یہی صحیح ہے، کیوں کہ آستین چھونے والے کے تابع ہے۔

بزغلاف شرعی کتابوں کے جو ان کے اہل کے پاس ہوتی ہیں، چنانچہ ان کے لیے ان کتابوں کو آستین سے چھونے کی رخصت ہے، کیوں کہ اس میں ضرورت ہے۔

اور بچوں کو قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اس سے روکنے میں قرآن کریم کا ضیاع ہے جب کہ بچوں کو (ہمہ وقت) پاکی حاصل کرنے کا حکم دینے میں ان کے ساتھ حرج ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔

### اللغات:

﴿غَافِلٌ﴾ جس سے کوئی چیز ڈھانکی جائے، ڈھکن، لفافہ جزدان وغیرہ۔ ﴿صُورَةٌ﴾ تھیلی، ہسیانی۔ ﴿مُتَجَافِيٌ﴾ جدا، علیحدہ۔ ﴿مَشْرُوزٌ﴾ بندھا ہوا، متفرق اجزاء کا مجموعہ جس کو اکٹھا کر کے باندھ دیا گیا ہو۔ ﴿كُمٌّ﴾ آستین۔

### تخریج:

## ناپاک انسان کے لیے قرآن مجید کو چھونے کا مسئلہ:

صاحب کتاب قرأت قرآن کا حکم بیان کرنے کے بعد یہاں سے مس قرآن کا حکم بیان فرما رہے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حائضہ، جنبی، نساء اور محدث کے لیے غلاف کے بغیر قرآن کریم کو چھونا اور پکڑنا درست نہیں ہے، اسی طرح ہر ایسی چیز کو کوزر (COVER) اور تھیلی کے بغیر پکڑنا جائز نہیں ہے، جس میں قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورت لکھی ہوئی ہو خواہ وہ درہم ہو یا کچھ اور ہو، اور اس پر نبی اکرم ﷺ کی وہ حدیث دلیل ہے جو کتاب میں مذکور ہے یعنی لا یمس القرآن الا طاهر۔

ثم الحدیث الخ صاحب کتاب مس مصحف کے عدم جواز میں حائضہ وغیرہ کے ساتھ جنبی کو شامل کرنے کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہاتھ سے چھوا اور پکڑا جاتا ہے اور ہاتھ کی عدم طہارت میں محدث اور جنبی دونوں برابر ہیں، کیوں کہ جس طرح جنابت میں ہاتھ دھونا ضروری ہے، اسی طرح حدیث میں بھی اس کا غسل ضروری ہے، لہذا جب عدم طہارت میں دونوں برابر ہیں تو حکم مس میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور ان میں سے کسی کے لیے بھی مس مصحف کی اجازت نہیں ہوگی۔

اس کے بالمقابل قرأت قرآن کا تعلق چوں کہ نم اور منہ سے ہے اور منہ کی طہارت کے سلسلے میں حدیث اور جنابت دونوں کا حکم الگ الگ ہے، کیوں کہ جنابت منہ کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اسی لیے جنبی کے لیے کلی کرنا اور اندرون منہ کو صاف کرنا فرض اور ضروری ہے، جب کہ حدیث منہ کے اندر سرایت نہیں کرتا، اس لیے حدیث میں منہ کے اندر دنی حصے کو صاف کرنا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، لہذا جب حکم طہارت میں دونوں جدا ہیں تو حکم قرأت میں بھی جدا ہوں گے، اور محدث کے لیے قرأت قرآن کی اجازت تو ہوگی، مگر جنبی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔

وغلافہ الخ صاحب ہدایہ قرآن کے غلاف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس غلاف کے ساتھ ہم نے مس مصحف کی اجازت دی ہے اس سے مراد وہ غلاف ہے، جو مصحف سے جدا ہو سکتا ہو، جیسے کپڑے وغیرہ کے جزدان، اس سے وہ غلاف اور کوزر مراد نہیں ہے جو قرآن کریم سے لگا اور چمنا رہتا ہے، جیسے چمڑے وغیرہ کی بندھی ہوئی جلد، کیوں کہ جلد قرآن کے تابع ہے، لہذا اس کا چھونا قرآن ہی کا چھونا ہوگا، اس لیے غلاف سے جزدان مراد لینا ہی زیادہ بہتر ہے، اسی طرح جنبی وغیرہ کے لیے آستین سے قرآن کریم کا چھونا بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ آستین چھونے والے کے تابع ہوتی ہے، لہذا جو حکم چھونے والا کا ہوگا وہی آستین کا ہوگا۔

البتہ علماء، فقہاء اور دینی احکام و مسائل سے اشتغال رکھنے والے حضرات کے لیے آستین سے شرعی اور دینی کتابوں کا چھونا اور اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ اگرچہ ان کتابوں میں بھی قرآن کریم کی آیات تحریر ہوتی ہیں، مگر کثرت مشاغل کی وجہ سے ان حضرات کو بار بار وضو کرنے میں حرج لاحق ہوگا، اس لیے اشاعت علم کی ضرورت اور دفع حرج کے پیش نظر ان کے لیے آستین سے دینی کتابوں کو چھونے کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے۔

ولا باس الخ فرماتے ہیں کہ چھونے چھونے بے وضو بچوں کو قرآن کریم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اگر بے وضو ہونے کی وجہ سے انھیں قرآن کریم نہیں دیں گے، تو وہ تعلیم و تعلم سے رک جائیں گے اور اس میں ضیاع قرآن کا خدشہ ہے، اور

اگر با وضو لینا ان پر لازم کر دیں گے تو وہ بچے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، کیوں کہ اولاً تو صغیر کی وجہ سے وہ مکلف نہیں ہیں، دوسرے بچے ہمہ وقت پاخانہ پیشاب میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ان پر وضو لازم کرنے کی صورت میں وہ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، حالاں کہ جب شریعت نے مکلفین و بالغین سے حرج کو دور کر دیا ہے، تو پھر بچوں کا کیا کہنا۔

﴿وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ لَمْ تَحِلَّ وَطِئُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ﴾ لِأَنَّ الدَّمَ يَدْرُ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِغْتِسَالِ لِتَرْجَحَ جَانِبُ الْإِنْقِطَاعِ، ﴿وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَمَضَى عَلَيْهَا أُذُنِي وَقْتُ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الْإِغْتِسَالِ وَالتَّحْرِيمَةِ حَلَّ وَطِئُهَا﴾ لِأَنَّ الصَّلَاةَ صَارَتْ دِينًا فِي ذِمَّتِهَا فَطَهَرَتْ حُكْمًا.

**ترجمہ:** اور جب دم حیض دس دن سے کم مدت میں بند ہو جائے تو عورت کے غسل کرنے سے پہلے اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ خون کبھی جاری ہو جاتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے، اس لیے غسل کرنا ضروری ہے، تاکہ جانب انقطاع کو ترجیح حاصل ہو جائے۔ اور اگر عورت نے غسل نہیں کیا اور اس پر نماز کا ادنیٰ وقت گزر گیا اتنی مقدار میں کہ وہ غسل کرنے اور تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر ہوگئی تھی تو اس سے وطی کرنا حلال ہے، کیوں کہ اس کے ذمے نماز مقروض ہوگئی، لہذا حکماً وہ عورت پاک ہوگئی۔

## اللغات:

﴿يَدْرُ﴾ باب لصر؛ بہنا، بہتا ہے۔ ﴿ذَيْنُ﴾ ادھا، قرض۔

## دس دن سے کم میں حیض ختم جانے کی صورت کا حکم:

حائضہ عورت کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ اگر عادت کے مطابق اکثر مدت حیض یعنی دس دن سے کم مدت میں کسی حائضہ عورت کا خون بند ہو گیا تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک اس سے جماع کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ اکثر مدت گزرنے سے پہلے جو خون بند ہوتا ہے وہ کبھی کبھی جاری بھی ہو جاتا ہے، اس لیے بند ہونے کے پہلو کو ترجیح دینے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، غسل کے بعد جانب انقطاع راجح ہو جائے گی اور وطی بھی حلال ہو جائے گی۔

لیکن اگر اس عورت نے غسل نہیں کیا اور اس پر نماز کا وقت اتنی مقدار میں گزر گیا جس میں کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی، تو اب اس سے وطی کرنا حلال ہے، کیوں کہ اب اس کے ذمہ موجودہ نماز قضاء ہوگئی، اس لیے کہ شریعت نے اسے حکماً پاک قرار دے دیا، تبھی تو اس کے ذمے نماز کی قضاء ہوئی، اور ہماری شریعت ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنے حق کو ثابت کر دے اور بندوں کے حق کو ختم کر دے، لہذا مذکورہ عورت حکماً پاک ہے اور جب پاک ہے تو اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز اور حلال ہے۔

﴿وَلَوْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا فَوْقَ الثَّلَاثِ لَمْ يَقْرُبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ﴾ لِأَنَّ الْعُودَةَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الْإِحْتِيَاظُ فِي الْإِجْتِنَابِ، وَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ حَلَّ وَطِئُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ، لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَرِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشْرَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ لِلنَّهْيِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ.

**ترجمہ:** اور اگر خون حائضہ عورت کی عادت سے کم اور تین دن سے زیادہ مدت میں بند ہوا تو اس کی عادت کے ایام گزرنے سے پہلے شوہر اس سے جماع نہ کرے اگرچہ وہ غسل کر لے، کیوں کہ عادت کے دوران خون کا واپس آنا غالب ہے، اس لیے اجتناب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔

اور اگر خون دس دن پر بند ہوا تو غسل کرنے سے پہلے بھی اس سے وطی کرنا حلال ہے، کیوں کہ دس دن سے زیادہ حیض نہیں آتا، البتہ غسل کرنے سے پہلے وطی کرنا مستحب نہیں ہے اس ممانعت کی وجہ سے جو (یطہرن کو) مشدد پڑھنے کے متعلق وارد ہوئی ہے۔

### عادت سے پہلے اور بعد خون رکنے کی صورت کے احکام:

اس سے پہلے عادت کے موافق خون بند ہونے کا بیان تھا، یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خون اس کی عادت سے کم اور تین دنوں سے زائد مدت میں بند ہو جائے، مثلاً کسی عورت کی عادت ۶ دن خون آنے کی ہے اور چار ہی دن میں اس کا خون بند ہو گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ایام عادت گزرنے سے پہلے اس سے ہم بستری نہ کی جائے خواہ وہ کتنے بھی اہتمام سے غسل وغیرہ کر لے، کیوں کہ ابھی اس کی عادت کے ایام باقی ہیں اور ایام عادت میں اکثر خون عود کر آتا ہے، اس لیے ایام عادت کے گزرنے سے پہلے وطی نہ کرنے میں ہی احتیاط ہے۔

البتہ اگر دس دن مکمل ہونے کے بعد کسی عورت کا خون بند ہو گیا تو اس صورت میں غسل سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے، کیوں کہ دس دن حیض کی اکثر مدت ہے، لہذا یہ بات طے ہے کہ اولاً تو اب خون نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو وہ دم استحاضہ ہوگا، اور دونوں صورتیں مانع وطی نہیں ہیں، لہذا اب وطی کرنے کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی نطفہ اور طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی عورت کے غسل کرنے کے بعد ہی وطی کی جائے، کیوں کہ قرآن کریم میں ایام حیض کے دوران وطی سے ممانعت کے متعلق جو یہ آیت (ولا تقربوہن حتی یتطہرن) ہے، اس میں یتطہرن کو مشدد بھی پڑھا گیا ہے، اور مشدد پڑھنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب تک عورتیں اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں ان سے جماع نہ کرو اور اچھی طرح پاک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ خون بند ہونے کے بعد عورت نہاد ہو کر فریض ہو جائے۔

﴿وَالطُّهُرُ إِذَا تَحَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِيِ﴾ قَالَ هَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ اسْتِيعَابَ الدَّمِ مُدَّةَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيُعْتَبَرُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ كَالنِّصَابِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ هُوَ آخِرُ أَقْوَالِهِ أَنَّ الطُّهُرَ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَفْصِلُ وَهُوَ كُلُّهُ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِيِ، لِأَنَّهُ طُهِرَ فَاسِدٌ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَالْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْسَرُ، وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ .

**ترجمہ:** اور وہ طہر جو دو خونوں کے درمیان متخلل ہو وہ بھی مسلسل آنے والے خون کی طرح ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ

یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی روایات میں سے ایک روایت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خون کا پوری مدت حیض کو گھیرنا بالاجماع شرط نہیں ہے، لہذا اس کے اول اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا، جیسے زکوٰۃ کے باب میں نصاب ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور یہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، بل کہ یہ کہا گیا کہ یہ امام صاحب کا آخری قول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر طہر کی مدت پندرہ دنوں سے کم ہو تو وہ فاصل نہیں بنے گا اور پورا کا پورا پے درپے آنے والے خون کی طرح ہوگا، کیوں کہ یہ طہر فاسد ہے، لہذا خون ہی کے درجہ میں ہوگا اور اس قول پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے، اور اس کی پوری تفصیل (امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی) کتاب حیض میں مذکور ہے۔

### اللغات:

﴿مُتَحَلِّلٌ﴾ خلال، دو اشیاء کے درمیان آ کر علیحدہ کرنے والی چیز۔ ﴿مُتَوَالِيٌّ﴾ پے درپے، مسلسل۔

### طہر متخلل کی بحث:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ طہر بضم الطاء اس مدت کو کہتے ہیں جو دو خونوں کے درمیان فاصل بن کر آتی ہے اور پھر یہاں طہر سے طہر کامل مراد ہے جس کی اقل مدت پندرہ دن ہے۔ اس کے بالمقابل وہ طہر جو پندرہ دنوں سے کم مدت کے لیے فاصل بنتا ہے وہ طہر فاسد اور طہر ناقص کہلاتا ہے۔

عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر طہر پندرہ دنوں سے کم مدت کے لیے دو حیضوں کے مابین فاصل بنے تو یہ طہر طہر فاصل نہیں ہوگا، بل کہ آگے اور پیچھے والی پوری کی پوری مدت حیض کی مدت کہلائے گی، مثال کے طور پر اگر کوئی مبتدأ ہو یعنی وہ لڑکی جسے پہلی مرتبہ خون آیا ہو اس نے ایک دن خون دیکھا پھر آٹھ دنوں تک خون بند رہا اس کے بعد دسویں دن پھر خون نظر آیا تو اب اس کے حق میں پورے دس دن حیض کے شمار ہوں گے، کیوں کہ یہاں خون مدت حیض کے شروع اور آخر میں موجود ہے اور کسی بھی امام کے یہاں پوری مدت حیض میں مسلسل خون آنا شرط نہیں ہے، لہذا جس طرح وجوب زکوٰۃ کے لیے پورے سال مالک نصاب ہونا شرط نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی حیض کی اول اور آخر مدت میں خون کا پایا جانا کافی ہے اور یہ پوری مدت حیض میں اس کا جریان اور وجود وسیلان ضروری نہیں ہے۔

وعن ابی یوسف الخ اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ پندرہ دن سے کم مدت والا طہر طہر فاصل نہیں ہوگا، بل کہ اسے طہر فاسد اور طہر ناقص کہیں گے، اس کی مثال صاحب عنایہ نے یہ بیان کی ہے کہ ایک عورت ہے جسے عادت کے مطابق ہر مہینے میں شروع کے پانچ دن حیض آتا ہے، لیکن ایک مرتبہ مہینے کی پہلی تاریخ سے ایک دن پہلے ہی اسے حیض آگیا اس کے بعد ایک سے لے کر ۵ تاریخ تک وہ پاک رہی اور چھ دن پھر اس نے خون دیکھا اور وہ خون دس دن سے متجاوز ہو گیا تو اس صورت میں پانچ دن جو طہر متخلل کے ہیں وہ سب کے سب حیض شمار کیے جائیں گے، کیوں کہ یہ طہر طہر ناقص اور فاسد ہے، اس لیے کہ یہ پندرہ دنوں سے کم ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا

آخری قول ہے اور مفتی اور مستفتی کی سہولت کے پیش نظر اسی قول پر فتویٰ بھی ہے، ہر چند کہ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اور بھی اقوال مروی ہیں، مگر سب سے سہل اور آسان یہی قول ہے، اس لیے اسی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے اور زیادہ اقوال میں الجھنے کی کوشش نہ کیجیے، ویسے اگر آپ کو تفصیل سے مزید دل چسپی ہو تو اس سلسلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحیض کا مطالعہ فرمائیے۔

﴿وَأَقَلُّ الطَّهْرِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا﴾ هَكَذَا نُقِلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رحمۃ اللہ علیہ وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا تَوْقِيفًا، وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرَةٍ لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى سَنَةٍ وَسَتَيْنِ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِتَقْدِيرٍ إِلَّا إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، يُعْرِفُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ .

**ترجمہ:** اور طہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے اسی طرح ابراہیم نخعی سے منقول ہے، اور یہ مدت توقیف کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی۔ اور اکثر مدت طہر کی کوئی غایت نہیں ہے، اس لیے کہ (کبھی) طہر سال دو سال تک (بھی) دراز ہو جاتا ہے، لہذا جب تک برابر خون نہ آنے لگے اس وقت تک کسی مقدار سے اس کا اندازہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات (حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی) کتاب الحیض سے معلوم کی گئی ہے۔

### اللغات:

﴿تَوْقِيفٌ﴾ واقف کرنا، علم دینا، مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع دینا، سامعی ہونا۔ ﴿يَمْتَدُّ﴾ باب افتعال؛ لسا ہونا،

پھیل جانا، بڑھنا۔

### مدت طہر کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ طہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے، مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی سے یہی مدت منقول ہے اور چون کہ یہ ایک مقدار ہے، لہذا جس طرح دیگر مقادیر سماع پر موقوف ہیں اور سماع ہی سے ان کی تعیین ہوئی ہے، اسی طرح اس کی تعیین بھی سماع سے ہوئی ہے، کیوں کہ ابراہیم نخعی ایک تابعی ہیں، انھوں نے یہ مقدار کسی صحابی سے سنی ہوگی اور صحابی نے صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اس لیے کہ مقادیر کے سلسلے میں عقل اور قیاس کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔

ولا غایة لأکثرہ الخ فرماتے ہیں کہ اکثر مدت طہر کی کوئی غایت اور انتہاء نہیں ہے، کیوں کہ کبھی کبھی طہر کا زمانہ ایک سال یا دو سال تک دراز ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورت حال میں طہر کی اکثر مدت کی تعیین کرنا دشوار ہے، لہذا ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک پاک رہیں نماز وغیرہ پڑھتی رہیں اور پھر جب استمرار اور تسلسل کے ساتھ خون آنے لگے تو کسی ذی علم سے رجوع کریں، کیوں کہ استمرار دم کی صورت میں طہر کی کوئی نہ کوئی تحدید اور تعیین کرنی پڑے گی۔

صاحب عنایہ نے اس موقع پر ایک مثال یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی عورت کو پہلی مرتبہ حیض کا خون آیا اور دس دن تک آتا رہا اس کے بعد سال دو سال تک کے لیے خون بند ہو گیا، اس کے بعد پھر خون آنے لگا تو اس صورت میں اس عورت کا حکم یہ ہوگا کہ

پہلے جو دن خون آیا تھا وہ تو حیض کا زمانہ ہوگا، اس کے بعد سال دو سال تک جو خون بند رہا وہ طہر کا زمانہ ہوگا اور پھر دوبارہ جب خون آنے لگے تو ہر ماہ کے شروع میں یا جب بھی اسے خون آئے دس دن حیض کے ہوں گے اور باقی بیس دن طہر کے ہوں گے۔  
صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی بہت سے اقوال ہیں جن کی تفصیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحیض میں مذکور ہے۔

وَدَمُ الْإِسْتِحَاظَةِ كَالرُّعَافِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوُطْيَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① تَوَضَّيْتُ وَصَلَّيْتُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ، وَلَمَّا عُرِفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ نَبَتْ حُكْمُ الصَّوْمِ وَالْوُطْيَ بِبَيْتِجَةِ الْإِجْمَاعِ .

**ترجمہ:** اور استحاضے کا خون دم نکسیر ہی کی طرح روزے، نماز اور وطی سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم وضو کر کے نماز پڑھ لو اگرچہ خون چٹائی پر نکلتا رہے۔ اور جب نماز کا حکم معلوم ہو گیا تو روزے اور وطی کا حکم نیچے اجماع سے ثابت ہو گیا۔

### اللغات:

﴿رُعَافٌ﴾ نکسیر، ناک سے بیماری کی وجہ سے بننے والا خون۔ ﴿حَصِيرٌ﴾ بوریا، چٹائی۔

### تخریج:

① اخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ماجاء في المستحاضة حديث رقم ۶۲۴.

### استحاضہ کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ استحاضے کے خون کا حکم دم نکسیر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جس طرح دم نکسیر لوگ سے نکلتا ہے اور نماز اور روزے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتا، اسی طرح دم استحاضہ بھی رگوں سے نکلتا ہے اور نماز وغیرہ سے مانع نہیں ہوتا۔  
اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان متدل ہے کہ جب فاطمہ بنت حمیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت استحاضہ میں نماز کے متعلق پوچھا تھا اور یہ عرض کیا تھا اِنِّیْ اِمْرَاةٌ اَسْتَحَاضُ فَلَآ اَطْهَرُ اَفَادِعُ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَا؟ كِه اے اللہ کے نبی میں مستحاضہ عورت ہوں اور پاک نہیں ہو پارہی ہوں کیا نماز ترک کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں نماز نہ ترک کرو اور سنو! اجتنبی الصلوة ایام محیضک ثم اغتسلی و توضع لکل صلاة و صلی و ان قطر الدم علی الحصیر یعنی صرف ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر غسل کر لو اور ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھو ہر چند کہ خون بوریے پر نکلتا رہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ تو بالکل صاف ہو گیا کہ دم استحاضہ مانع نماز نہیں ہے۔ اور جب دم استحاضہ مانع نماز نہیں ہے تو مانع صوم اور مانع وطی تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہوگا، کیوں کہ مطلقاً خون کا آنا نماز کے منافی ہے، چہ جائے کہ وہ دوران نماز بھی جاری رہے، اس لیے کہ خون اور طہارت میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے جب کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن اس کے باوجود دم استحاضہ کے جریان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو روزہ اور وطی کی تو بدرجہ اولیٰ اجازت ہوگی، کیوں کہ خون تو کسی بھی حالت میں روزہ اور جماع کے منافی نہیں ہے، اس



لیے کہ صوم کی ضد فطر ہے اور وطی کی تفتیش عدم وطی ہے نہ کہ خون ہے۔

﴿وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ دُونَهَا رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا، وَالَّذِي زَادَ اسْتِحَاظَةً﴾  
 لِقَوْلِهِ ❶ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَحَاظَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا، وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ فَيُلْحَقُ بِهِ، وَإِنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبَلُوغِ مُسْتَحَاظَةٌ فَحَيْضُهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْبَاقِي اسْتِحَاظَةٌ، لِأَنَّ عَرَفْنَا حَيْضًا فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالشَّكِّ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

**ترجمہ:** اور اگر خون دس دنوں پر بڑھ جائے حالانکہ دس دن سے کم میں عورت کی عادت معروف ہو، تو وہ اپنی عادت کے ایام ہی پر لوٹائی جائے گی اور وہ خون جو عادت معروفہ سے زائد آیا ہے استحاضے کا خون ہے، کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ مستحاضہ اپنے ایام حیض میں نماز ترک کر دے، اور اس لیے بھی کہ عادت معروفہ سے زائد آنے والا خون دس دن سے زائد آنے والے خون سے ہم آہنگ ہے، لہذا اسی کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔

اور اگر کوئی عورت مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی تو ہر مہینے کے دس دن اس کے ایام حیض ہوں گے اور باقی استحاضہ ہوگا، کیوں کہ دس دنوں تک آنے والے خون کو ہم نے حیض جانا ہے، لہذا شک کی بنیاد پر وہ حیض ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔

## اللغات:

﴿تَدْعُ﴾ وودع يدع، باب فتح؛ ترک کرنا، چھوڑ دے۔ ﴿يُجَانِسُ﴾ باب مفاعله، ایک ہی جنس کا ہونا، مجازاً ایک جیسا

ہونا۔

## تخریج:

- ❶ اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الطہارۃ باب من قال تغتسل من طہر الی طہر حدیث رقم ۲۹۷۔  
 والترمذی فی کتاب الطہارت باب ماجاء ان المستحاضۃ تتوضا لکل صلاۃ حدیث رقم ۱۲۶۔

## دس دن سے زیادہ حیض آنے کی صورت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو مثلاً سات دنوں تک خون آنے کی عادت تھی، لیکن کسی مہینے میں اسے سات دن سے زائد خون آ گیا اور دس دنوں کے بعد بھی آتا ہی رہا، تو اس صورت میں جو سات دن اس کی ایام عادت کے تھے انھی کو حیض مانا جائے گا اور باقی کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، اس کی نقلی دلیل تو حضور اقدس ﷺ کا وہ فرمان ہے جو کتاب میں مذکور ہے یعنی المستحاضۃ تدع الصلاة أيام أقرانها، اور اس فرمان سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ حدیث پاک میں ایام أقران سے مراد ایام عادت ہیں اور چونکہ ان ایام میں اس کے لیے نماز نہ پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت مسئلہ میں مذکورہ مستحاضہ عورت کے ایام عادت ہی ایام حیض ہوں گے، کیوں کہ حالت حیض ہی میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔

دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ایام عادت سے زائد آنے والا خون اس خون سے ہم آہنگ ہے جو دس دنوں سے زائد آئے، اور دس دنوں سے زائد آنے والا خون بالاتفاق دم استحاضہ ہے، لہذا ایام عادت سے زائد آنے والا خون بھی دم استحاضہ ہوگا، اور دم حیض وہی خون ہوگا جو ایام عادت میں آیا ہو۔

وإن ابتدأت الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ خون آیا اور لگا تار آتا رہا یہاں تک کہ دس دنوں سے تجاوز کر گیا تو اس صورت میں ہر مہینے کے دس دن اس کے حق میں حیض کے ہوں گے اور اس کے علاوہ جتنے دن بھی خون آئے گا وہ استحاضہ کے ایام ہوں گے، کیوں کہ جب اس عورت کی کوئی عادت نہیں ہے اور اس کا خون تین دن میں بھی بند نہیں ہوا یہاں تک کہ اکثر مدت حیض یعنی دس دنوں سے بھی تجاوز کر گیا، تو اب ہمیں یقینی طور سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس کے ایام حیض کتنے ہیں، البتہ یہ بات یقین سے معلوم ہے کہ حیض کی اکثر مدت دس دن ہے، اور دس دنوں تک حیض کا خون آ سکتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں جو چیز یقین سے معلوم ہے اسی پر عمل کریں گے اور شک یا تردید کی وجہ سے یقینی طور پر معلوم چیز سے انحراف نہیں کریں گے، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ الیقین لایزول بالشک، اور مذکورہ عورت کے لیے یہ فیصلہ سنائیں گے کہ دس دن اس کے حق میں حیض کے ہیں اور باقی استحاضہ کے ہیں۔



## فَصْلٌ أَيْ هَذَا فِصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِسْتِحَاظَةِ

### یہ فصل احکام استحاضہ کے بیان کے سلسلے میں ہے

صاحب کتاب نے باب الحیض والاسْتِحَاظَةِ کے تحت چوں کہ اسْتِحَاظَةِ کا عنوان قائم کر دیا ہے، اسی لیے غالباً یہاں فصل کو بغیر عنوان کے ساتھ حیض، اسْتِحَاظَةِ اور نفاس میں فصل اور فرق کرنے کے لیے بیان کیا ہے، پھر چوں کہ نفاس کے بالمقابل اسْتِحَاظَةِ کے مسائل کثیر الوقوع ہیں، اس لیے احکام اسْتِحَاظَةِ کو احکام نفاس سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔

وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرِقُّ أَيَتَوَضَّوْنَ لَوْ قَتَّ كُلَّ صَلَاةٍ فَيَصَلُّوْنَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَدَّ شَاءَ وَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَآنَ اِعْتِبَارِ طَهَارَتِهَا ضَرُورَةً اَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَبْطِئُ بَعْدَ الْفَرَآغِ مِنْهَا، وَلَنَا قَوْلُهُ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لَوْ قَتَّ كُلَّ صَلَاةٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ، لِأَنَّ اللَّامَ تُسْتَعَارُ لِلْوَقْتِ، يُقَالُ اِتَيْكَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ أَيِ وَقْتِهَا، وَلَآنَ الْوَقْتُ أَقِيمَ مَقَامِ الْأَدَاءِ تَيْسِيرًا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ .

**ترجمہ:** مستحاضہ عورت اور جس شخص کو سلسل بول کا مرض ہو، دائمی نکسیر ہو یا ایسا زخم ہو جو مندمل نہ ہوتا ہو، یہ لوگ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں اور اس وضو سے وقت کے اندر اندر جتنی چاہیں فرائض اور نوافل پڑھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کرے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اور اس لیے بھی کہ مستحاضہ کی طہارت کا اعتبار (ادائیگی) فریضہ کی ضرورت کے پیش نظر ہے، لہذا ادائیگی فریضہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے اور پہلی حدیث سے یہی مراد ہے، کیوں کہ لام کو وقت کے لیے مستعار لے لیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے اتیک لصلاة الظهر اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بوقت ظہر تمہارے پاس آؤں گا، اور اس لیے بھی کہ آسانی کے پیش نظر وقت مقام اداء کے قائم مقام ہے، لہذا اسی پر حکم کا مدار ہوگا۔

## اللغات:

الرَّعْفُ نَكْسِيرٌ - يَدَارُ مَدَارٌ كَمَا جَاءَ، كَمَا دِيَا جَاءَ -

## تخریج:

① اخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضه حديث رقم ۶۲۵.  
و ابوداؤد في كتاب الطهارة باب رقم ۱۱۲ حديث ۲۹۷.

## طہارت کے باب میں معذور کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مستحاضہ عورت اسی طرح وہ شخص جسے سلسل بول کا مرض ہو اور وقفے وقفے سے اس کو پیشاب آتا رہتا ہو، یا وہ شخص جس کو دائمی نکسیر ہو، یا اس کے جسم میں کوئی ایسا زخم ہو جو مندمل نہ ہوتا ہو اور ہمہ وقت اس سے خون رستا ہو، یہ تمام کے تمام معذور ہیں اور ہمارے یہاں نماز کے متعلق ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ لوگ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور اس نماز کا وقت باقی رہتے ہوئے جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، خواہ فرائض کے قبیل کی ہوں یا نوافل کے قبیل کی ہوں، اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح کے معذورین ہر فرض نماز کے لیے وضو کریں اور اس وضو سے صرف اور صرف فرض نماز پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔

ان کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ”المستحاضة تتوضأ لكل صلاة“ یعنی مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صلاة کے لیے وضو کا حکم دیا ہے اور صلاة کا لفظ مطلق ہے جو المطلق إذا أطلق یراد به الفرد الكامل والے ضابطے کی رو سے فرض نماز پر محمول ہوگا، کیوں کہ فرض نماز ہی صلاة کا فرد کامل ہے، اس لیے مذکورہ وضو سے صرف ایک ہی فرض نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔

دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور اس شرط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طہارت ہی نہ معتبر ہو، کیوں کہ کبھی کبھی نماز کے دوران بھی انھیں حدث لاحق ہو جاتا ہے اور مذکورہ عوارض میں سے کوئی عارض پیش آجاتا ہے، مگر اس کے باوجود ادائیگی فریضہ کی ضرورت کے پیش نظر ان کی طہارت کا اعتبار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ ضابطہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ”الضرورة تنقذ بقدرها“ یعنی ضرورت بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، اس لیے ادائیگی فرض کے بعد ان کی طہارت کا حکم ختم ہو جائے گا اور ان کے لیے اس وضو سے کوئی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس میں وقت کی صراحت فرمائی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے جس سے صاف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ایک نماز کا وقت باقی رہے گا مستحاضہ وغیرہ کی طہارت باقی رہے گی اور شرعی احکام میں بالخصوص عبادات میں توسیع ہوتی ہے، لہذا دوسری نماز کے وقت تک بقائے طہارت کا مطلب یہ ہے کہ معذورین اس وضو سے مذکورہ وقتیہ کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ صرف وقتیہ فرض پڑھنے کے بعد باقی وقت پاک رہ

کرائیں اچانک نہیں ڈالنا ہے۔

اور پھر یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ بھی وقت کے مفہوم کو شامل ہے، کیوں کہ ہماری پیش کردہ حدیث میں وقت کی صراحت ہے، اس لیے ہماری روایت ان کی روایت کے لیے مفسر ہوگی اور ان کی حدیث ظاہر نص ہوگی اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ مفسر ظاہر نص سے راجح ہوتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا دوسرا جواب یہ ہے کہ لکل صلاة کالام وقت کے معنی میں ہے اور قرآن و سنت میں لام کو وقت کے معنی میں کئی مقامات پر لیا گیا ہے، چنانچہ اوہی پارہ میں اقم الصلاة لدلوك الشمس کی عبارت ہے اور یہاں لام کو وقت کے معنی میں لیا گیا ہے ای وقت دلوك الشمس، نیز فخلف من بعدهم خلف اضعوا الصلاة میں بھی الصلاة سے وقت الصلاة مراد ہے، اس کے علاوہ حدیث پاک میں بھی اس کی کئی نظیریں ہیں، مثلاً ایک حدیث میں ہے ان الصلاة اولاً و آخراً یہاں بھی للصلاة سے لوقت الصلاة مراد ہے، دوسری حدیث ہے اینما ادرکتني الصلاة تیممت یہاں بھی الصلاة سے وقت الصلاة مراد ہے، پھر آپ کے محاورے میں بھی لام کو وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے اتیک لصلاة الظهر جس کا مفہوم ہے ای اتیک بوقت صلاة الظهر، الحاصل لام کو وقت کے معنی میں لینا عام ہے، اس لیے یہاں بھی لام وقت کے معنی میں ہوگا اور ایک نماز کے پورے وقت میں مستحاضہ وغیرہ کا وضو باقی رہے گا۔

ہماری طرف سے عقلی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ادائیگی فریضہ کی ضرورت کے پیش نظر معذورین کی طہارت کو معتبر مانا ہے اور معذورین میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ آخر وقت میں، اسی لیے شریعت نے مزید آسانی پیدا کرتے ہوئے ان لوگوں کے حق میں وقت کو اداء کے قائم مقام کر دیا ہے کہ جب تک وقت باقی رہے گا ان کی طہارت باقی رہے گی اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو طہارت بھی ختم ہو جائے گی، لہذا علم یعنی بقائے طہارت کا مدار بھی اسی وقت پر ہوگا۔

﴿وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وَضُوئُهُمْ وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى﴾ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ زُفَرٌ رحمۃ اللہ علیہ اسْتَأْنَفُوا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ، ﴿فَإِنْ تَوَضَّأُوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ أَجْزَأَهُمْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الظُّهْرِ﴾ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَمُحَمَّدٍ رحمۃ اللہ علیہ، وَقَالَ أَبُو يُونُسَ رحمۃ اللہ علیہ وَزُفَرٌ رحمۃ اللہ علیہ أَجْزَأَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الظُّهْرِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ طَهَارَةَ الْمَعْذُورِ تَنْقِضُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَمُحَمَّدٍ، وَبَدْخُولِ الْوَقْتِ عِنْدَ زُفَرٍ رحمۃ اللہ علیہ، وَبِأَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ أَبِي يُونُسَ رحمۃ اللہ علیہ، وَقَائِدَةُ الْإِخْتِلَافِ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِيمَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا ذَكَرْنَا أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، لِزُفَرٍ رحمۃ اللہ علیہ أَنَّ إِعْتِبَارَ الطَّهَارَةِ مَعَ الْمَنَافِي لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِدَاءِ، وَلَا حَاجَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا تَعْتَبَرُ، وَلَا بِي يُونُسَ رحمۃ اللہ علیہ أَنَّ الْحَاجَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْوَقْتِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَى الْوَقْتِ لِتَمَكُّنِ مَنْ

الْأَدَاءِ كَمَا دَخَلَ الْوَقْتُ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ فَظَهَرَ إِعْتِبَارُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ .

**ترجمہ:** اور جب وقت نکل گیا تو معذورین کا وضو باطل ہو جائے گا، اب دوسری نماز کے لیے یہ لوگ ازسرنو وضو کریں اور یہ حکم ہمارے ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے یہاں ہے، امام زفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وقت داخل ہو تب یہ لوگ وضو کریں، چنانچہ اگر ان لوگوں نے طلوع شمس کے وقت وضو کیا تو ظہر کا وقت ختم ہونے تک وہ وضوان کے لیے کافی ہوگا، اور یہ حکم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور امام زفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو ظہر کا وقت داخل ہونے تک ان کے لیے کافی ہوگا۔

اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں حدث سابق کی وجہ سے وقت نکلنے پر معذور کی طہارت ختم ہو جاتی ہے اور امام زفر رضی اللہ عنہ کے یہاں دخول وقت سے ختم ہوتی ہے اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے یہاں دخول اور خروج میں سے ہر ایک سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس اختلاف کا ثمرہ صرف اس معذور کے حق میں ظاہر ہوگا جس نے زوال سے پہلے وضو کیا ہو جیسا کہ ہم بیان کر چکے، یا طلوع شمس سے پہلے وضو کیا ہو۔

امام زفر رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ منافی طہارت کے باوجود ضرورتِ اداء کی وجہ سے طہارت کو معتبر مانا گیا ہے اور وقت سے پہلے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے طہارت معتبر نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ حاجتِ طہارت وقت پر منحصر ہے، لہذا نہ تو وقت سے پہلے طہارت معتبر ہوگی اور نہ ہی اس کے بعد، حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ طہارت کو وقت پر مقدم کرنا ضروری ہے، تاکہ معذور شخص وقت کے داخل ہوتے ہی اداء پر قادر ہو سکے، جب کہ وقت کا نکل جانا زوال حاجت کی دلیل ہے، لہذا اسی وقت حدث کا اعتبار ظاہر ہوگا۔

## اللغات:

﴿اِسْتَأْنَفُوا﴾ باب استفعال، نئے سرے سے کسی کام کو کرنا، شروع کرنا۔

## معذور کے حق میں وقت کے ذریعے نقض وضو کے اقوال کی تفصیل:

عبارت کی وضاحت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرات طرفین رضی اللہ عنہم کے یہاں خروج وقت معذورین کی طہارت کے لیے ناقض ہے، امام زفر رضی اللہ عنہ کے یہاں دخول وقت ناقض ہے اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے خروج وقت بھی ناقض ہے اور دخول وقت بھی ناقض ہے۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معذور نے ایک نماز کے لیے وضو کیا تھا اور اس نماز کا وقت نکل گیا تو علمائے احناف میں سے امام ابو یوسف، اور حضرات طرفین رضی اللہ عنہم کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا اور دوسری نماز کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا، کیوں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں خروج وقت ناقض ہے اور وہ پایا گیا، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا، اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے یہاں خروج دخول دونوں ناقض ہیں۔ اس کے برخلاف امام زفر رضی اللہ عنہ چونکہ دخول وقت کو ناقض مانتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تب وہ معذور نیا وضو کرے۔

اوپر والی بات کو ذہن میں رکھ کر مثال سے اسے مزید سمجھئے، مثلاً ایک معذور نے طلوع شمس کے وقت وضو کیا تو حضرات

طرفین کے یہاں جب تک ظہر کا وقت نکل نہیں جائے گا اس وقت تک اس کا وضو باقی رہے گا اور وہ اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیوں کہ ان حضرات کے یہاں خروج وقت ناقض ہے، ولم يوجد الخروج الان، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس شخص کا وضو صرف ظہر کا وقت داخل ہونے تک باقی رہے گا اور جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوگا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو ظہر کی نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا ہوگا، کیوں کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دخول وقت ناقض ہے اور وہ پایا گیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دخول خروج دونوں ناقض ہیں وقد وجد ههنا الدخول۔

(۲) ثمرۃ اختلاف کے ظہور کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی معذور نے طلوع شمس سے پہلے وضو کیا تو حضرات طرفین کے یہاں طلوع شمس کے بعد اس شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ ان کے یہاں خروج وقت ناقض ہے اور وہ پایا گیا، اسی طرح امام ابو یوسف کے یہاں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ ان کے یہاں دونوں ناقض ہیں، البتہ اس صورت میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا یہ وضو ظہر کا وقت داخل ہونے تک برقرار رہے گا، کیوں کہ ان کے یہاں دخول ناقض ہے اور ابھی دخول نہیں پایا گیا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ منافی طہارت کے ہوتے ہوئے بھی معذورین کی طہارت کا اعتبار ادا نیکی فریضہ کی ضرورت کے پیش نظر ہے اور دخول وقت سے پہلے چوں کہ ادا نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دخول وقت سے پہلے طہارت کا اعتبار نہیں ہوگا اور دخول وقت ہی سابق وضو کے لیے ناقض ہوگا، نیز دخول وقت کے بعد ہی دوسرے اور نئے وضو کا حکم لگایا جائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ طہارت کی حاجت وقت پر منحصر ہے یعنی جب بھی نماز کا وقت ہوگا اس وقت طہارت کی ضرورت ہوگی، اس لیے نہ تو وقت سے پہلے طہارت کا اعتبار ہوگا اور نہ ہی وقت کے بعد، لہذا دخول وقت بھی ناقض ہوگا اور خروج وقت بھی ناقض طہارت ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ طہارت کو نماز کے وقت پر مقدم کرنا ضروری ہے، تاکہ وقت داخل ہوتے ہی معذور شخص نماز ادا کرنے پر قادر ہو جائے، اور یہ تقدیم اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ وقت اداء کے قائم مقام ہے اور طہارت کو ادا نیکی نماز پر مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے، تو گویا کہ طہارت کو وقت پر مقدم کرنا بھی ضروری ہے اور جب طہارت کو وقت پر مقدم کرنا ضروری ہے تو دخول وقت کو ناقض طہارت نہیں مان سکتے، اس لیے لامحالہ خروج وقت کو ناقض مانیں گے، خروج کو ناقض ماننے کی دوسری علت یہ ہے کہ خروج وقت زوال حاجت کی دلیل ہے، لہذا اسی وقت میں حدث سابق کا معتبر ہونا معلوم ہوگا اور وقت نکلتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔

وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ وَقْتُ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ الْمَعْدُورُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِهِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةِ الصُّحَى، وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ فَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ، لِإِنْتِقَاضِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِي لَا يُمَضِّي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا وَالْحَدِيثُ الَّذِي أُبْتَلِيَتْ بِهِ يُوجَدُ فِيهِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ، وَمَنْ بِهِ

اِسْتِطْلَاقُ الْبَطْنِ وَانْفِلَاتُ رِيحٍ، لَانَ الضَّرُورَةَ بِهَذَا يَتَحَقَّقُ وَهِيَ تَعَمُّ الْكُلِّ .

**ترجمہ:** اور (ما قبل میں) وقت سے فرض نماز کا وقت مراد ہے، حتیٰ کہ اگر معذور نے عید کی نماز کے لیے وضو کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس کے لیے اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے، یہی صحیح ہے۔ کیوں کہ عید کی نماز نمازِ چاشت کے درجے میں ہے۔ اور اگر معذور نے ظہر کے وقت میں ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور ظہر ہی کے وقت میں دوبارہ عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس وضو سے اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیوں کہ (ان کے یہاں) فرض نماز کا وقت نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

اور (مستحاضہ سے مراد) وہ مستحاضہ ہے جس پر کسی بھی نماز کا وقت نہ گزرے، مگر وہ حدثِ جس میں وہ مبتلی ہے اس وقت میں پایا جائے، اور یہی حکم ہر اس معذور کا ہے جو مستحاضہ کے معنی میں ہو اور یہ وہ معذورین ہیں جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، نیز وہ شخص بھی اس میں داخل ہے جس کو پیٹ چلنے کا مرض ہو اور بلا اختیار ریح نکلنے کی بیماری ہو، کیوں کہ ضرورت اس عذر کے ساتھ بھی متحقق ہے اور ضرورت سب کو عام ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿ضُطْحَى﴾ دن کا خوب روشن حصہ، چاشت کا وقت۔ ﴿اِسْتِطْلَاقُ الْبَطْنِ﴾ پیٹ خراب ہونا، کثرت سے دست آنا۔  
﴿انْفِلَاتُ الرِّيحِ﴾ ایک بیماری جس میں ہوا بہت خارج ہوتی ہے۔

## معذور کے کچھ مسائل کی توضیح:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے معذورین کے متعلق جس وقت کے دخول اور خروج سے بحث کی گئی ہے اس سے فرض نماز کا وقت مراد ہے، نہ کہ واجب اور نفل کا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی معذور نے عید کی نماز کے لیے وضو کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس وضو سے وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیوں کہ فرض نہ ہونے میں نماز عید نمازِ چاشت کے درجے میں ہے، لہذا نماز عید پڑھنے اور اس کا وقت نکلنے کے باوجود مذکورہ معذور کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ حضرات طرفین کے یہاں فرض نماز کے وقت کا خروج ناقض ہے نہ کہ واجب اور نفل نماز کا۔ اور جب نماز عید کے بعد بھی اس معذور کا وضو باقی ہے تو اس کے لیے اس سے وضو سے ظہر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور اگر کسی معذور نے ظہر کے وقت میں ایک دفعہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور پھر اسی وقت میں عصر کی نماز کے لیے بھی وضو کر لیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس وضو سے اس کے لیے عصر پڑھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب ظہر کا وقت نکلا تو فرض نماز کے وقت کا خروج متحقق ہو گیا اور فرض نماز کے وقت کا خروج ان حضرات کے یہاں ناقض وضو ہے، لہذا ظہر کا وقت نکلتے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اب اسے پہلے کیے ہوئے وضو سے عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔

صاحب عنایہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ صورتِ مسئلہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس معذور کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ امام ابو یوسف تو خروج دخول دونوں کو ناقض مانتے ہیں اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ دخول کو ناقض مانتے ہیں وقد



وجد ههنا، لانه ليس بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل۔ (عنايه ۱۸۵/۱)

والمستحاضة الخ فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جو ہم نے مستحاضہ اور دیگر معذورین مثلاً سلسل بول، نکسیر داغی اور مندمل نہ ہونے والے زخم سے پریشان حال لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان سب میں یہ پہلو ملحوظ ہوگا کہ جس پریشانی اور عذر میں یہ لوگ مبتلیٰ ہیں ضروری ہے کہ وہ عذر ان سے ایک فرض نماز کے وقت تک الگ نہ ہو، یعنی اگر مکمل کسی فرض نماز کا وقت حدوث عذر کے بغیر نہ پایا جائے تب تو انھیں معذور شرعی سمجھا جائے گا اور ان کے لیے مذکورہ رعایتیں ہوں گی، ورنہ نہیں۔

اسی طرح وہ شخص جس کو پیٹ چلنے کی بیماری ہو یا بے اختیار ریح نکلنے کا مرض ہو وہ بھی معذورین کے زمرے میں شامل اور داخل ہے، کیوں کہ ان امراض میں بھی ضرورت متحقق ہے، لہذا انھیں بھی شریعت کی جانب سے رخصت فراہم کی جائے گی، اس لیے کہ معذورین کی طہارت کا اعتبار بر بنائے ضرورت ہے اور ضرورت کی نگاہ میں ہر طرح کے معذور اور مجبور برابر ہیں۔



## فَصْلٌ فِي النَّفَاسِ

### یہ فصل احکام نفاس کے بیان میں ہے

اس سے پہلے یہ بات آچکی ہے کہ حیض اور استحاضہ کے بالمقابل چوں کہ نفاس قلیل الوقوع ہے، اسی لیے اس کو سب سے اخیر میں بیان کیا گیا ہے، نفاس نَفَسَ بَاب (س) کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں زچگی۔ اور اصطلاح میں نفاس کی تعریف یہ ہے الدم الخارج عقیب الولادة یعنی بچہ کی پیدائش کے بعد نکلنے والا خون نفاس کہلاتا ہے۔

﴿وَالنَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ﴾ لِأَنَّهُ مَاخُودٌ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحْمِ بِالْدَّمِ أَوْ مِنْ خُرُوجِ النَّفْسِ بِمَعْنَى الْوَلَدِ أَوْ بِمَعْنَى الدَّمِ .

**ترجمہ:** نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد نکلتا ہے، کیوں کہ نفاس تنفس الرحم بالدم سے ماخوذ ہے، یا خروج نفس سے ماخوذ ہے بچے کے معنی میں یا خون کے معنی میں۔

### نفاس کی تعریف:

عبارت کا مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ ولادت کے بعد نکلنے والا خون نفاس کہلاتا ہے اور اس کو نفاس کہنے اور نفاس کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنفس الرحم بالدم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں رحم نے خون اگل دیا اور ظاہر ہے کہ ولادت کے بعد ہی رحم خون اگلتا ہے یا نفاس کو نفاس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خروج نفس سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بچہ کا نکلنا، اس معنی کے اعتبار سے بھی نفاس کو نفاس کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ بچہ نکلنے اور پیدا ہونے کے بعد ہی نفاس کا خون آتا ہے۔

﴿وَالدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ ابْتِدَاءً أَوْ حَالًا وَلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ﴾ وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ حَيْضٌ إِعْتِبَارًا بِالنَّفَاسِ، إِذْهُمَا جَمِيعًا مِنَ الرَّحْمِ، وَلَنَا أَنَّ بِالْحَبْلِ يَنْسَدُ فَمِ الرَّحْمِ كَذَا الْعَادَّةُ، وَالنَّفَاسُ بَعْدَ انْفِتَاحِهِ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ، وَلِهَذَا كَانَ نِفَاسًا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَلَدِ فِيمَا رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يَنْفَتِحُ فَيَتَنَفَّسُ بِهِ .

**ترجمہ:** اور وہ خون جسے حاملہ عورت ابتداء میں یا بحالتِ ولادت بچہ نکلنے سے پہلے دیکھتی ہے دمِ استحاضہ ہے ہر چند کہ اس کا خروج دراز ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حیض ہے، نفاس پر قیاس کرتے ہوئے، کیوں کہ حیض اور نفاس دونوں رحم سے نکلتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، یہی عادت ہے جب کہ بچہ نکلنے کے ساتھ رحم کا منہ کھلنے کے بعد نفاس کا خون نکلتا ہے، اسی وجہ سے بچہ کا کوئی عضو نکلنے کے بعد نکلنے والا خون بھی نفاس ہوتا ہے اس روایت کے مطابق جو حضرات طرفین سے مروی ہے، اس لیے کہ رحم کا منہ کھل جاتا ہے اور نفاس کا خون گرنے لگتا ہے۔

## اللغات:

حَبْلٌ جَمَلٌ، گابھن ہونا۔ يَنْسَدُ باب انفعال؛ بند ہو جانا، بند ہو جاتا ہے۔ يَنْتَفِسُ باب تفعیل، اگلنا، باہر نکالنا۔

## ولادت کے وقت استحاضہ کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خون جو حاملہ عورت کے رحم سے بحالتِ حمل نکلے یا بوقتِ ولادت بچہ نکلنے سے پہلے نکلے ہمارے یہاں وہ خون دمِ استحاضہ ہے، اگرچہ وہ دو تین دنوں تک جاری رہے اور وقفے وقفے سے نکلتا رہے، اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ نفاس پر قیاس کرتے ہوئے اس خون کو دمِ حیض قرار دیتے ہیں اور یہ علت بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں دو بچے ہوں اور ایک بچہ نکلنے کے بعد اسے خون آنے لگا ہو تو یہ دمِ حیض ہوگا، کیوں کہ یہ عورت دوسرے بچے کے حق میں اب بھی حاملہ ہے اور حالتِ حمل میں نکلنے والا خون دمِ حیض ہوتا ہے، لہذا یہ خون بھی دمِ حیض ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ کا دستور اور منشور یہ ہے کہ حالتِ حمل میں رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اسی لیے حاملہ عورتوں کو حیض نہیں آتا اور یہ رحم اس وقت کھلتا ہے جب ولادت کے موقع پر بچہ نکلتا ہے، لہذا جب ولادت سے پہلے رحم کا منہ بند رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ بحالتِ حمل آنے والا خون اسی طرح ولادت سے پہلے آنے والا خون کسی رگ وغیرہ سے آئے گا اور رحم کے علاوہ، رگ وغیرہ سے آنے والا خون دمِ استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے مذکورہ خون بھی دمِ استحاضہ ہوگا، لہذا اسے حیض کا خون قرار دینا درست نہیں ہے۔

اور پھر اس خون کو نفاس پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ بچہ پیدا ہونے کے وقت رحم کا منہ کھل جاتا ہے اور رحم کا منہ کھلنے کے بعد اس موقع پر جو بھی خون آتا ہے وہ نفاس کا ہوتا ہے نہ کہ حیض کا، اسی لیے اگر کسی عورت کے پیٹ میں دو بچے ہوں اور ایک بچہ کی ولادت کے بعد خون نکلے تو وہ خون بھی ہمارے یہاں نفاس کا ہوگا، کیوں کہ بچہ اول کے نکلنے کی وجہ سے رحم کا منہ کھل چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بچے کے بعض اجزاء رحم سے نکلیں اور کچھ اجزاء رحم کے اندر ہوں اور اسی دوران خون جاری ہو جائے تو یہ خون بھی حضراتِ طرفین کے یہاں دمِ نفاس ہوگا، کیوں کہ بچے کی پیدائش اگرچہ ابھی ادھوری ہے مگر پھر بھی رحم کا منہ تو کھل گیا ہے اور اس موقع پر رحم سے آنے والا خون دمِ نفاس ہوتا ہے، لہذا یہ خون بھی دمِ نفاس ہوگا۔

وَالسَّقَطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ ۖ وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَصِيرَ بِهِ نَفْسَاءً وَتَصِيرَ الْأُمُّ أُمَّ وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقُضِي بِهِ.

**ترجمہ:** اور وہ ناتمام بچہ جس کی بعض خلقت ظاہر ہو وہ بھی ولد ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے عورت نفاس والی ہو جائے گی، باندی ام ولد ہو جائے گی نیز اس سے عدت بھی پوری ہو جائے گی۔

## اللغات:

﴿سَقَطٌ﴾ نا تمام بچہ، وہ جنین جو مدت حمل پوری ہونے سے پہلے ہی گر جائے۔ ﴿اِسْتَبَانَ﴾ باب استفعال؛ ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ ﴿نُفَسَاءٌ﴾ وہ عورت جس کو نفاس کا خون آتا ہو، نفاس والی۔

## حمل ساقط ہونے کی صورت کا بیان:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی پوری خلقت ظاہر نہ ہو تو بھی وہ ولادت اور پیدائش کے جملہ امور سے متصف ہوگا، مثلاً بوقت ولادت بچے کی صرف انگلی ہی نکلی یا ناخن اور بال وغیرہ ہی نکل سکے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ندرتھی، تو بھی اس پر ولد کا اطلاق ہوگا اور اتنی خلقت کی وجہ سے بھی عورت کو نفساء کہا جائے گا اور اگر وہ باندی ہو تو مذکورہ خلقت سے وہ ام ولد ہو جائے گی، اسی طرح اگر وہ عورت مطلقہ حاملہ تھی یا بوقت وفات شوہر حاملہ تھی تو اس خلقت سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔

﴿وَأَقْلُ النَّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ﴾ لِأَنَّ تَقَدَّمَ الْوَالِدِ عَلَّمَ الْخُرُوجَ مِنَ الرَّحِمِ فَأَغْنَى عَنْ امْتِدَادِ جُعِلَ عَلَمًا عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْحَيْضِ، ﴿وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا﴾ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ اسْتِحَاضَةٌ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① وَقَّتْ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِعْتِبَارِ السِّتِينَ .

**ترجمہ:** اور نفاس کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں ہے، کیوں کہ بچے کا پہلے نکلنا رحم سے نکلنے کی علامت ہے، لہذا اس تقدم نے اس طرح کے امتداد دم سے مستغنی کر دیا جسے رحم سے خروج دم پر علامت قرار دیا جائے، برخلاف حیض کے، اور نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے اور جو اس پر زائد ہو وہ استحاضہ ہے حضرت ام سلمہ کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے نفساء کے لیے چالیس دن مقرر فرمایا ہے، اور یہ حدیث ساٹھ دنوں کا اعتبار کرنے کے سلسلے میں امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے خلاف حجت ہے۔

## اللغات:

﴿عَلِمَ﴾ نشانی، جھنڈا، علامت۔ ﴿أَغْنَى﴾ باب افعال؛ کسی کام کی ضرورت کو ختم کرنا۔ ﴿وَقَّتْ﴾ باب تفعیل؛ مدت مقرر کرنا، وقت کی حد بندی کرنا۔

## تخریج:

① اخرجه ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب ماجاء فی وقت النفساء حدیث رقم ۳۱۱۔

والترمذی فی کتاب الطہارۃ باب ماجاء فی کم تمکث النفساء حدیث رقم ۱۳۹۔

## نفاس کی مدت کا بیان:

فرماتے ہیں کہ نفاس کی اقل مدت کی کوئی حد اور انتہاء نہیں ہے، اس لیے ولادت کے بعد جب بھی خون آنا بند ہو جائے زچہ کو چاہیے کہ وہ طہارت حاصل کر کے نماز روزہ کرنے لگے، اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ خون سے پہلے بچے کا پیدا ہونا اس بات کی صریح علامت ہے کہ رحم کھل گیا ہے اور اب جو بھی خون آئے گا وہ رحم ہی سے آئے گا اور ولادت کے موقع پر رحم سے آنے والا خون

نفاَس کہلاتا ہے، اس لیے مذکورہ خون دم نفاَس ہوگا اور اس کے نفاَس ہونے نیز رحم سے آنے پر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ تین یا پانچ دن تک اس کے جریان کی شرط لگائی جائے۔

بخلاف الحيض النخ فرماتے ہیں کہ نفاَس کے بالمقابل حیض میں تو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ کم از کم تین دن تک اس کا آن ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خون رحم ہی سے آیا ہے، لیکن نفاَس میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی۔

واکنہ الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نفاَس کی اکثر مدت چالیس دن ہے، ہدایہ ص ۷۰ کے حاشیہ ۸ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں نفاَس کی اکثر مدت ساٹھ دن ہے، امام شافعی رحمہ اللہ امام اوزاعی کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں، جن کا بیان یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں عورتیں ساٹھ دنوں تک نفاَس کا خون دیکھتی تھیں۔

ہماری دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاَس کے لیے چالیس دن مقرر فرمائے ہیں، لہذا جب صاف طور پر صاحب شریعت کی جانب سے چالیس دن کی توقیت اور تعیین ہوگئی تو اب اس کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو بنیاد بنا کر مسئلہ وضع کرنا درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نفاَس کی اکثر مدت حیض کی اکثر مدت سے چار گنا بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں چون کہ حیض کی اکثر مدت دس دن ہے، اس لیے نفاَس کی اکثر مدت چالیس دن ہوگی کیوں کہ دس کو چار میں ضرب دینے سے حاصل ضرب (۴۰) ہی نکلتا ہے۔ (عنا یہ ۱۹۱/۱)

﴿وَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الْأَرْبَعِينَ وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النَّفَاسِ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا﴾ لِمَا بَيَّنَّا فِي الْحَيْضِ، ﴿وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَأَيَّدَاءُ نَفَاسِهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا﴾ لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ جَعْلُهُ نَفَاسًا.

**ترجمہ:** اور اگر خون چالیس دن سے متجاوز ہو گیا اور یہ عورت اس سے پہلے بھی بچہ جن چکی تھی اور نفاَس میں اس کی عادت معروف تھی تو اسے اپنے ایام عادت کی طرف پھیر دیا جائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم حیض میں بیان کر چکے ہیں، اور اگر اس کی کوئی عادت نہیں تھی تو اس کے نفاَس کی ابتداء چالیس دن ہیں، کیوں کہ اربعون کو نفاَس قرار دینا ممکن ہے۔

### چالیس دن سے زیادہ خون آنے کی صورت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو نفاَس کا خون چالیس دنوں کے بعد بھی آتا رہا اور وہ عورت اس سے پہلے بھی بچے پیدا کر چکی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ نفاَس کے متعلق اس کی کوئی عادت معروف ہے یا نہیں؟ اگر نفاَس کے سلسلے میں اس کی کوئی معروف عادت ہو تو اسے اسی عادت کی طرف پھیر دیں گے اور ایام عادت ہی کو اس کی مدت نفاَس قرار دیں گے، کیوں کہ بالکل یہی مسئلہ حیض میں بیان کیا گیا ہے اور وہاں بھی ایام عادت ہی کی طرف عورت کو لوٹایا گیا ہے۔

البتہ اگر اس عورت کی کوئی عادت نہ ہو تو اس صورت میں اس کا نفاَس چالیس یوم ہوگا، کیوں کہ یہی نفاَس کی اکثر مدت ہے۔ لہذا نہ تو اس سے کم کو مدت نفاَس بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کو، کم کو اس لیے مدت نہیں قرار دے سکتے کہ خون

چالیس دن پر متجاوز ہے اور زیادہ کو اس لیے مدت نہیں قرار دے سکتے کہ ہمارے یہاں چالیس دن نفاس کا آخری اسٹیج ہے، اس لیے چالیس دن کو نفاس قرار دیں گے اور ماہی دم استحاضہ ہوگا۔

﴿فَإِنْ وَكَلَتْ وَكَدَّتْ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فِنَفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ﴾ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّهَا حَامِلٌ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَلَا تَصِيرُ نَفْسَاءَ كَمَا أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، وَلِهَذَا تَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِالْأَخِيرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا لَا تَحِيضُ لِإِنْسَادِ فِيمَ الرَّحِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ انْفَتَحَ بِخُرُوجِ الْأَوَّلِ وَتَنَفَّسَ بِالْدَمِ فَكَانَ نَفَاسًا، وَالْعِدَّةُ تَعَلَّقَتْ بِوَضْعِ حَمْلٍ مُضَافٍ إِلَيْهَا فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ.

**ترجمہ:** پھر اگر کسی عورت نے ایک ہی بطن سے دو بچے جنے تو حضرات شیخین کے یہاں اس کا نفاس پہلے بچے سے شروع ہوگا ہر چند کہ دونوں بچوں کے مابین چالیس دنوں کا فاصلہ ہو۔ امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نفاس دوسرے بچے سے شروع ہوگا یہی امام زفر رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، کیوں کہ پہلا بچہ جننے کے بعد (بھی) عورت حاملہ ہے، لہذا وہ نساء نہیں ہوگی جیسا کہ حائضہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کی عدت بالاتفاق دوسرے بچے سے پوری ہوگی۔

حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ عورت کو رحم کا منہ بند ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور پہلا بچہ نکلنے کی وجہ سے رحم کا منہ کھل گیا اور رحم نے خون اُگل دیا، لہذا یہ دم نفاس ہوگا۔ اور عدت ایسے حمل کی وضع سے متعلق ہے جو عورت کی طرف منسوب ہے، لہذا یہ پورے حمل کو شامل ہوگا۔

### جزواں بچوں کی ولادت کے موقع پر نفاس شروع ہونے کے وقت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں دو بچے ہوں، لیکن دونوں ایک ساتھ پیدا نہ ہوں، بل کہ ان کی پیدائش میں کچھ دنوں کا فاصلہ ہو تو اس صورت میں حضرات شیخین کے یہاں جب پہلا بچہ پیدا ہو جائے گا اسی وقت سے اس عورت کی مدت نفاس کا آغاز ہو جائے گا، اگرچہ دونوں بچوں کی ولادت میں چالیس دنوں کا فاصلہ ہو، لیکن امام محمد اور امام زفر رضی اللہ عنہما کا مسلک یہ ہے کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت سے مدت نفاس کا آغاز ہوگا۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب اس عورت کے پیٹ میں دو بچے ہیں تو پہلا بچہ جننے کے بعد بھی وہ عورت حاملہ رہے گی اور حاملہ عورت کو جس طرح حیض کا خون نہیں آتا، اسی طرح نفاس کا خون بھی نہیں آتا، لہذا پہلے بچے کی پیدائش کے بعد آنے والا خون دم نفاس نہیں، بل کہ خون استحاضہ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ عورت مطلقہ ہو تو اس کی عدت دوسرے بچے کی پیدائش پر ختم ہوگی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ نفاس وغیرہ میں بھی دوسری ولادت کا اعتبار ہے، نہ کہ پہلی کا۔

حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ عورت کو دم حیض اس وجہ سے نہیں آتا کہ حالت حمل میں رحم کا منہ بند رہتا ہے، لیکن

جب عورت نے بچہ جنا تو ظاہر ہے کہ رحم کا منہ کھل گیا اور رحم کا منہ کھل جانے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا ہوتا ہے، اس لیے اس عورت کو پہلے بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی نفاس کا ہوگا اور اسی وقت سے اس کے نفاس کی مدت کا آغاز ہو جائے گا۔

والعدة تعلق الخ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نفاس کو مسئلہ عدت پر قیاس کیا تھا، یہاں سے اسی قیاس کی تردید کی جا رہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نفاس والے مسئلے کو مسئلہ عدت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ عدت کا اتمام ایسے حمل سے متعلق ہے جو عورت کی طرف منسوب ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلِهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يَعْنِي حَامِلَةً عَوْرَتُوْنَ كِي عدت وضع حمل ہے اور حمل اس پورے مجموعے کا نام ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے، لہذا پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب عورت کے پیٹ کا پورا حمل ہی نہیں نکلا تو اس کی عدت کیسے پوری ہوگی، عدت تو پورے حمل کی وضع سے ہوگی اور پورے حمل کی وضع دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد ہوگی، اس لیے عدت کا اتمام بھی دوسرے بچے کی پیدائش پر ہوگا، الحاصل ان دونوں مسئلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک؟



## بَابُ الْأَنْجَاسِ وَتَطْهِيرِهَا

یہ باب نجاستوں اور ان کی تطہیر کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے نجاست حکمیہ کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے نجاست حقیقیہ کو بیان کر رہے ہیں، دونوں کو یکے بعد دیگرے بیان کرنے کی وجہ تو یہی ہے کہ دونوں کا تعلق نجاست سے ہے اور جس طرح نجاست حکمیہ سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح نجاست حقیقیہ سے بھی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، تاہم نجاست حکمیہ کو نجاست حقیقیہ پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نجاست حکمیہ، حقیقیہ کے مقابلے میں اقویٰ ہے، اس لیے کہ اگر نجاست حقیقیہ ایک درہم سے کم ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف نجاست حکمیہ اگر معمولی سی ہو تو وہ بھی جواز صلاۃ کے لیے مانع ہے، اس حوالے سے نجاست حکمیہ نجاست حقیقیہ کے مقابلے میں اقویٰ ہے اور اسی وجہ سے بیان اور ذکر میں اسے تقدم حاصل ہوا ہے۔ اُنْجَاسٍ نَجَسٍ كِي جَمْعِ هِيَ جَسَ كِي مَعْنَى هِيَ كُنْدُكِي، نجاست۔

﴿تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّيِّ وَتَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّيُ عَلَيْهِ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (سورة المدثر : ۴)، وَقَالَ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى تُمْ أَقْرَصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَلَا يَضُرُّكَ أَثْرُهُ، وَإِذَا وَجَبَ التَّطْهِيرُ فِي الثُّوبِ وَجَبَ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ يَشْمَلُ الْكُلَّ .

**ترجمہ:** مصلی کے بدن، اس کے کپڑے اور اس کی جائے نماز سے نجاست کو پاک کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے ”آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے“ اور آپ ﷺ نے (ایک عورت سے) فرمایا کہ اسے جھاڑ دے پھر کھرچ دے اور پھر اسے پانی سے دھو ڈال اور اس کا داغ تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اور جب کپڑے کی تطہیر واجب ہوگی تو بدن اور مکان کی تطہیر بھی واجب ہوگی، کیوں کہ بحالت نماز استعمال کرنا ان سب کو شامل ہے۔

### اللِّغَاتُ:

﴿حَتَّى﴾ حَتَّ يَحُتُّ، باب نصر؛ رَكَّزْنَا، تَوْرَكَّزْتُ دَعَى. ﴿أَقْرَصِي﴾ قَرَصَ يَقْرُصُ، باب نصر؛ نَاحِخُنَّ سَعَى شَكْلِي لِيْنَا،

کھرچنا۔



## تخریج:

① اخرجہ الاثمہ الستہ فی کتبہم والبخاری فی الوضوء باب غسل الدم حدیث رقم ۲۲۷.

و مسلم فی الطہارۃ باب نجاسة الدم و کیفیتہ غسلہ حدیث رقم ۶۷۵.

## توضیح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے اپنے بدن کو پاک صاف رکھنا فرض ہے، اسی طرح اپنے لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ کو بھی پاک رکھنا فرض اور لازم ہے، تطہیر ثياب کی دلیل تو قرآن کریم کا اعلان وثيابك فطهر ہے، اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں طور ہے کہ جب قرآن کریم نے کپڑے کی تطہیر کو فرض قرار دیا ہے تو بدن اور مکان کی تطہیر بھی فرض ہوگی، اس لیے کہ نماز پڑھنے میں جس طرح کپڑے کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح، بل کہ اس سے زیادہ بدن اور مکان کا بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا تطہیر ثياب کا حکم تو عبارت النص سے ثابت ہوگا اور تطہیر بدن اور تطہیر مکان کا حکم دلالت النص سے ثابت ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس کا کچھ حصہ کتاب میں مذکور ہے، پوری حدیث فتح القدر اور بنایہ میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہا قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تفرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے ایک عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے بتائیے وہ اسے کس طرح پاک کرے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اسے لکڑی وغیرہ سے کھرچ دے پھر پانی ڈال کر مل دے اور پھر اس پر پانی بہا کر اس میں نماز پڑھ لے اور (اتنا کرنے کے بعد بھی) اگر نجاست کا کوئی داغ اور دھبہ وغیرہ دکھائی دے تو اس کا ٹینشن نہ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس حدیث سے بھی تطہیر ثياب کا حکم واضح ہو گیا۔

﴿وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَانِعٍ طَاهِرٍ يُمَكِّنُ إِزَالَتَهَا بِهِ كَالخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا عَصَرَ انْعَصَرَ﴾ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رضی اللہ عنہ وَأَبِي يُونُسَ رضی اللہ عنہ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رضی اللہ عنہ وَزُفَرٌ رضی اللہ عنہ وَالشَّافِعِيُّ رضی اللہ عنہ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمَاءِ، لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمَلَقَاتِ، وَالتَّجْسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ تَرَكَ فِي الْمَاءِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَانِعَ قَالَعٌ وَالطَّهْوَرِيَّةُ بَعْلَةُ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَةُ، وَالتَّجَاسَةُ لِلْمَجَاوِرَةِ فَإِذَا انْتَهَتْ أَجْزَاءُ النَّجَسِ يَبْقَى طَاهِرًا، وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالبَدَنِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رضی اللہ عنہ وَإِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنِ أَبِي يُونُسَ رضی اللہ عنہ، وَعَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجَازِ فِي البَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ.

**ترجمہ:** اور پانی کے ذریعے نجاستوں کو پاک کرنا جائز ہے، نیز ہر اس چیز سے تطہیر نجاستات جائز ہے جو بہنے والی ہو پاک ہو اور اس سے نجاستوں کو زائل کرنا ممکن ہو، جیسے سرکہ اور گلاب کا پانی وغیرہ، یعنی ان چیزوں سے جنہیں نچوڑا جائے تو وہ نچر جائیں اور یہ

حکم حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کے یہاں ہے، امام محمد، امام زفر اور امام شافعی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نجاستوں کی تطہیر صرف پانی ہی سے جائز ہے، اس لیے کہ مطہر چیز پہلی ہی ملاقات سے ناپاک ہو جاتی ہے، اور ناپاک چیز طہارت کا فائدہ نہیں دیتی، لیکن پانی میں بر بنائے ضرورت اس قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے۔

حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ بننے والی چیز نجاست کو اکھاڑ پھینکتی ہے اور وصف طہوریت اکھاڑ پھینکنے اور زائل کرنے ہی کی بنیاد پر ہے، جب کہ نجاست مجاورت کی وجہ سے ہے، لہذا جب ناپاکی کے اجزاء ختم ہو جائیں گے تو وہ شئی پاک ہو جائے گی۔ اور قدوری کا حکم کپڑے اور بدن میں کوئی فرق نہیں کرتا، یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے، جب کہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ انھوں نے بدن اور کپڑے میں فرق کیا ہے، چنانچہ انھوں نے بدن کے سلسلے میں غیر ماء سے تطہیر کو ناجائز قرار دیا ہے۔

## اللغات:

﴿خَلَّ﴾ سرکہ۔ ﴿مَاءُ الْوَرْدِ﴾ گلاب کا عرق۔ ﴿عَصْرٌ﴾ صیغہ مجہول، نچوڑنا۔ ﴿قَالَعٌ﴾ اسم فاعل، باب فتح؛

اکھاڑنے والا۔

## مزیل نجاست چیزوں کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت شیخین کے یہاں پانی سے نجاستوں کو پاک کرنا تو جائز ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز سے نجاست کی تطہیر جائز ہے جس میں تین صفت ہوں (۱) وہ بننے والی ہو (۲) پاک ہو (۳) اس چیز سے تطہیر درازالہ ممکن بھی ہو، جیسے سرکہ اور گلاب کا پانی وغیرہ۔ اس کے برخلاف دیگر تمام ائمہ (امام محمد، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ) کا مسلک یہ ہے کہ نجاست کی تطہیر صرف پانی سے جائز ہے، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاستوں کو پاک کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ پاک کرنے والی چیز جب پہلی مرتبہ نجاست سے ملے اور نکلے گی تو وہ خود بھی ناپاک ہو جائے گی، کیوں کہ اس میں نجاست کے تمام اجزاء گھل مل جائیں گے اور ظاہر ہے کہ جو چیز خود بھی ناپاک ہو وہ دوسری چیزوں کو کیسے پاک کر سکتی ہے؟ اس لیے عقل اور قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پانی سے بھی نجاست کی تطہیر ممکن نہ ہو، مگر اس کے علاوہ چون کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے خلاف قیاس پانی کو مطہر اور مزیل مان لیا گیا ہے، لیکن پانی کے علاوہ دیگر چیزوں کو مطہر نہیں مانا جائے گا۔

حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پانی کو آپ بھی مطہر اور مزیل نجاست مانتے ہیں، اور پانی کے مطہر ہونے کی علت یہی ہے کہ وہ نجاستوں کو دور کر دیتا ہے، لہذا یہ علت صرف پانی کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، بل کہ شریعت محمدیہ میں جو وسعت دی گئی ہے اس وسعت کے پیش نظر ہر اس چیز کو مطہر کہنا پڑے گا، جس میں وصف طہارت کے ساتھ ساتھ علت مزیل اور علت مطہر پائی جائے گی، اور پھر علت کا اشتراک معلول کے اشتراک کو متضمن ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے علاوہ سرکہ اور عرق گلاب وغیرہ میں بھی یہ علت موجود ہے، اس لیے ان کو بھی مطہر قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں سے بھی نجاست کو زائل کرنا جائز اور درست ہوگا۔

رہا آپ کا یہ کہنا کہ شئی مطہر اول ملاقات میں نجس ہو جائے گی تو یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ شئی

مطہر از خود پاک ہوتی ہے اور بقول آپ کے اگر وہ ناپاک ہو جاتی ہے تو اجزاء نجاست کے ساتھ مجاورت کی وجہ سے ناپاک ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اس شیء مطہر کے ساتھ نجاست کے اجزاء بھی تو بہہ کر گر جاتے ہیں اور جب نجاست کے اجزاء گر جائیں گے تو جس چیز کو پاک کیا جا رہا تھا وہ لامحالہ پاک ہو جائے گی اور یہی مقصود ہے، لہذا جب پانی کے علاوہ دیگر مائع سے بھی یہ مقصود حاصل ہو جا رہا ہے تو انھیں بھی مطہر اور مزیل قرار دیا جائے گا اور جس ضرورت کی وجہ سے پانی کو مطہر قرار دیا گیا ہے اسی ضرورت کی وجہ سے پاک مائع کو بھی مطہر قرار دیا جائے گا، کیوں کہ ہمہ وقت انسان نہ تو پانی پر قادر ہوتا ہے اور نہ ہی پانی کا مشکیزہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔

و جواب الكتاب الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری میں یہ جو حکم مذکور ہے ویجوز تطہیرھا بالماء وبکل مانع الخ اس سے کپڑے اور بدن کی نجاستوں کے پاک کرنے میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا، بل کہ جس طرح کپڑے وغیرہ کی نجاست کو ماء اور مائع سے پاک کرنا جائز ہے، اسی طرح بدن کی نجاست کو بھی دونوں سے پاک کرنا جائز ہے، یہی امام صاحب رحمہ اللہ کا قول ہے، یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔

البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دوسری روایت یہ ہے بدن اور کپڑے کی نجاستوں کے طریقہ تطہیر میں فرق ہے، چنانچہ کپڑے کو تو ماء اور مائع دونوں سے پاک کر سکتے ہیں، لیکن بدن کو صرف پانی ہی سے پاک کر سکتے ہیں، اور مائع مثلاً سرکہ وغیرہ سے نہیں پاک کر سکتے۔ مگر پہلا قول ہی صحیح ہے، کیوں کہ یہ نفس بدن کی طہارت کا معاملہ نہیں ہے، بل کہ بدن پر لگی ہوئی نجاست کی تطہیر کا مسئلہ ہے اور نجاست کی تطہیر کے متعلق بدن اور کپڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (عنایہ ۱۹۴۱)

وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ كَالرُّوْتِ وَالْعَذْرَةِ وَالذَّمِّ وَالْمَنِيِّ فَجَعَلَتْ فَدَلَكَةً بِالْأَرْضِ جَازًا ۖ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ إِلَّا فِي الْمَنِيِّ خَاصَّةً، لِأَنَّ الْمُنْتَادِخَلَ فِي الْخُفِّ لَا يَزِيلُهُ الْجَفَافُ وَالذَّلْكُ، بِخِلَافِ الْمَنِيِّ عَلَى مَا نَذَرْنَاهُ، وَلَهُمَا قَوْلُهُ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ كَانَ بِيَهُمَا أَدَى فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ، وَلِأَنَّ الْجِلْدَ لِصَلَابَتِهِ لَا يَتَدَاخَلُهُ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، ثُمَّ يَجْتَذِبُهُ الْجِرْمُ إِذَا جَفَّ فَإِذَا زَالَ زَالَ مَقَامَ بِهِ، ﴿وَفِي الرُّطْبِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَغْسِلَهُ﴾ لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالْأَرْضِ يَكْثَرُهُ وَلَا يَطْهَرُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا مَسَحَهُ بِالْأَرْضِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ يَطْهَرُ لِعُمُومِ الْبُلُوَى وَإِطْلَاقِ مَا يُرْوَى، وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا .

**ترجمہ:** اور اگر موزے کو جسم دار نجاست لگ گئی جیسے گوبر، پاخانہ، خون اور منی پھر وہ نجاست خشک ہو گئی اس کے بعد اسے زمین پر مل دیا تو یہ جائز ہے۔ اور یہ استحسان ہے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور یہی قیاس ہے، مگر خاص طور پر منی میں، کیوں کہ جو چیز موزے میں داخل ہو گئی ہے اسے خشک ہونا اور ملنا زائل نہیں کرتا، بخلاف منی کے، جیسا کہ ہم اس کے احکام کو آئینہ بیان کریں گے۔

حضرات شیخین کی دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر خضین میں نجاست لگی ہو تو انھیں زمین سے رگڑ دو، اس لیے کہ زمین ان کے لیے مطہر ہے۔ اور اس لیے بھی کہ کھال کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست کے اجزاء داخل نہیں ہو پاتے مگر بہت تھوڑے، پھر خشک ہونے کے بعد نجاست کا جسم خود ہی ان اجزاء کو جذب کر لیتا ہے، پھر جب وہ جسم زائل ہو گیا تو جو اجزاء اس کے ساتھ قائم تھے وہ بھی زائل ہو گئے۔

اور تر نجاست میں رگڑنا جائز نہیں ہے، بل کہ حکم یہ ہے کہ تر نجاست کو دھولے، کیوں کہ زمین پر رگڑنا نجاست کو پھیلا دے گا اور اسے پاک نہیں کرے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب اس طرح اسے زمین پر رگڑا کہ نجاست کا کوئی اثر ہی باقی نہ رہا تو وہ پاک ہو جائے گی، عموم بلوی اور اطلاق حدیث کی وجہ سے، اور ہمارے مشائخ اسی پر عمل پیرا ہیں۔

## اللغات:

﴿عَذْرَةٌ﴾ فضله، پاخانہ۔ ﴿ذَلِك﴾ اسم مصدر، باب نصر؛ ملنا۔ ﴿صَلَابَةٌ﴾ ٹھوس ہونا، سخت ہونا۔ ﴿عُمُومٌ الْبَلْوَى﴾ ابتلاء کا عام ہونا، ہر ایک کا مبتلا ہونا۔

## تخریج:

① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب الأذی یصیب النعل حدیث رقم ۳۸۵-۳۸۶۔

## رگڑنے سے نجاست دور ہونے کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خضین پہنے ہوئے ہو اور اس پر کوئی ایسی نجاست لگ جائے جو جسم دار ہو یعنی ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہو جیسے پاخانہ، گوبر، خون اور منی وغیرہ، اس کے بعد وہ نجاست خشک ہو گئی اور موزہ پہنے ہوئے شخص نے خشک ہونے کے بعد اسے زمین پر مل کر صاف کر دیا، تو حضرات شیخین کے یہاں وہ موزے پاک ہو گئے اور اب انھیں دھوئے بغیر پہن کر نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہے یہی استحسان کا تقاضا ہے۔

امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح موزے پاک نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس طرح پاک کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، امام محمد رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ نجاست لگنے کے بعد موزے میں سرایت کر جاتی ہے اور نجاست کے اجزاء موزے میں داخل ہو جاتے ہیں، جو خشک ہونے اور ملنے کے بعد بھی نہیں نکلتے، اس لیے صورت مسئلہ میں موزوں کا دھونا ہی ضروری ہے، خشک ہونے یا ملنے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہو گے، البتہ منی کا حکم اس سے علاحدہ ہے، چنانچہ اس کے مقام پر اس کی تشریح کی جائے گی۔

حضرات شیخین کی دلیل حدیث پاک کا وہ جزء ہے جس میں موزوں پر لگی ہوئی نجاست کو زمین پر رگڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر زمین ہی کو ان کے لیے مطہر قرار دیا گیا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں خشک ہونے کے بعد زمین پر رگڑنے سے خضین کی طہارت کا حکم لگا دیا جائے گا اور ظاہر نص سے عدول کر کے قیاس کا سہارا نہیں لیا جائے گا۔

دوسری دلیل جو درحقیقت امام محمد رضی اللہ عنہ کی دلیل کا جواب بھی ہے یہ ہے کہ خضین چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس

قدرت اور چکنے ہوتے ہیں کہ ان میں نجاست کے اجزاء بہت معمولی مقدار میں ہی داخل ہو پاتے ہیں اور جو داخل بھی ہوتے ہیں انہیں نجاست کا جرم اور جسم جذب کر لیتا ہے اور وہ سب موزے میں رہنے کے بجائے اسی جرم میں رہتے ہیں، پھر جب انسان موزوں کو زمین پر رگڑتا ہے تو وہ جرم زائل ہو جاتا ہے اور موزے سے گر جاتا ہے اور جب جرم گرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اجزاء بھی گریں گے جو اس میں جذب تھے اور رگڑنے سے موزے پورے طور پر پاک صاف ہو جائیں۔

وفي الرطب الخ او پر بیان کردہ صورت تو نجاست کے خشک ہو جانے سے متعلق تھی، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر موزوں پر لگی ہوئی نجاست خشک نہیں ہوئی تھی، بل کہ تر تھی، اور اسی حالت میں موزوں کو زمین پر رگڑ دیا گیا تو اس سے موزے پاک نہیں ہو گے، بل کہ انہیں پاک کرنے کے لیے پانی سے دھلنا ضروری ہوگا، کیوں کہ نجاست کے تر ہونے کی صورت میں زمین پر رگڑنے سے نجاست پاک ہونے کے بجائے اور پھیل جائے گی اور پورے موزوں کو آلودہ کر دیگی، اس لیے اس صورت میں مسح سے کام نہیں چلے گا، بل کہ غسل ضروری ہوگا۔

اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ نجاست کے تر ہونے کی صورت میں بھی زمین پر رگڑنے سے موزے پاک ہو جائیں گے بشرطیکہ نجاست کا کوئی اثر موزوں میں باقی نہ رہے، کیوں کہ عام طور پر موزوں میں اسی طرح کی نجاست لگتی ہے اور لوگ انہیں رگڑنے اور پاک کرنے میں جلدی مچاتے ہیں اور نجاست کے خشک ہونے تک کوئی نہیں انتظار کرتا ہے، اس لیے اگر رگڑنے سے اسے پاک نہیں قرار دیں گے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ والخرج مدفوع فی الشرع

دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں جو فلیمسحہما کا حکم وارد ہے وہ مطلق ہے اور اس میں خشک یا تر نجاست کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا المطلق یجوز علی إطلاقہ والے ضابطے کے تحت تر نجاست بھی رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ یہی ہمارے مشائخ کا قول ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے، عنایہ میں ہے قال شمس الأئمة السرخسی وهو صحیح وعلیہ الفتوی للضرورة (۱۹۷/۱)

﴿فَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلٌ فَيَسَّ لَمْ يَجْزُ حَتَّى يَغْسِلَهُ﴾ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا جِرْمَ لَهُ كَالْخَمْرِ، لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ تَتَشَرَّبُ فِيهِ، وَلَا جَاذِبَ يَجْدِبُهَا، وَقِيلَ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الرَّمْلِ جِرْمٌ لَهُ .

**ترجمہ:** پھر اگر موزے پر پیشاب لگ جائے اور خشک ہو جائے تو دھوئے بغیر اس کو پہن کر نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی ہر وہ نجاست جس کا جرم نہ ہو جیسے شراب، کیوں کہ نجاست کے اجزاء اس میں پی لیے جاتے ہیں، اور جذب کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ جو کچھ ریت وغیرہ اس سے متصل ہے وہی اس کے لیے جرم ہے۔

## اللغات:

﴿جَاذِبٌ﴾ اسم فاعل، باب ضرب؛ جذب کرنے والا، پی لینے والا۔

رگڑنے سے دور نہ ہونے والی نجاستیں:

فرماتے ہیں کہ اگر موزے کو پیشاب یا غیر جسم دار کوئی دوسری نجاست مثلاً شراب وغیرہ لگ جائے تو اس صورت میں ڈھلے بغیر موزہ پاک نہیں ہوگا اور محض رگڑنے کے بعد اسے پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ جرم نہ ہونے کی وجہ سے نجاست کے اجزاء موزے میں پیوست ہو گئے اور ان کے جذب ہونے کی بھی کوئی سبب نہیں ہے، اس لیے لامحالہ دھو کر ہی موزے کو پاک کیا جائے گا۔

وقیل الخ اس سلسلے میں امام ابو یوسف سے ایک قول یہ منقول ہے کہ پیشاب وغیرہ لگنے کے بعد اگر موزے پر ریت یا کوئی اور جسم دار چیز لگ جائے تو وہ چیز پیشاب وغیرہ کے لیے جرم بن جائے گی اور رگڑنے سے موزہ پاک ہو جائے گا۔

﴿وَالثُّوْبُ لَا يُجْزِي فِيهِ إِلَّا الْغُسْلُ وَإِنْ يَسَسَ﴾ لَأَنَّ الثُّوْبَ لِيَتَخَلَّخِلَهُ يَتَدَاخَلُ كَثِيرٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ فَلَا يُخْرِجُهَا إِلَّا الْغُسْلُ .

**ترجمہ:** اور کپڑے میں غسل کے علاوہ کچھ بھی جائز نہیں ہے اگرچہ وہ خشک ہو جائے، کیوں کہ کپڑے کے نرم ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست کے بہت سارے اجزاء داخل ہو جاتے ہیں جنہیں غسل ہی نکال سکتا ہے۔

**اللغات:**

﴿تَخَلَّخَلَ﴾ اسم مصدر، باب تفعّل؛ خلا والا ہونا۔

**کپڑے کی پائی کا طریقہ:**

فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کو نجاست لگ جائے تو اس صورت میں اس کی تطہیر کا واحد راستہ غسل (دھونا) ہے، کیوں کہ کپڑا نرم ہوتا ہے اور اس میں کثیر مقدار میں نجاست کے اجزاء گھس جاتے ہیں جو خشک ہونے کے باوجود نہیں نکلتے، اس لیے انہیں نکالنے اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے صرف اور صرف پانی چاہیے، اس لیے کہ پانی ہی ان اجزاء کو باہر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔

﴿وَالْمَنِيَّ نَجَسٌ يَجِبُ غَسْلُهُ رَطْبًا فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثُّوْبِ أَجْزَاءُ فِيهِ الْفُرُكُ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاعْسَلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا، وَافْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَاهِرٌ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ② إِنَّمَا يُغْسَلُ الثُّوْبُ مِنْ خَمْسٍ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَنِيَّ، وَلَوْ أَصَابَ الْبَدَنَ، قَالَ مَشَانِخُنَا يَطْهَرُ بِالْفُرُكِ، لِأَنَّ الْبُلُؤَى فِيهِ أَشَدُّ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَطْهَرُ إِلَّا بِالْغُسْلِ، لِأَنَّ حَرَارَةَ الْبَدَنِ جَادِبَةٌ فَلَا يَعُودُ إِلَى الْجِرْمِ، وَالْبَدَنُ لَا يُمَكِّنُ فُرُكُهُ.

**ترجمہ:** اور منی ناپاک ہے، تر ہونے کی حالت میں اس کا دھونا واجب ہے، لیکن جب کپڑے پر خشک ہو جائے تو اس میں

کھر چنا کافی ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا ”منیٰ کو دھولو اگر وہ تر ہو، اور اسے کھرچ دو اگر وہ خشک ہو۔“

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منیٰ پاک ہے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ روایت حجت ہے۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی وجہ سے کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور ان میں سے آپ نے منیٰ کو بیان کیا۔ اور اگر جسم پر منیٰ لگ جائے تو ہمارے مشائخ کا فرمان یہ ہے کہ کھرچنے سے جسم پاک ہو جائے گا، کیوں کہ اس میں زیادہ ابتلاء ہے۔ اور حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ دھوئے بغیر جسم پاک نہیں ہوگا، کیوں کہ بدن کی حرارت (منیٰ کو) جذب کرنے والی ہے، لہذا منیٰ جرم کی طرف عود نہیں کرے گی اور بدن کو کھرچنا ممکن نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿رَطْبٌ﴾ تر، گیلا۔ ﴿يَابِسٌ﴾ خشک، سوکھا۔ ﴿أَفْرُكِيٌّ﴾ صيغة امر مؤنث حاضر، باب نصر؛ کھرچنا۔ ﴿جَوْمٌ﴾ جسامت۔

### تخریج:

① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارة باب ماورد فی طہارة المنیٰ و حکمہ . حدیث رقم : ۴۴۳ .

② اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطہارة باب نجاسة البول حدیث رقم ۴۵۲ .

### منیٰ کی ناپاکی کی بحث اور اس کو دور کرنے کے طریقے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسانوں کی منیٰ ناپاک ہے اور اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو تر ہونے کی صورت میں اس کا دھونا واجب ہے، اس سے بالمقابل امام شافعی رضی اللہ عنہ کے یہاں انسانوں کی منیٰ پاک ہے اور اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، بل کہ رگڑنے اور کھرچنے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو فتح القدر اور بنایہ وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے ”أنه سئل عن المنیٰ یصیب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، وقال إنما یکفیک أن تمسحه بخرقة أو إذخرة۔“ یعنی آپ ﷺ سے یہ معلوم کیا گیا کہ اگر کپڑے پر منیٰ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ منیٰ ریئت اور تھوک کی طرح ہے اور اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اسے کسی خراب کپڑے یا اذخر گھاس سے پونچھ دو کپڑا پاک ہو جائے گا، اس حدیث سے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ آپ ﷺ نے منیٰ کو ریئت اور تھوک کے درجے کی چیز قرار دیا ہے اور ریئت اور تھوک پاک ہیں، لہذا منیٰ بھی پاک ہوگی۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ منیٰ ہی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور انسانوں میں حضرات انبیاء کرام بھی ہیں، اب اگر ہم منیٰ کو ناپاک مانتے ہیں تو حضرات انبیاء کا ناپاک چیز سے پیدا ہونا لازم آئے گا جو ان کی عظمت اور ان کے تقدس کے خلاف ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اگر منیٰ تر ہو تب تو اسے

دھولیا کرو اور اگر خشک ہو تو اسے کھرچ دیا کرو، اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال باس معنی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صیغہ امر کے ذریعے تر ہونے کی صورت میں منی کے دھلنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اگر منی ناپاک نہ ہوتی تو آپ ﷺ صیغہ امر کے ذریعے اس کے دھلنے کا حکم نہ دیتے۔

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ ﷺ نے پانچ چیزوں کے لگ جانے کی وجہ سے کپڑے کو دھلنا لازمی قرار دیا ہے (۱) پیشاب (۲) پاخانہ (۳) خون (۴) تے اور پانچویں چیز منی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منی ناپاک ہے ورنہ اس کے لگنے سے کپڑا دھلنا ضروری نہ قرار دیا جاتا۔

یہ دونوں حدیثیں منی کو پاک قرار دینے کے سلسلے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے خلاف حجت ہیں۔ اور رہی وہ حدیث جو ان کی مستدل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، بل کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے، اور ہماری پیش کردہ روایتیں مرفوع ہیں اور ظاہر ہے کہ حدیث مرفوع کے مقابلے میں حدیث موقوف حجت نہیں بن سکتی، حدیث ابن عباس کے متعلق علامہ ابن الہمام نے دارقطنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ لم یرفعه غیر اسحاق الأزرق عن شريك القاضي، ورواه البيهقي من طريق الشافعي موقوفا علی ابن عباس وقال هذا هو الصحيح (فتح القدیر ۱۹۹/۱) صاحب عنایہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں جو كالمخاط و البزاق کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے اور اس تشبیہ کا طہارت میں مشابہ ہونا ضروری نہیں ہے، بل کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تشبیہ چکنے پن اور قلت تداخل میں ہو، یعنی جس طرح رینٹ اور تھوک چکنے ہوتے ہیں، اور کپڑے وغیرہ میں سرایت نہیں کرتے اور کھرچنے سے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح منی بھی چکنی ہوتی اور کپڑے وغیرہ میں بہت کم سرایت کرتی ہے، نیز کھرچنے سے پاک صاف ہو جاتی ہے، لہذا اس احتمال کے ہوتے ہوئے حدیث ابن عباس سے طہارت منی پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ (۱۹۹/۱)

اور ان کی عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ منی کا انسان کی خلقت کا مبداء ہونا تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن براہ راست منی سے انسان نہیں تیار ہوتا، بل کہ منی سے خون بنتا ہے، خون سے علقہ بنتا ہے پھر مضغ بنتا ہے اور اس کے بعد جا کر کہیں اس میں جان پڑتی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی منی کے پاک ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

ولو أصاب البدن الخ فرماتے ہیں کہ اگر بدن پر منی لگ جائے تو اس سلسلے میں علمائے ماوراء النہر کی رائے یہ ہے کہ کھرچنے سے بدن پاک ہو جائے گا، کیوں کہ عموماً منی بدن ہی پر لگتی ہے، اور ہر کسی کے لیے فوری طور پر دھونا دشوار ہوتا ہے، اس لیے عموماً بلوئی کی وجہ سے صورت مسئلہ میں فرک کے ذریعے بھی بدن کو پاک کیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلے میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ بدن پر منی لگ جائے تو صرف دھونے سے ہی بدن پاک ہوگا، کھرچنے سے پاک نہیں ہو سکتا، کیوں کہ بدن کی حرارت منی کو جذب کر لیتی ہے، لہذا جذب شدہ اجزاء پھر جرم یعنی بدن کی طرف عود نہیں کریں گے، اس لیے ان اجزاء کو نکال باہر کرنے کے لیے بدن کا دھلنا ناگزیر ہے، اس لیے کہ بدن کا کھرچنا بھی ممکن نہیں ہے۔



﴿وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْأَةَ أَوْ السَّيْفَ اكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا﴾ لِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُهُمَا النَّجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ .

**ترجمہ:** اور اگر آئینہ یا تلوار کو نجاست لگ جائے تو ان کو پونچھنے پر ہی اکتفاء کرے، کیوں کہ ان کے اندر نجاست نہیں داخل ہو پاتی، اور جو نجاست ان کے اوپر ہے وہ پونچھ دینے سے زائل ہو جائے گی۔

### اللغات:

﴿مِرْأَةٌ﴾ آئینہ، شیشہ۔

پونچھنے سے پاک ہو جانے والی چیزیں:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے، کہ آئینہ اور تلوار وغیرہ میں چون کہ اندر تک نجاست کے اجزاء نہیں گھس پاتے اور پوری کی پوری نجاست اوپر ہی لگی رہتی ہے، اس لیے پونچھنے سے بھی یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی اور ان کا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔

﴿وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضُ نَجَاسَةً فَجَعَتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا﴾ وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَجُوزُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَوْجِدِ الْمَزِيلُ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَكَاةٌ ① الْأَرْضِ يُسْهَأُ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ، لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا تَتَأَدَّى بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ .

**ترجمہ:** اور اگر زمین کو نجاست لگ گئی پھر وہ سورج سے خشک ہو گئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا تو اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام زفر اور امام شافعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مزیل نجاست نہیں پایا گیا، اسی لیے اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ”زمین کی طہارت اس کا خشک ہو جانا ہے، اور تیمم اس وجہ سے جائز نہیں ہے، کیوں کہ مٹی کی طہارت نص کتاب سے شرط بن کر ثابت ہوئی ہے، لہذا وہ اس چیز سے اداء نہیں ہوگی جو حدیث سے ثابت ہے۔“

### اللغات:

﴿يُسْهَأُ﴾ اسم مصدر، باب ضرب؛ خشک ہونا۔ ﴿صَعِيدٌ﴾ سطح زمین، کھلی زمین، کاشت کاری کی زمین، مراوٹی۔

### تخریج:

① اخرجہ ابن ابی شیبہ فی کتاب الطہارۃ باب فی المرجل یطأ الموضع القدر حدیث رقم ۶۲۴۔

ناپاک زمین کے خشک ہو جانے کے بعد کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی زمین کو نجاست لگ گئی اور سورج کی تپش سے وہ سوکھ گئی اور اس کا اثر وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تو اب اس زمین پر ہمارے یہاں نماز پڑھنا درست اور جائز ہے، لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام زفر رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ خشک

ہونے کے بعد بھی اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہاں نجاست لگی ہے اور نجاست کو زائل کرنے والی کوئی چیز یعنی پانی نہیں پایا گیا، اس لیے خشک ہونے کے بعد بھی وہ جگہ ناپاک ہی ہے اور اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ہمارے (شواہح) یہاں پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست کو زائل کرنا بھی تو جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس زمین کے ناپاک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمین سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ زمین پاک ہوتی تو یقیناً اس سے تیمم کرنا جائز ہوتا۔

ہماری دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے زکاة الأرض یسبہا یعنی خشک ہو جانا ہی زمین کے لیے طہارت ہے، اس لیے خشک ہو جانے کے بعد وہ زمین پاک ہوگئی، کیوں کہ ہمارے یہاں جس طرح پانی سے تطہیر جائز ہے، اسی طرح پانی کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی تطہیر ممکن ہے اور حرارت شمس میں زمین وغیرہ کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے گرمی شمس کی وجہ سے اس زمین کو پاک قرار دیں گے اور اس پر نماز پڑھنے کا جواز ہوگا۔

رہا آپ کا یہ کہنا کہ اس سے تیمم جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم کے لیے مٹی کا پاک ہونا نص قرآنی سے مشروط ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے فتمموا صعیدا طیبا الخ اور اس مٹی کا پاک ہونا حدیث سے ثابت ہے، اور اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ حدیث کے مقابلے میں کتاب اللہ اقویٰ ہے اور کتاب اللہ سے ثابت ہونے والا حکم یقینی اور قطعی ہوتا ہے جب کہ حدیث سے اور خبر واحد سے ثابت ہونے والا حکم ظنی ہوتا ہے، اس لیے کتاب اللہ سے ثابت شدہ حکم کو حدیث کے ذریعے ثابت ہونے والے حکم سے اداء نہیں کیا جاسکتا، ورنہ ضعیف پر قوی کی بنا کر نا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

﴿وَقَدَّرُ الدِّرْهَمَ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّحْسِ الْمَغْلَظِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرِّ الدُّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَارَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ، وَإِنْ زَادَ لَمْ تَجْزُ﴾ وَقَالَ زُفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ، لِأَنَّ النَّصَّ الْمَوْجِبَ لِلتَّطْهِيرِ لَمْ يُفْصَلْ، وَلَنَا أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا، وَقَدَّرْنَا بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ اخِذًا عَنْ مَوْضِعِ الْإِسْتِنْبَاجِ، ثُمَّ يُرْوَى إِعْتِبَارُ الدِّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَاحَةُ وَهُوَ عَرَضُ الْكَفِّ فِي الصَّحِيحِ، وَيُرْوَى مِنْ حَيْثُ الْوُزْنِ وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْكَبِيرُ الْمُنْقَالُ وَهُوَ مَا يَبْلُغُ وَزْنُهُ مِثْقَالًا، وَقِيلَ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى فِي الرَّفِيقِ، وَالثَّانِيَةُ فِي الْكُثِيفِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَغْلَظَةً، لِأَنَّهَا تَبَتَّتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ .

**ترجمہ:** اور نجاست مغلظہ مثلاً خون، پیشاب، شراب، مرغی کی بیٹ اور گدھے کے پیشاب میں سے ایک درہم اور اس سے کم کی مقدار معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر ایک درہم سے بڑھ جائے تو نماز جائز نہیں ہے۔

امام زفر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ نجاست کا قلیل و کثیر برابر ہے، کیوں کہ وہ نص جو موجب تطہیر ہے، اس نے قلیل و کثیر میں کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اسے عفو قرار دے دیا گیا اور موضع استنجاء سے حکم نکال کر ہم نے ایک درہم کی مقدار سے قلیل کا اندازہ کیا ہے، پھر درہم کا اعتبار مساحت کے اعتبار سے مروی ہے اور وہ صحیح قول کے مطابق ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار ہے۔ اور وزن کے اعتبار سے بھی درہم کا اعتبار مروی ہے اور وہ ایک مثقال

کا بڑا درہم ہے، یعنی جس کا وزن ایک مثقال ہو۔ اور ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پہلی روایت پتلی نجاست کے سلسلے میں ہے اور دوسری روایت گاڑھی نجاست کے سلسلے میں ہے۔ اور ان چیزوں کی نجاست مغلظہ اس وجہ سے ہے کیوں کہ ان کی نجاست دلیل قطعی سے ثابت ہے۔

## اللغات:

﴿خُرء﴾ بیٹ، پرندوں کا فضلہ۔ ﴿مَسَاخَة﴾ پیمائش۔

## نجاست غلیظہ: تعریف، حکم اور معاف مقدار کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نجاست غلیظہ میں سے ایک درہم یا اس سے کم کی مقدار معاف ہے اور اگر نجاست غلیظہ مثلاً خون، پیشاب، شراب اور مرغی کی بیٹ وغیرہ میں سے کسی کے کپڑے یا بدن کو ایک درہم یا اس سے کم کی مقدار میں کوئی نجاست لگ جائے اور وہ شخص اسی حال میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے، البتہ اگر نجاست ایک درہم سے زائد لگی ہو تو اس صورت میں اسے زائل کیے بغیر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نجاست میں کچھ بھی معاف نہیں ہے، بل کہ اس کا قلیل اور کثیر دونوں برابر ہیں، لہذا جس طرح ایک درہم سے زائد نجاست لگنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اسی طرح ایک درہم سے کم لگنے کی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ نص جس سے تطہیر کا حکم ثابت ہوا ہے (یعنی وثیابک فطہر) اس نص میں مطلقاً کپڑے کی طہارت کا حکم ثابت ہے اور نجاست کے قلیل یا کثیر ہونے کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا المطلق یجوز علی إطلاقہ کے تحت یہ حکم قلیل و کثیر سب کو عام ہوگا اور نجاست کی کوئی بھی مقدار معاف نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نجاست قلیلہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ کھیاں نجاستوں پر بیٹھتی ہیں اور اس کے فوراً بعد انسان کے جسم اور کپڑے وغیرہ پر بیٹھ جاتی ہیں، اسی طرح کھٹل اور مچھر انسان کا خون پیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ جسم اور کپڑے پر مر بھی جاتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے میں خون وغیرہ بھی لگ جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ معمولی سا ہوتا ہے۔

اب اگر اس مقدار کو بھی ہم معاف نہ قرار دیں اور اس کے دھونے کو لازمی قرار دیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو شدید حرج لاحق ہوگا، جب کہ شریعت نے حرج کو دور کر دیا ہے، اس لیے برینائے ضرورت اور دفع حرج نجاست میں سے قلیل کو معاف قرار دیا گیا ہے اور فقہائے احناف نے قلیل کی مقدار ایک درہم سے متعین کیا ہے اور یہ تعین موضع استنجاء سے لی گئی ہے یعنی موضع استنجاء کی مقدار بھی تقریباً ایک درہم کی مقدار کے برابر ہے اور موضع استنجاء بالاتفاق معاف ہے، لہذا جو نجاست اس مقدار کی ہوگی وہ بھی معاف ہوگی۔

ثم یروی الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک درہم کی مقدار میں تو نجاست معاف ہے، مگر یہ سوال اب بھی برقرار ہے کہ ایک درہم کا اعتبار کس طرح ہوگا، وزن سے یا پیمائش سے؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام محمد رحمہم اللہ سے دو روایتیں منقول ہیں (۱) درہم کی مقدار کا اعتبار عرض کف یعنی ہتھیلی کی چوڑائی والی مقدار سے کیا جائے گا (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مثقال کے

ہم وزن درہم کی مقدار سے اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر اس کا وزن ایک مثقال وزن کے برابر ہو تو یہ ایک درہم ہے۔

صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فقیرہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایتوں میں بڑی اچھی تطبیق دی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی روایت یعنی عرض کف والی صورت نجاست کے رقیق اور تپلی ہونے پر محمول ہے اور دوسری صورت یعنی ایک مثقال کے ہم وزن والی روایت نجاست کے غلیظ اور گاڑھی ہونے پر محمول ہے، چنانچہ اگر پیشاب وغیرہ ہے تو عرض کف کی مقدار کا اعتبار ہوگا اور اگر پاخانہ ہے تو مثقال کے وزن کا اعتبار کا ہوگا۔

وإنما كانت الخ فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو خون، پیشاب اور پاخانہ وغیرہ کو نجاست غلیظ کہا گیا ہے انہیں غلیظ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے۔

### نجاست کی قسمیں اور ان کی تفصیل:

علامہ یعنی اور صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نجاست کی جو دو قسمیں ہیں (۱) غلیظ (۲) خفیفہ اور ان کی تعریف میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نجاست غلیظ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض کوئی دوسری نص نہ ہو۔ اور نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں، جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض دوسری نص موجود ہو اور وہ دوسری نص اس شئی کی طہارت ثابت کر رہی ہو۔

حضرات صاحبین کے یہاں نجاست غلیظ وہ ہے جس کا ثبوت اجماع سے ہو اور امت نے بالاتفاق اس کی نجاست کو تسلیم کر لیا ہو، اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جس میں لوگوں کا اختلاف ہو، یعنی بعض لوگ اسے نجس کہتے ہوں اور دوسرے بعض اس کی طہارت کے قائل ہوں۔ (عنایہ ۲۰۵/۱ بنا یہ ۸۳۸/۱)

﴿وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً كَبُولِ مَا يُؤْكَلُ لَحُمُهُ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ رُبْعَ التَّوْبِ يُرَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ﴾ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهِ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ، وَالرُّبْعُ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَعَنْهُ رُبْعُ أَدْنَى تَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَالْمِيمِزِرِ، وَقِيلَ رُبْعُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ كَالذَّلِيلِ وَالِدَّخْرِیْصِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رحمۃ اللہ علیہ شَبْرٌ فِي شَبْرٍ، وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَأَبِي يُوْسُفَ رحمۃ اللہ علیہ لِمَكَانِ الْإِخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ أَوْ لِتَعَارُضِ النَّصِّينِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ.

**ترجمہ:** اور اگر نجاست مخففہ ہو جیسے ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، یہاں تک کہ چوتھائی کپڑے تک پہنچ جائے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کیوں کہ اس نجاست کے متعلق تقدیر کثیر فاحش سے ہے اور بعض احکام میں ربع گل کے ساتھ ملحق ہے۔

امام صاحب سے یہ بھی مروی ہے کہ ادنی کپڑا جس میں نماز جائز ہو جائے اس کا چوتھائی حصہ مراد ہے جیسے تہہ بند، ایک قول یہ ہے کہ جہاں نجاست لگی ہے اس کا چوتھائی حصہ مراد ہے جیسے دامن اور کلی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے طول و عرض میں ایک

ایک بالشت مراد ہونا مروی ہے۔ اور ما کول اللحم جانور کے پیشاب کی نجاست میں اختلاف ہونے کی وجہ سے حضرات شیخینؒ کے یہاں وہ نجاستِ مخففہ ہے، یا دونوں حضرات کے اصل کے مختلف ہونے پر دونوں کے تعارض کی وجہ سے (مذکورہ نجاست نجاستِ مخففہ ہے)۔

## اللغات:

﴿میزر﴾ وہ لباس جس سے چھلا دھڑھانپا جاتا ہے، تہہ بند، ازار۔ ﴿ذیل﴾ کپڑے کا لٹکا ہوا حصہ، دامن۔  
﴿خویرص﴾ وہ چیز جس کے ذریعے کپڑے یا زرہ کو کشادہ کیا جاتا ہے۔

## نجاستِ خفیفہ: تعریف، حکم اور معاف مقدار کی تفصیل:

نجاستِ غلیظہ تو ایک درہم کے بقدر معاف ہے، یہاں سے نجاستِ خفیفہ کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نجاستِ خفیفہ چوتھائی کپڑے کی مقدار سے کم ہو تو معاف ہے ورنہ نہیں۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بدن یا کپڑے کو نجاستِ خفیفہ مثلاً ما کول اللحم جانوروں کا پیشاب لگ گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چوتھائی کپڑے یا جزء بدن پر لگے ہوئے جز کے چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہے، یا اس کے برابر میں، یا اس سے زیادہ میں لگی ہے۔ اگر یہ نجاستِ چوتھائی حصے کے برابر لگی ہے، یا اس سے زیادہ لگی ہے تب تو وہ معاف نہیں ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہے تو یہ مقدار شرعاً معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔

یہ روایت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور اس کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ نجاستِ مخففہ میں مقدار غیر عنفوکا اندازہ کثیر فاحش (یعنی بہت ہی زیادہ نجاستِ خفیفہ ہو تو معاف نہیں ہے) سے کیا گیا ہے اور ربع کو بہت سے احکام میں کل کا درجہ دیا گیا ہے، مثلاً مسحِ راس کے سلسلے میں ربعِ راس کل راس کے قائم مقام ہے، اسی طرح ستر عورت کھلنے میں بھی ربع کا انکشاف انکشافِ کل کے مانند ہے، اس لیے یہاں بھی ہم نے ربع کی مقدار سے کثیر فاحش کا اندازہ لگایا اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر نجاستِ خفیفہ ربع حصے سے کم ہو تو وہ معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر ربع کے بقدر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

وعنه ربع نوب الخ یہاں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس ربع کے ساتھ کثیر فاحش کا اندازہ کیا گیا ہے اس سے کس چیز کا ربع مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضراتِ ائمہ کے مختلف اقوال ہیں (۱) چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ منقول ہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہے اس کے پورے مجموعے کا ربع مراد ہے، مثلاً اگر کپڑے پر لگی ہے تو پورے کپڑے کا ربع مراد ہے، یا اگر بدن پر نجاست لگی ہے تو پورے بدن کا ربع مراد ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ منقول ہے کہ کم سے کم جتنے کپڑے میں نماز جائز ہو جائے اس کا ربع مراد ہے، مثلاً تہہ بند میں نماز جائز ہے تو تہہ بند کا ربع مراد ہوگا۔

(۳) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اس کا چوتھائی مراد ہے، مثلاً اگر دامن یا کلی پر

نجاست لگی ہے تو اس کا ربیع مراد ہوگا۔

(۴) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نجاست خواہ کہیں بھی لگی ہو، اگر ایک بالشت طول اور ایک بالشت عرض میں پھیلی ہوئی ہے تو یہ ربیع کی مقدار ہے اور اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کم ہو تو نماز جائز ہے۔  
وانما كان مخففا الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کو حضرات شیخین نے جو نجاست خفیفہ میں شمار کیا ہے اس کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان حضرات کے اپنے اصول مختلف ہیں اور یہ ان کے اپنے اصولوں پر فٹ ہے، چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نجاست خفیفہ کی علت تعارض نص ہے اور وہ یہاں موجود ہے بایں معنی کہ استنزهوا من البول الخ سے ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کی نجاست ثابت ہے جب کہ حدیث عتینین سے ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طہارت ثابت ہے۔ اور یہ مسئلہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اصل پر اس معنی کر کے فٹ ہے کہ ان کے یہاں نجاست خفیفہ کی علت حضرات ائمہ و مجتہدین کا اختلاف ہے اور وہ اس صورت میں موجود ہے، کیوں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کو ظاہر مانتے ہیں جب کہ دیگر فقہاء اسے ناپاک قرار دیتے ہیں، لہذا جب دونوں حضرات کے یہاں بول ماکول اللحم میں نجاست خفیفہ کی علت موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خفیفہ ہی ہوگی۔

﴿وَإِذَا أَصَابَ الثُّوبَ مِنَ الرُّوْتِ أَوْ مِنْ أُخْتَاءِ الْبَقْرِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهِمِ لَمْ تَجْزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ﴾ لِأَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي نَجَاسَتِهِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَمَى بِالرُّوْتِ وَقَالَ هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِجْسٌ لَمْ يَعَارِضْهُ غَيْرُهُ، وَبِهَذَا يَنْبُتُ التَّغْلِيظُ عِنْدَهُ، وَالتَّخْفِيفُ بِالتَّعَارُضِ، وَقَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَفْحَشَ، لِأَنَّ لِلْإِجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاحًا وَبِهَذَا يَنْبُتُ التَّخْفِيفُ عِنْدَهُمَا، وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً لِامْتِلَاءِ الطَّرِيقِ بِهَا وَهِيَ مُؤَثَّرَةٌ فِي التَّخْفِيفِ، بِخِلَافِ بَوْلِ الْحِمَارِ، لِأَنَّ الْأَرْضَ تَنْشِفُهُ، قُلْنَا الضَّرُورَةُ فِي النَّعَالِ وَقَدْ أَثَرَتْ فِي التَّخْفِيفِ مَرَّةً حَتَّى تَطْهَرَ بِالمَسْحِ فَتَكْتَفِي مُؤَثَّرَتَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَاكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَاكُولِ اللَّحْمِ وَوَأَفْقَهُمَا فِي الْمَاكُولِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رحمۃ اللہ علیہ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرَّيِّ وَرَأَى الْبُلُوى أَفْتَى أَنَّ الْكَثِيرَ الْفَاحِشَ لَا يَمْنَعُ أَيضًا، وَقَاسُوا عَلَيْهَا طِينَ بَحَارَا، وَعِنْدَ ذَلِكَ رَجُوعُهُ فِي النُّخْفِ يَرُوى .

**ترجمہ:** اور جب کپڑے کو لید یا گائے کا گوبر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے، کیوں کہ لید کی نجاست کے متعلق جو نص وارد ہے۔ اور وہ یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید کو پھینک کر یوں فرمایا کہ یہ ناپاک ہے یا پلید ہے۔ اس کے معارض کوئی کوئی دوسری نص نہیں ہے اور اس چیز سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تغلیظ ثابت ہو جاتی ہے، جب کہ تخفیف تعارض نص سے ثابت ہوتی ہے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے حتیٰ کہ وہ فاحش ہو جائے، کیوں کہ اس میں اجتہاد کو گنجائش ہے اور اس چیز سے

ان کے یہاں تخفیف ثابت ہوتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ راستوں کے اس سے بھرے پڑے ہونے کی وجہ سے اس میں ضرورت ہے اور ضرورت تخفیف میں مؤثر ہے۔ برخلاف گدھے کے پیشاب کے، اس لیے کہ اسے زمین جذب کر لیتی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ضرورت جو توں میں ثابت ہے اور یہ ضرورت ایک مرتبہ تخفیف میں مؤثر ہوگی ہے، یہاں تک کہ موزہ رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، لہذا یہ طہارت مؤنت ضرورت میں کافی ہوگی۔

اور ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں فرق کیا ہے، چنانچہ غیر ماکول اللحم میں تو وہ امام صاحب کے موافق ہیں اور ماکول اللحم میں حضرات صاحبین کے۔

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب وہ شہرے میں داخل ہوئے اور اس مسئلے میں عموم بلوی دیکھا تو یہ فتویٰ دیا کہ کثیر فاش بھی مانع نماز نہیں ہے، اور مشائخ نے اسی پر بخارا کے کچھڑ کو قیاس کر لیا ہے۔ اور اسی وقت مسئلہ خف میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع بھی منقول ہے۔

## اللَّغَاتُ:

﴿أَنْشَاءٌ﴾ اسم جمع، واحد خنی؛ لید، گوبر۔ ﴿رَوْتَةٌ﴾ سوکھا گوبر، اپلا۔ ﴿رِكْسٌ﴾ ناپاک۔ ﴿مَسَاغٌ﴾ گنجائش۔ ﴿تَنْشِيفٌ﴾ نشف ینشف؛ چوس لینا، جذب کر لینا۔

## نجاست کی تقسیم میں اختلافِ اقوال اور اس کا ثمرہ:

عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے متعلق حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات صاحبین کے اپنے اپنے اصول پر مبنی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے پر لید یا گائے کا گوبر لگ جائے اور ایک درہم سے زیادہ مقدار میں ہو تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لید کی نجاست نجاست غلیظہ ہے اور نجاست غلیظہ ایک درہم کی مقدار سے زائد معاف نہیں ہے، لید کی نجاست نجاست غلیظہ اس وجہ سے ہے کہ جس حدیث سے اس کی نجاست کا حکم ثابت ہوا ہے اس حدیث کی معارض کوئی دوسری نص نہیں ہے اور نجاست کے غلیظہ ہونے کے لیے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ضابطہ بھی یہی ہے۔

نجاست لید پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث دلیل ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے "أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن أتية بثلاثة أحجار فوجدت حجورين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثه فأتيته بها فأخذ الحجورين وألقى الروث وقال هذا ركس" یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت ابن مسعود کو تین پتھر لانے کا حکم دیا، یہ دو پتھر ہی پاس کے تیسرا پتھر نہیں ملا تو لید کا ایک ٹکڑا لے کر گئے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھروں کو لے لیا اور یہ کہہ کر لید کا ٹکڑا پھینک دیا کہ "هذا ركس" یہ روایت ہے جس سے لید کی نجاست ثابت ہو رہی ہے اور چوں کہ اس کے معارض کوئی دوسری روایت نہیں ہے جس سے لید کی طہارت ثابت ہو، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ نجاست نجاست غلیظہ ہوگی۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبینؒ کے یہاں جس کپڑے میں لید یا گو برگ لگ جائے اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، جب تک کہ یہ مقدار کثیر فاحش یعنی ربع تک نہ پہنچے، کیوں کہ ان حضرات کے یہاں لید اور گو بر نجاست خفیفہ میں سے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں جو نجاست خفیفہ کا اصول ہے یعنی اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے وہ لید اور گو بر میں موجود ہے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی طہارت کے قائل ہیں، اسی طرح ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السرقین لیس بشئ قلیلہ و کثیرہ لایمنع یعنی گو بر کوئی ناپاک چیز نہیں ہے اور اس کا قلیل و کثیر جواز صلاۃ سے مانع بھی نہیں ہے، جب کہ دیگر ائمہ لید اور گو بر کو نجس مانتے ہیں اور صاحبین کے یہاں یہ اختلاف ہی ان کی نجاست کے خفیفہ ہونے کی دلیل ہے۔ (عناہ ۲۰۶/۱)

بہر حال جب لید اور گو بر نجاست خفیفہ کے ساتھ نجس ہیں تو ایک درہم سے زائد لگنے کی صورت میں بھی نماز جائز ہوگی، کیوں کہ نجاست خفیفہ اسی وقت مانع صلاۃ ہے جب وہ چوتھائی کپڑے کے برابر یا اس سے زائد ہو۔

اس سلسلے میں حضرات صاحبینؒ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ شریعت نے بہت سے مقامات اور بیشتر احکامات میں ضرورت کے پیش نظر تخفیف سے کام لیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لید اور گو بر میں بھی تخفیف کی ضرورت ہے، کیوں کہ عام طور پر چوپائے راستوں میں پاخانہ کر دیتے ہیں اور راستے لید و گو بر سے بھرے پڑے رہتے ہیں اور انسان پابندی کے ساتھ ان راہوں میں چلتے پھرتے ہیں جس کی بنا پر لید و گو بر کا لگنا ناگزیر ہے، اب اگر انھیں نجاست غلیظہ میں داخل کر دیں تو لگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے ضرورت اور عموم بلوئی کے پیش نظر ان کی نجاست بھی نجاست خفیفہ ہوگی، نہ کہ غلیظہ ہوگی۔

بخلاف بول الحمار الخ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح لید اور گو بر میں ضرورت کی وجہ سے آپ نجاست خفیفہ کے قائل ہیں اسی طرح بول حمار میں بھی ضرورت ہے اور عموماً اس سے بھی راستے بھرے رہتے ہیں، لہذا اس کی نجاست کو بھی نجاست خفیفہ قرار دینا چاہیے، حالانکہ آپ لوگوں نے بول حمار کی نجاست کو نجاست غلیظہ قرار دیا ہے؟

صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضرورت اگرچہ اس میں بھی ہے، مگر اس کی ضرورت لید و گو بر کی ضرورت کے بالمقابل ہیج ہے، کیوں کہ پیشاب رقیق اور پتلا ہوتا ہے جسے زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور گزرنے والوں کے کپڑے وغیرہ پر لگنے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتی، اس لیے اس میں ضرورت تو ہے، مگر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی نجاست کو ہم غلیظہ سے خفیفہ میں تبدیل کر دیں، اس کے برخلاف لید اور گو بر کا مسئلہ ہے، تو ان میں ضرورت شدید ہے کیوں کہ زمین ان میں سے کچھ بھی نہیں جذب کرتی۔

قلنا الخ صاحب ہدایہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لید اور گو بر کے متعلق حضرات صاحبینؒ کی ثابت کردہ ضرورت کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی لید اور گو بر کی ضرورت تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہ ضرورت جوتے چپل کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ پیروں میں جوتے چپل پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور راستے کی گندگی انھیں میں لگتی ہے اور جوتے چپل میں ہم بھی اس ضرورت کو مؤثر مان کر تخفیف کے قائل ہیں، چنانچہ اگر ایک مرتبہ جوتے وغیرہ میں نجاست لگ جائے تو رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گا اور اسے دھلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر یاد رہے کہ ضرورت کی مؤنت صرف ایک بار کفایت



کرے گی بار بار نہیں، اس لیے کہ الضرورۃ تتقدر بقدرہا کے تحت ایک ضرورت سے صرف ایک مرتبہ تخفیف ہوگی۔  
اسے دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ لید اور گوبر کی ضرورت جو تے چپل کی طرف منتقل ہوگئی ہے، لہذا اسے بدن اور کپڑے وغیرہ کے لیے ثابت کرنا درست نہیں ہے۔

ولا فرق الخ فرماتے ہیں کہ احناف کے علمائے ثلاثہ کے یہاں ما کول اللحم اور غیر ما کول اللحم ہر طرح کے جانوروں کا گوبر اور ان کی لید ناپاک ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ نجاست کے غلیظہ اور خفیفہ ہونے میں فرق ہے کما مرّ انفاً، لیکن امام زفر رحمۃ اللہ علیہ ما کول اللحم اور غیر ما کول اللحم میں بھی فرق کرتے ہیں، چنانچہ غیر ما کول اللحم جانوروں کے گوبر وغیرہ کے متعلق حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں اور ان کے گوبر اور لید کو نجاست غلیظہ قرار دیتے ہیں جب ما کول اللحم جانوروں کی لید وغیرہ کے سلسلے میں حضرات صاحبین کے ساتھ ہیں اور انھیں نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں۔

وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب وہ عراق کے مشہور شہرے میں گئے اور وہاں یہ مشاہدہ کیا کہ لوگوں کے مکانات اور تمام راستے لید گوبر سے بھرے ہوئے ہیں اور ابتلاء اتنا عام ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ تو آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ لید اور گوبر اگر کثیر فاحش بھی لگ جائیں تو بھی مانع صلاۃ نہیں ہیں۔ مشائخ بخارا نے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیکھا تو انھوں نے بھی بخارا کے کچھڑ کے متعلق اسی طرح کا فتویٰ اور فیصلہ دیا اور کثیر فاحش کی مقدار کو بھی معاف قرار دے دیا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شہرے جانے سے ایک اور حقیقت سامنے آئی وہ یہ کہ پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خف کے سلسلے میں اس بات کے قائل تھے کہ اگر خف میں نجاست لگ جائے تو وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوگی، بل کہ اس کا دھلنا ضروری ہوگا، مگر جب شہرے میں اتنا زبردست ابتلاء دیکھا تو انھوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور حضرات شیخین کے ہم خیال ہو گئے۔

﴿ وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ لَمْ يَفْسِدْهُ حَتَّى يَفْحَشَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَأَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمۃ اللہ علیہ لَا يَمْنَعُ وَإِنْ فَحَشَ ﴾ لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ، مُخَفَّفٌ نَجَاسَتُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ وَلَحْمُهُ مَا كُوِلَ عِنْدَهُمَا، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ فَالْتَّخْفِيفُ لِنِعَارِضِ الْأَنْثَارِ.

**ترجمہ:** اور اگر کپڑے کو گھوڑے کا پیشاب لگ جائے تو اسے خراب نہیں کرے گا، یہاں تک کہ حضرات شیخین کے یہاں وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہونے کے بعد بھی ہی مانع نماز نہیں ہوگا، کیوں کہ ما کول اللحم جانوروں کا پیشاب ان کے یہاں پاک ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی نجاست نجاست خفیفہ ہے، اور صاحبین کے یہاں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جب کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعارض آثار کی وجہ سے اس کی نجاست میں تخفیف ہے۔

## اللِّغَاتُ:

﴿فَحُشٌّ﴾ کھلا، اتنا واضح کہ بھدا معلوم ہو۔

## گھوڑے کے پیشاب کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں اگر کپڑے پر کثیر فاحش سے کم گھوڑے کا پیشاب لگ جائے تو وہ کپڑے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کثیر فاحش یا اس سے زیادہ لگ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بل کہ اس کپڑے میں نماز وغیرہ پڑھنا درست اور جائز ہے۔ امام محمد رضی اللہ عنہ کے یہاں جواز کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے اور ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، لہذا گھوڑے کا پیشاب بھی پاک ہے اور پاک چیز خواہ کتنی بھی لگ جائے وہ مانع صلاۃ نہیں ہو سکتی۔

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے یہاں اگرچہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، مگر چونکہ بول ماکول اللحم میں حضرت ائمہ کا اختلاف ہے اور اختلاف سے نجاست میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے یہاں گھوڑے کے پیشاب کی نجاست نجاست خفیفہ ہوگی، اسی طرح حضرات امام اعظم رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی اس کے پیشاب کی نجاست نجاست خفیفہ ہوگی، کیوں کہ اس میں نصوص متعارض ہیں، چنانچہ واقعہ اہل عرینہ (حدیث عرینین) سے اس کی طہارت ثابت ہے جب کہ استنزهوا من البول الخ سے اس کی نجاست ثابت ہے، اور اختلاف نصوص سے نجاست میں تخفیف ہو جاتی ہے کما هو الأصل عنده، بہر حال جب حضرات شیخین کے یہاں گھوڑے کے پیشاب کی نجاست نجاست خفیفہ ہے تو جب تک وہ کثیر فاحش نہیں ہوگی اس وقت تک جواز صلاۃ سے مانع بھی نہیں ہوگی۔ البتہ جب کثیر فاحش بالفاظ دیگر ربع ثوب تک پہنچ جائے گی تو مانع صلاۃ ہوگی کما هو الحكم في النجاسة الخفیفة۔

﴿وَإِنْ أَصَابَهُ خُرٌّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطَّيْرِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ جَاذَبَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ﴾ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ، فَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْإِخْتِلَافَ فِي النَّجَاسَةِ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْأَصْحَحُ، هُوَ يَقُولُ إِنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ فَلَا يُخَفَّفُ، وَلَهُمَا أَنَّهَا تَذْرِبُ مِنَ الْهُوَاءِ وَالتَّحَامِي عَنْهُ مُتَعَدِّرٌ فَتَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ قِيلَ يُفْسِدُهُ، وَقِيلَ لَا يُفْسِدُهُ لِتَعَدُّرِ صَوْنِ الْأَوَانِي عَنْهُ.

**ترجمہ:** اور اگر کپڑے کو غیر ماکول اللحم پرندے کی بیٹ ایک درہم سے زیادہ لگ گئی تو حضرات شیخین کے یہاں اس کپڑے میں نماز جائز ہے، امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، پھر کہا گیا کہ یہ اختلاف نجاست کے سلسلے میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مقدار کے سلسلے میں ہے، یہی زیادہ صحیح ہے۔

امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تخفیف ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے اور مخالفت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تخفیف بھی نہیں ہوگی۔

حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پرندے ہوا میں سے بیٹ کرتے ہیں اور اس سے بچنا دشوار ہے، لہذا ضرورت ثابت ہے۔ اور اگر یہ بیٹ برتن میں گر گئی تو ایک قول یہ ہے کہ برتن کو فاسد کر دے گی اور دوسرا قول ہے کہ فاسد نہیں کرے گی، کیوں کہ برتنوں کا اس سے بچنا معذور ہے۔

## اللغات:

﴿تَذْرِقُ﴾ باب ضرب؛ بیٹ کرنا۔ ﴿تتجامی﴾ اسم مصدر، باب تفاعل؛ بچنا، پرہیز کرنا۔ ﴿صَوْنٌ﴾ حفاظت، بچاؤ۔ ﴿أَوَانِي﴾ اسم جمع، واحد إناء؛ برتن۔

## غیر ماکول اللحم پرندے کے فضلے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرندوں کی بیٹ کپڑے میں لگ جائے اور ایک درہم سے زائد ہو تو بھی حضرات شیخین کے یہاں اس کپڑے میں نماز پڑھنا درست اور جائز ہے، لیکن امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک درہم سے زائد ہو تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

امام محمد اور حضرات شیخین کا جو اختلاف ہے اس سلسلے میں امام کرخی کی رائے یہ ہے کہ یہ نجاست اور طہارت سے متعلق ہے، یعنی امام محمد رضی اللہ عنہ کے یہاں پرندوں کی بیٹ ناپاک ہے اور حضرات شیخین کے یہاں پاک ہے، مگر یہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح قول وہ ہے جو فقیر ابو جعفر سے منقول ہے کہ علمائے احناف پرندوں کی بیٹ کے نجس ہونے پر متفق ہیں اور یہ اختلاف مقدار کے سلسلے میں ہے جس کے متعلق امام محمد رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ نجاست میں برناتے ضرورت تخفیف ہوتی ہے اور پرندے ہوا میں رہتے ہیں جن سے انسانوں کی مخالفت نہیں ہوتی، اس لیے عدم ضرورت کی وجہ سے یہاں تخفیف نہیں ہوگی اور پرندوں کی بیٹ نجاست مغلظہ کے قبیل سے ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ نجاست مغلظہ اگر ایک درہم سے زائد لگ جائے تو معاف نہیں ہے، اسی لیے صورت مسئلہ میں مذکورہ کپڑے میں نماز نہیں ہوگی، کیوں کہ اس میں ایک درہم سے زائد بیٹ لگی ہے۔

حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پرندے ہوا میں اڑتے اڑتے ہی بیٹ کر دیتے ہیں جس سے بچنا ناممکن اور معذور ہے، لہذا عدم امکان تحرز کی وجہ سے یہاں بھی ضرورت ثابت اور متحقق ہے اور ضرورت تخفیف میں مؤثر ہوتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں بھی تخفیف ہوگی اور پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوگی اور نجاست خفیفہ کے متعلق آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب تک وہ کثیر فاش نہ ہو لایمنع الصلاة۔

ولو وقع في الإناء الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرندوں کی بیٹ برتن میں گر جائے تو اس سلسلے میں امام ابو بکر اعمش کا قول یہ ہے کہ وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، کیوں کہ برتنوں کو اس سے بچنا ناممکن ہے، لیکن امام کرخی کی رائے یہ ہے کہ برتن ناپاک نہیں ہوگا کیوں کہ جس طرح پرندوں کی بیٹ سے خود بچنا ناممکن ہے اسی طرح برتنوں کا بچنا اور بچانا بھی معذور ہے، اور انسانوں کی

طرح برتنوں کے حق میں بھی ضرورت ثابت ہے فلہذا یثبت التخفیف فی حق الإناء ایضاً۔

وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ مِنْ لُعَابِ الْبُغْلِ أَوْ الْحِمَارِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ أَجَزَاتِ الصَّلَاةِ فِيهِ ﴿۱﴾ أَمَّا دَمُ السَّمَكِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيقِ فَلَا يَكُونُ نَجَسًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اعْتَبَرَ فِيهِ الْكَثِيرُ الْفَاحِشَ فَاعْتَبَرَهُ نَجَسًا، وَأَمَّا لُعَابُ الْبُغْلِ وَالْحِمَارِ فَلِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ، فَإِنْ انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلُ رُوْسِ الْإِبْرِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ .

**ترجمہ:** اور اگر کپڑے کو مچھلی کا خون لگ گیا یا خچر یا گدھے کا لعاب ایک درہم سے زائد لگ گیا تو اس میں نماز جائز ہے، رہا مچھلی کا خون تو تحقیق کے مطابق وہ خون ہی نہیں ہے، اس لیے نجس بھی نہیں ہوگا۔ اور رہا خچر اور گدھے کا لعاب تو وہ مشکوک ہے، لہذا اس کی وجہ سے پاک چیز ناپاک نہیں ہوگی۔

پھر اگر کسی شخص پر سوئی کے سرے کے برابر پیشاب کی پھینکیں پڑیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیوں کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔

## اللُّغَاتُ:

﴿لُعَابٌ﴾ تھوک۔ ﴿رُوْسُ الْإِبْرِ﴾ سوئی کا سرا۔

## توضیح:

عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے میں مچھلی کا خون لگ جائے یا گدھے اور خچر کا لعاب لگ جائے اور ایک درہم کی مقدار سے زائد ہو تو بھی اس کپڑے میں بالاتفاق نماز پڑھنا جائز ہے، کیوں کہ مچھلی کا خون درحقیقت خون ہی نہیں ہے اور جب وہ خون نہیں ہے تو ناپاک نہیں ہوگا اور جب وہ ناپاک نہیں ہوگا، تو خواہ کتنا بھی لگے مانع نماز بھی نہیں ہوگا۔

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ مچھلی کے خون کو خون نہ کہنے کی دو وجہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے اصلی خون دھوپ میں سیاہ ہو جاتا ہے جب کہ مچھلی کا خون دھوپ میں سفید ہو جاتا ہے (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے خون والے جانور ہیں ان کو ذبح کیے بغیر کھانا حلال نہیں ہے، جب کہ مچھلی کو بدون ذبح بھی کھانا حلال ہے۔ واللہ اعلم (عنایہ ۲۰۹)

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ انھوں نے مچھلی کے خون کو نجاست خفیفہ میں سے شمار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کثیر فاحش ہو تب تو مانع صلاۃ ہوگا، والا لا۔

گدھے اور خچر کے لعاب سے کپڑے کے ناپاک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لعاب مشکوک ہے اور یقینی طور پر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ طاہر ہے یا نجس ہے، جب کہ کپڑے کی طہارت یقینی ہے، لہذا شک کی وجہ سے یقینی طور پر طاہر معلوم شدہ چیز کو ناپاک نہیں قرار دیا جاسکتا۔ لأن الیقین لا یزول بالشک۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن پر یا کپڑے پر سوئی کے سرے کے برابر پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور انھیں دھوئے بغیر نماز پڑھنا درست ہے، کیوں کہ یہ اس قدر معمولی اور باریک ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی پھر اس طرح چپکے سے لگ جاتی ہیں کہ احساس تک نہیں ہوتا، لہذا ان سے بچنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے یہ معاف ہیں۔

﴿وَالنَّجَاسَةُ صَرْبَانٍ مَرْتَبَةٍ وَغَيْرُ مَرْتَبَةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْتَبًا فَطَهَارَتْهَا بِزَوَالِ عَيْنِهَا﴾ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ حَلَّتِ الْمَحَلَّ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَتَزُولُ بِزَوَالِهِ إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتَهُ، لِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ، وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرُطُ الْغُسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَإِنْ زَالَ بِالْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَفِيهِ كَلَامٌ، ﴿وَمَا لَيْسَ بِمَرْتَبِي فَطَهَارَتُهُ أَنْ يُغْسَلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَائِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهَّرَ﴾ لِأَنَّ التَّكَرَّرَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِخْرَاجِ وَلَا يُقْطَعُ بِزَوَالِهِ فَاعْتَبِرْ غَالِبَ الظَّنِّ كَمَا فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلَاثِ، لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ فَأَقِيمِ السَّبَبَ الظَّاهِرَ مَقَامَهُ تَيَسِّرًا، وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِطِ مِنْ مَنَامِهِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَخْرَجُ.

**ترجمہ:** اور نجاست کی دو قسمیں ہیں مرتبہ، غیر مرتبہ، لہذا ان میں سے جو مرتبہ نجاست ہو اس کی طہارت اس کے عین کے زائل ہونے سے ہوگی، کیوں کہ نجاست اپنی ذات کے اعتبار سے محل میں سرایت کرگئی، لہذا زوال عین ہی سے وہ زائل ہوگی، الا کہ یہ نجاست کا کوئی ایسا اثر باقی رہ جائے جس کو زائل کرنا دشوار ہو، کیوں کہ حرج دور کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کلام اس بات کا غماز ہے کہ زوال عین کے بعد دھونا شرط نہیں ہے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ دھونے سے عین زائل ہو جائے اور اس میں کلام ہے۔

اور وہ نجاست جو غیر مرتبہ ہو اس کی طہارت یہ ہے کہ اسے دھوتا رہے یہاں تک کہ دھونے والے کا غالب گمان یہ ہو جائے کہ وہ پاک ہوگئی، اس لیے کہ نجاست نکالنے کے لیے تکرار غسل ضروری ہے اور زوال نجاست کا یقین نہیں ہوگا، لہذا ظن غالب کا اعتبار کر لیا گیا جیسا کہ قبلہ کے مسئلے میں (ظن غالب کا اعتبار کیا گیا ہو) اور فقہائے کرام نے تین مرتبہ کے ساتھ اندازہ لگایا ہے، اس لیے کہ ظن غالب اس مقدار سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا آسانی کے پیش نظر سبب ظاہر کو ظن غالب کے قائم مقام کر دیا گیا اور مستیقظ من منامہ کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر ظاہر الروایہ کے مطابق ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے، کیوں کہ نچوڑنا ہی نجاست کو خارج کرتا ہے۔

### نجاست کی ایک اور تقسیم کی تفصیل:

اس عبارت میں مرتبہ اور غیر مرتبہ ہونے کے اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، نجاست مرتبہ وہ نجاست ہے

جو جرم دار ہو اور دیکھنے میں نظر آتی ہو، جیسے خون اور پاخانہ وغیرہ، اور نجاست غیر مرئی وہ ہے جو جسم دار نہ ہو اور دکھائی بھی نہ دے جیسے پیشاب وغیرہ۔

نجاست مرئی کے دھونے اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت تک دھویا جائے جب تک کہ اس کا عین زائل نہ ہو جائے، خواہ یہ عین ایک ہی مرتبہ میں زائل ہو جائے اور خواہ دو یا تین یا اس سے زائد بار میں زائل ہو، اصل یہی ہے کہ عین کا زائل ہونا ضروری ہے، کیوں کہ نجاست مرئی اپنے عین اور اپنی ذات کے ساتھ مل یعنی جس چیز میں لگتی ہے اس میں سرایت کر جاتی ہے، لہذا جب تک عین زائل نہیں ہوگا، محل پاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر زوال عین کے بعد نجاست کا اثر باقی رہ جائے اور اسے دھونا دشوار ہو تو اس صورت میں بقائے اثر سے کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ شریعت نے امت سے حرج کو دور کر دیا ہے۔

صاحب بنیہ نے لکھا ہے کہ بقائے اثر سے طہارت میں کوئی فرق نہ پڑنے پر حضرت خولہ بنت قنادہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے جس میں آپ ﷺ نے انھیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے حیض لگے ہوئے کپڑے کو پانی سے دھولیا کرو ”ولا یضُرکِ اثرہ“ اور دھونے کے بعد بھی اگر خون وغیرہ کا اثر رہ جائے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ (بنیہ ۱/۵۱۷)

وہذا یشیر الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوریؒ کے بیان کردہ مسئلے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ دھونے سے نجاست کا عین زائل ہو جائے تو اسے مزید دھونا شرط نہیں ہے اور اگر ایک مرتبہ سے زائل نہ ہو تو زوال عین تک دھونا ضروری ہے، خواہ دو مرتبہ میں عین زائل ہو یا تین یا چار مرتبہ میں اور یہی صحیح ہے، اگرچہ اس سلسلے میں بعض حضرات نے زوال عین کے بعد بھی مزید دو مرتبہ دھونے کی شرط بھی لگائی ہے۔

وفیہ کلام سے یہی بتایا گیا ہے کہ مشائخ میں سے ابو جعفرؒ ایک مرتبہ دھونے سے زوال عین کے بعد بھی مزید دو مرتبہ دھونے کی شرط لگاتے ہیں، امام طحاویؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔

وما لیس بمرئی الخ مذکورہ بالا تفصیلات تو نجاست مرئی کی طہارت سے متعلق تھیں یہاں سے نجاست غیر مرئی کی طہارت اور اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نجاست غیر مرئی کو اس وقت تک دھویا جائے جب تک کہ دھونے والے کے ظن غالب پر اس کی طہارت ثابت نہ ہو جائے، کیوں کہ نجاست کو دھلنے اور کپڑے وغیرہ میں سے نکالنے کے لیے تکرار غسل ضروری ہے، مگر چوں کہ غیر مرئی ہونے کی وجہ سے اس کی طہارت کا قطعی اور یقینی علم نہیں ہو سکتا، اسی لیے ظن غالب کا اعتبار کیا گیا ہے، کیوں کہ ظن غالب اس طرح کے مواقع میں یقین کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ اگر کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو وہ تہمیری کر کے اپنے ظن غالب پر عمل کرے اور جس طرف ظن غالب ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔

پھر چوں کہ تین مرتبہ دھلنے سے ظن غالب کی مقدار حاصل ہو جاتی ہے، اسی لیے حضرات فقہاء نے آسانی کے پیش نظر یہ حکم دے دیا ہے کہ نجاست غیر مرئی کو تین مرتبہ دھویا جائے اور یہ تین کا عدد ہی ظن غالب کے قائم مقام ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سوکر بیدار ہونے والے شخص کے متعلق وارد ہے کہ استیظأ أحدکم من منامہ فلا یغمسن یدہ فی الإناء حتی یغسلہا ثلاثا قبل أن یدخلہا الإناء فإنه لا یدری أين باتت یدہ یعنی جو شخص سو کر اُٹھے وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے

پہلے اسے تین مرتبہ دھو لے، کیوں کہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال اس طرح ہے کہ جب نجاست کے وہم کی وجہ سے تین مرتبہ دھونے سے طہارت کا یقین ہو جاتا ہے تو حقیقی نجاست میں تو بدرجہ اولیٰ یہی حکم ہوگا اور تین مرتبہ دھونے سے طہارت حاصل ہو ہی جائے گی۔

ثم لا بد الخ فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ کے مطابق ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ نچوڑنے ہی سے اچھی طرح نجاست نکل کر باہر ہوتی ہے اور طہارت کے ساتھ ساتھ اخراج نجاست بھی مقصود ہے، لہذا ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔



## فَصْلٌ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ

### یہ فصل استنجاء کے بیان کے سلسلے میں ہے

چوں کہ سبیلین پر لگی ہوئی نجاست دور کرنے کا نام استنجاء ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اس فصل کو باب الانجاس و تطہیرہا کے تحت بیان کیا ہے۔

استنجاء نجو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں پیٹ سے نکلنے والی چیز، اور بلند جگہ کو بھی نجو کہا جاتا ہے کیوں کہ انسان جب صحراء میں استنجاء کرنے جاتا ہے تو بلند جگہ سے پردہ حاصل کرتا ہے، اور اصطلاح فقہاء میں إزالة النجاسة العينية عن السبیلین یعنی سبیلین سے نجاست حقیقی دور کرنے کا نام استنجاء ہے۔

﴿الْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ، لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاطْبَ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُ يَمْسَحُهُ حَتَّى يَنْقِيَهُ﴾ لِاَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْاِنْقَاءُ فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ، وَكَيْسَ فِيهِ عَدَدُ مَسْنُونٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا بَدَّ مِنَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِهِ ② عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسْتَجِ مِنْكُمْ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ، وَلَنَا قَوْلُهُ ③ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَا رَوَاهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ، فَاِنَّهُ لَوْ اسْتَجَلَى بِحَجَرٍ لَهٗ ثَلَاثَةٌ اَحْرَفٍ جَارَ بِالْاِجْمَاعِ، وَعَسَلُهُ بِالْمَاءِ اَفْضَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا" وَاُنزِلَتْ فِي اَقْوَامٍ كَانُوا يَتَبَعُونَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، ثُمَّ هُوَ اَدَبٌ، وَقِيلَ سُنَّةٌ فِي زَمَانِنَا، وَيَسْتَعْمَلُ الْمَاءَ اِلَى اَنْ يَقَعَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ اِنَّهُ قَدْ طَهَرَ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ اِلَّا اِذَا كَانَ مُوسِسًا فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ فِي حَقِّهِ وَقِيلَ بِالسَّبْعِ.

**ترجمہ:** استنجاء کرنا سنت ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ نے اس پر بیٹگی فرمائی ہے اور استنجاء میں پتھر اور اس کے قائم مقام دوسری چیزیں بھی جائز ہیں، ان سے پونچھے یہاں تک کہ صاف کر دے، اس لیے کہ انقاء ہی مقصود ہے، لہذا مقصود ہی کا اعتبار ہوگا۔ اور استنجاء بالبحر میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین پتھر کا ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے (ہر شخص) تین پتھر سے استنجاء کرے۔



ہماری دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص ڈھیلے سے استنجاء کرے وہ طاق عدد ڈھیلے استعمال کرے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث متروک الظاہر ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایسے پتھر سے استنجاء کرے جس کے تین کنارے ہوں تو بالاتفاق جائز ہے۔

اور موضع استنجاء کو پانی سے دھونا افضل ہے، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب اچھی طرح پانی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ پھر ایسا کرنا ادب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سنت ہے، اور استنجاء کرنے والا پانی استعمال کرے، یہاں تک کہ اس کے غالب گمان میں یہ بیٹھ جائے کہ پاک ہو گیا۔ اور باریوں سے اندازہ نہیں کیا جائے گا مگر جب کوئی شخص وسوسے میں مبتلا ہو تو اس کے حق میں تین مرتبہ سے اندازہ کیا جائے گا اور ایک قول ہے کہ سات مرتبہ سے اندازہ کیا جائے گا۔

## اللغات:

﴿اِسْتَجَمَ﴾ باب استفعال: استنجا کے لیے ڈھیلے تلاش کرنا۔ ﴿يَبْعُونَ﴾ پیچھے لاتے تھے، بعد میں کرتے تھے۔ ﴿مَوْسُوْعًا﴾ اندیشہ ڈالنے والا۔

## تخریج:

① اخرجہ بخاری فی کتاب الوضوء باب حمل العنزة مع الماء فی الاستنجاء حدیث رقم ۱۵۲.

② اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة حدیث رقم ۸.

③ اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطهارة باب الاستنار فی الخلاء حدیث رقم ۳۵.

## استنجاء کی سنیت اور استنجاء میں پتھروں کے عدد کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں استنجاء کرنا سنت موكکہ ہے اور اس سنت کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس عمل پر مواظبت اور ہیشگی فرمائی ہے، چنانچہ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إراوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء یعنی جب آپ ﷺ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میرا ہم عمر ایک بچہ پانی کا برتن اور عنزہ اٹھاتے تھے اور آپ ﷺ پانی سے استنجاء کرتے تھے۔

اس سلسلے میں یہ حدیث بھی دلیل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج من غائط قط الامس ماء یعنی میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ پاخانہ سے نکلے ہوں اور پانی نہ چھوئے ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ہے کہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى الخ یعنی آپ ﷺ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو میں ایک طشت میں پانی لے کر حاضر ہو جاتا تھا، آپ ﷺ اس سے استنجاء کرتے تھے، یہ تمام روایتیں اس امر پر شاہد عدل ہیں کہ آپ ﷺ نے استنجاء کرنے پر مداومت فرمائی ہے۔

پھر جس طرح پانی سے استنجاء کرنا جائز ہے اسی طرح پتھر اور اس کے قائم مقام دیگر چیزوں مثلاً ڈھیلا، لکڑی اور روئی وغیرہ

سے بھی استنجاء کرنا جائز ہے، پتھر وغیرہ سے استنجاء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موضع نجاست کو اس سے پونچھے اور خوب اچھی طرح پونچھ کر پاک صاف کر دے، کیوں کہ استنجاء کے باب میں انقاء ہی اصل اور مقصود ہے، لہذا ہر وہ چیز جس سے طہارت کے ساتھ ساتھ انقاء حاصل ہو جائے اس سے استنجاء کرنے کا جواز ہوگا۔

ولیس فیہ عدد مسنون الخ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے یہاں استنجاء بالججر میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے، بل کہ جس مقدار سے انقاء حاصل ہو جائے اتنا ہی استعمال کرے، خواہ ایک پتھر سے انقاء حاصل ہو، یا دو سے، یا اس سے زائد سے، اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں استنجاء بالججر کی صورت میں تین پتھروں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا ایک جزء کتاب میں مذکور ہے، پوری حدیث فتح القدر اور بنا یہ وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما أنا لکم مثل الوا ذہب أحدکم الی الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یتدبرھا بغائط ولا بول ویستنح بثلاثة أحجار“ یعنی میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں جب تم میں سے کوئی شخص بول و براز کے لیے جائے، تو نہ تو استقبال قبلہ کرے اور نہ ہی استدبار قبلہ کرے اور تین پتھروں سے استنجاء کرے، اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجہ استدلال بایں طور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ تین پتھروں سے استنجاء کرنے کا حکم دیا ہے اور امر واجب کے لیے آتا ہے، لہذا تین پتھروں سے استنجاء کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔

ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخیر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے من فعل فحسن ومن لا فلا حرج یعنی جس نے طاق عدد استعمال کیا اس نے بہت اچھا کیا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اگر تین کا عدد واجب اور ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے التزام کو ضروری قرار دیتے اور نہ کرنے والے کے متعلق فلا حرج کے بجائے فقد أساء وظلم کا جملہ ارشاد فرماتے، معلوم ہوا کہ پتھروں میں کوئی بھی تعداد ضروری نہیں ہے۔

اور اس کی تائید حضرت ابن مسعود کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ثلاثة أحجار لانے کا حکم دیا تھا اور وہ دو پتھر ہی پاسکے تھے، چنانچہ جب وہ دو پتھر اور لید کا ٹکڑا اٹھا کر لے گئے تو آپ نے لید کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور یوں فرمایا ہذا رجس أو رکس اگر ثلاثة أحجار ضروری اور لازمی ہوتے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود سے دوبارہ تلاش کر کے لانے کا حکم دیتے، حالانکہ آپ نے دو ہی پتھر سے حاجت پوری فرمائی تھی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ ثلاثة کی تعداد ضروری نہیں ہے۔

پھر ہماری پیش کردہ حدیث میں ایتار کا لفظ آیا ہے (فلیوتر میں) اور ایتار کے معنی ہیں طاق عدد، اور طاق عدد کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے نیز تین، پانچ، سات اور نو پر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس سے صرف ثلاثة کو خاص کرنا اور اسی کو ایتار کا مصداق قرار دینا کیسے صحیح ہے۔

وما رواہ الخ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا جا رہا ہے، چنانچہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کی بیان کردہ حدیث کا ظاہری مفہوم متروک ہے، کیوں کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے پتھر سے استنجاء کرے جس

کے تین کونے ہوں تو بالاتفاق اس ایک ہی پتھر سے استنجاء کرنا صحیح ہے، اور اس کے علاوہ مزید پتھروں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ تین پتھر ضروری نہیں ہیں۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ جب دو حدیثیں ایک ہی مسئلے سے متعلق ہوں اور ان میں کچھ تعارض ہو تو سب سے پہلے دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہاں بھی ہماری اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں باہم متعارض ہیں، لیکن ان کی حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے، بایں طور کہ ان کی پیش کردہ روایت سے ثلاثہ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے اور ہماری بیان کردہ روایت سے اس کا عدم وجوب، تو دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے جو وجوب ثابت ہو رہا ہے اسے استنجاب پر محمول کر لیا جائے اور یہ علت بیان کی جائے کہ امر جس طرح وجوب کے لیے آتا ہے، اسی طرح استنجاب کے لیے بھی آتا ہے۔

وغسلہ بالماء الخ فرماتے ہیں کہ موضع استنجاء کو ڈھیلوں سے پونچھنے اور صاف کرنے کے بعد پانی سے دھولینا افضل اور بہتر ہے، کیوں کہ اہل قباہ ایسا ہی کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فعل اس قدر پسند آیا کہ ان کی تعریف میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔

ثم هو أدب الخ فرماتے ہیں کہ استنجاء بالأحجار کے بعد پانی سے دھولینا ادب اور مستحب ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہیں بھی دھوتے تھے، اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسا کرنا سنت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ بیگنیوں کی طرح موٹا اور گاڑھا استنجاء کرتے تھے، لہذا پونچھنے سے وہ پاک صاف ہو جاتا تھا، مگر اس زمانے میں چونکہ عموماً لوگ پتلا اور رقیق پاخانہ وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے تحصیل انقاء کے پیش نظر اس کا دھولینا ہی بہتر ہے، ہکذا یروی عن الحسن البصری اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے ان من کان قبلکم کانوا یبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء اس کا مفہوم وہی ہے جو حضرت حسن بصری کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ ثَلَطَ باب (ض) سے ہے بمعنی پتلا پاخانہ کرنا۔ (فتح القدیر ۱/۲۱۶)

ویستعمل الماء الخ فرماتے ہیں کہ استنجاء کرنے والے کو چاہیے کہ موضع استنجاء کو اس وقت تک دھوتا رہے جب تک اس کے غالب گمان میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ وہ جگہ پاک صاف ہوگئی، اور اس سلسلے میں تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص شک کا مریض ہو اور وساوس میں مبتلا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ دھوئے، تاکہ انقاء بھی ہو جائے اور اس کا شک بھی دور ہو جائے۔

وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يُجْزِ إِلَّا الْمَاءُ ﴿۱﴾ وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ إِلَّا الْمَانِعُ، وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلَافَ الرَّوَايَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعَضْوِ بِغَيْرِ الْمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَهَذَا، لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ اِكْتَفَى بِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ، ثُمَّ يُعْتَبَرُ بِالْمِقْدَارِ الْمَانِعِ وَرَاءَ مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَأَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ لِسُقُوطِ اِعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمۃ اللہ علیہ مَعَ مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ

المواضع.

**ترجمہ:** اور اگر نجاست اپنے مخرج سے بڑھ جائے تو پانی کے علاوہ کچھ بھی جائز نہیں ہے، اور بعض نسخوں میں إلا المانع ہے اور یہ پانی کے علاوہ سے عضو کی تطہیر میں اختلاف رواستین کو ثابت کرتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ پونچھنا نجاست کو زائل کرنے والا نہیں ہے، لیکن موضع استنجاء میں اس پر اکتفاء کر لیا گیا ہے، لہذا وہ متعدی نہیں ہوگا۔

پھر حضرات شیخین رحمہم اللہ کے یہاں مانع نماز کی مقدار موضع استنجاء کے علاوہ ہے، اس لیے کہ اس جگہ کا اعتبار ساقط ہے۔ اور امام محمد رحمہم اللہ کے یہاں موضع استنجاء کے ساتھ مقدار مانع کا اعتبار ہے، تمام مواضع پر قیاس کرتے ہوئے۔

**اس صورت کا بیان جس میں پانی کا استعمال ضروری ہے:**

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجاست اپنے مخرج یعنی موضع استنجاء سے تجاوز کر گئی تو اس صورت میں وہاں پونچھنے سے کام نہیں چلے گا، بل کہ پانی سے اس کا دھونا ضروری ہوگا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعض نسخوں میں إلا الماء کی جگہ إلا المانع کا لفظ مذکور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مخرج سے نجاست کے متجاوز ہونے کی صورت میں اسے پانی اور ہر پاک بننے والی چیز سے دھویا جاسکتا ہے۔

اور بعض نسخوں کی یہ صراحت غیر ماء سے عضو کو پاک کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف کو ثابت کر رہی ہے، کیوں کہ اگر إلا الماء ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف پانی سے ہی نجاست کو پاک کیا جاسکتا ہے اور اگر إلا المانع ہے تو اس صورت میں پانی کے ساتھ ساتھ دیگر پاک بننے والی اشیاء سے بھی تطہیر کا جواز ثابت ہوگا۔

بہر حال اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جب نجاست مخرج سے بڑھ گئی تو اب وہ پونچھنے سے صاف نہیں ہوگی، بل کہ پونچھنے سے صاف ہونے کے بجائے پورے مقعد میں پھیل جائے گی، اس لیے نجاست کو دور کرنے اور مقعد وغیرہ کو تلویت اور آلودگی سے بچانے کے لیے نجاست کا دھونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اگر نجاست اپنے مخرج سے متجاوز نہ ہو تو اس صورت میں پونچھنے سے اس کی تطہیر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بر بنائے ضرورت خلاف قیاس ثابت ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مائتہ علی خلاف القیاس لایقاس علیہ غیرہ یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس پر دوسری چیزوں کو نہیں قیاس کیا جاسکتا، اس لیے صورت مسئلہ میں موضع استنجاء کی طہارت مسح سے خلاف قیاس ثابت ہے، لہذا اس پر موضع استنجاء سے متجاوز ہونے والی نجاست کی طہارت کو نہیں قیاس کیا جائے گا، بل کہ اس کے لیے غسل اور دھونا ضروری ہوگا۔

ثم یعتبر الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں نجاست کی جو مقدار مانع نماز ہے وہ موضع نجاست کے علاوہ کی نجاست ہے، یعنی اگر موضع نجاست کے علاوہ ایک درہم سے زائد نجاست لگی ہو تب وہ مانع نماز ہے ورنہ نہیں ہے، اور اس میں موضع نجاست کی مقدار داخل نہیں ہے، اس لیے کہ بر بنائے ضرورت اس کا اعتبار ساقط کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت امام محمد رحمہم اللہ کے یہاں موضع نجاست کو لے کر ایک درہم کا اعتبار کیا گیا ہے اور اسے دیگر مواضع پر قیاس کیا گیا ہے، یعنی جس طرح اور مقامات میں موضع نجاست کو لے کر ایک درہم کی مقدار معاف ہے اور اس سے زائد معاف نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی موضع نجاست کو لے کر ایک درہم کی مقدار معاف ہے اور اس سے زائد معاف نہیں ہے۔

﴿وَلَا يَسْتَنْجِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْتٍ﴾ لِأَنَّ النَّبِيَّ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَكُو فَعَلَ يُجْزِيهِ لِحُصُولِ الْمُقْصُودِ، وَمَعْنَى النَّهْيِ فِي الرُّوْتِ النَّجَاسَةُ، وَفِي الْعَظْمِ كَوْنُهُ زَادَ الْجِنِّ، ﴿وَلَا بِطَعَامٍ﴾ لِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ وَإِسْرَافٌ، ﴿وَلَا بِبَيْمِينِهِ﴾ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ② نَهَى عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ .

**ترجمہ:** اور (کوئی بھی شخص) ہڈی اور گوبر سے استنجاء نہ کرے، اس لیے کہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کسی نے کر لیا تو کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا، اور گوبر میں نمی کی علت نجاست ہے اور ہڈی میں اس کا جنات کی خوراک ہونا ہے، اور کھانے سے استنجاء نہ کرے، کیوں کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے اور اسراف ہے۔ اور نہ ہی کوئی شخص اپنے داہنے ہاتھ سے استنجاء کرے، اس لیے کہ آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔

## اللغات:

﴿زَادَ الْجِنِّ﴾ جنون کا توشہ، سامان سفر۔ ﴿إِضَاعَةٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ ضائع کرنا، ہلاک کرنا۔ ﴿إِسْرَافٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ فضول خرچی کرنا۔

## تخریج:

① اخرجہ بخاری فی کتاب الوضوء باب الاستنجاء بالاحجار حدیث رقم ۱۵۵.

و ابوداؤد فی کتاب الطہارة باب کراہیہ استقبال القبلة حدیث رقم ۷.

② اخرجہ بخاری فی کتاب الوضوء باب النهی عن الاستنجاء بالیمن حدیث ۱۵۳.

## ان چیزوں کا بیان جن کو استنجاء کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں استنجاء کے ضروری آداب و احکام کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، جن میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہڈی اور گوبر سے استنجاء نہ کرے، اس لیے کہ آپ ﷺ نے ان چیزوں سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے أن النبی ﷺ قال له أبغنی أحجاراً أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، قلت ما بال العظام والروثة، فقال من طعام الجن (فتح القدير ۲/۱۷۷) یعنی آپ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تین پتھر لے آؤ تا کہ میں ان سے طہارت حاصل کروں اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ دیکھو ہڈی اور گوبر نہ لانا، کیوں کہ وہ جنات کی خوراک ہیں، اس حدیث میں صاف طور پر یہ وضاحت ہے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجاء کرنا درست اور جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ منشأ شریعت اور مزاج نبوت کے خلاف ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص ان چیزوں سے استنجاء کرتا ہے تو بہر حال اس کا استنجاء درست اور جائز ہے، کیوں کہ استنجاء کا مقصود انقاء ہے اور ان چیزوں سے بھی تھوڑا بہت انقاء حاصل ہو جاتا ہے۔

و معنی النهی الخ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو ہڈی اور گوبر سے استنجاء کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اس ممانعت کی

علت گوبر میں نجاست ہے اور ہڈی میں اس کا طعام الجن ہوتا ہے۔

ولا طعام الخ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کھانے کی چیزوں سے بھی استنجاء نہ کرے، کیوں کہ اس میں شئی ماکول کو ضائع کرنا، نعمت کی بے قدری کرنا اور اسراف کرنا پایا جاتا ہے، جن میں سے ایک چیز بھی شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، مسرفین کے بارے میں خود قرآن کریم کا اعلان یہ ہے ان الله لا يحب المسرفين، اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جنات کی خوراک ہونے کی وجہ سے ہڈی سے استنجاء کرنے سے منع فرما دیا ہے تو انسانوں کی غذاء اور خوراک کے متعلق آپ کی کیا رائے ہوگی؟۔

ولا یسننجی بالیمین داہنے ہاتھ سے بھی استنجاء کرنا خلاف ادب ہے، اور حدیث شریف میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے، چنانچہ صحیحین میں حضرت قتادہ کی روایت ہے أن النبی ﷺ قال إذا بال أحدکم فلا يأخذن ذکرہ بيمينه ولا یسننجی بيمينه ولا یتنفس فی الإناء یعنی جب تم سے کوئی شخص استنجاء کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے ذکر نہ پکڑے، نہ تو دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے اور نہ ہی (پانی پیتے وقت) برتن میں سانس لے۔ (فتح القدیر ۱/۲۱۷)



# کِتَابُ الصَّلَاةِ

یہ کتاب احکام صلاۃ کے بیان میں ہے

کتاب الطہارت کے شروع میں ہم یہ وضاحت کر آئے ہیں کہ نماز تمام عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لیے نماز کو جملہ عبادات پر تقدم بیانی حاصل ہے، مگر چونکہ وضو اور طہارت نماز کی شرائط میں سے ہیں، اس لیے ان کے احکام کو نماز کے بیان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اب یہاں سے نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے۔

## صلاۃ کے لغوی معنی ہیں:

دُعا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے وصل علیہم، ان صلاتک سکن لہم یعنی اے نبی! آپ ان لوگوں کے لیے دعا فرمادیجیے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب سکینت ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے ایک موقع پر کھانا تناول فرمانے کے بعد یا اظفار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی تھی اکل طعامکم الأبرار وصلت علیکم الملائکۃ الخ یعنی نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعا کی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔

## صلاۃ کے اصطلاحی معنی:

عبارة عن أركان مخصوصة وأذکار معلومة بشرائط محصورة بصفات معينة یعنی متعینہ صفات پر محدود شرائط کی رعایت کے ساتھ معلوم و متعین اذکار اور مخصوص ارکان کے بجالانے کا نام نماز ہے۔

## وجوب نماز کا سبب:

نماز کے اوقات ہیں۔ جب کہ ادائے نماز کا سبب خدائے پاک کا حکم ہے۔

## ارکان نماز:

قیام، قراءت، رکوع، سجدے اور تشهد پڑھنے کی مقدار تعدد اخیرہ وغیرہ کرنا ہے۔

## نماز کا حکم:

و حکمها سقوط الواجب عنه أي الأداء في الدنيا ونيل الثواب الموعود في الآخرة۔ یعنی نماز پڑھنے والے کے ذمے سے دنیا میں واجب کا سقوط اور آخرت میں وعدہ کیے گئے ثواب کا حصول نماز کا حکم ہے۔

## پھر نماز کی فرضیت:

کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع تینوں سے ثابت ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے أقيموا الصلاة اور دوسری جگہ ارشاد عالی ہے حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی اور اس کے علاوہ متعدد مواقع پر نماز کی فرضیت و اہمیت کو آشکارا کیا گیا ہے، حدیث پاک میں بھی نماز کے فرض ہونے اور اسے پڑھنے کی سختی سے تاکید و تلقین کی گئی ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے إن الله تعالى فرض علی كل مسلم و مسلمة في كل يوم و ليلة خمس صلوات، اہمیت نماز کے متعلق آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے الصلاة عماد الدين فمن أقمها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين۔

اور اجماع سے نماز کا ثبوت بایں معنی ہے کہ دور نبوی سے لے کر آج تک پوری امت نماز کی فرضیت اور اس کی مشروعیت پر متفق ہے اور جس اہم نے بھی نماز کی مشروعیت کے سلسلے میں زبان نبی دراز کی امت نے اسے اپنی فہرست اور اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ (مذکورہ تفصیلات کا اکثر حصہ عنایہ شرح عربی ہدایہ سے ماخوذ ہے۔ ملاحظہ ہو عنایہ۔ (۲۱۸، ۲۱۹ زکریا دیوبند)





## بَابُ الْمَوَاقِیْتِ

یہ باب نمازوں کے اوقات کے بیان میں ہے

﴿مواقیت﴾ میقات کی جمع ہے بمعنی ماوقت بہ یعنی جس چیز سے کسی وقت اور حد کی حد بندی کی جائے اس کو میقات کہتے ہیں اور اس کی جمع مواقیت آتی ہے۔

صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فاضل مصنف علیہ الرحمہ نے نماز کے باب میں جو وقت کے بیان سے آغاز کیا ہے اس کی دو وجہیں ہیں:

① وقت وجوب اداء کا سبب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سبب مستبب پر مقدم ہوتا ہے۔

② وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے اور شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، جیسے کہ طہارت نماز کی شرط ہے۔

اسی لیے تو کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے فجر کے وقت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا اول اور آخر وقت تقریباً سب کے یہاں یکساں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت سے اترنے کے بعد فجر ہی کے وقت دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ (عنایہ ۲۱۹/۱)

صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے فجر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، جس وقت انھیں جنت سے اتارا گیا اور دنیا ان پر تاریک ہوگئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا تو انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن جب صبح روشن ہوئی تو انھوں نے شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت رات کی تاریکی سے نجات کے شکرانے میں، اور دوسری رکعت دن کی روشنی لوٹ آنے کے شکرانے میں۔

اور ظہر کے وقت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھی، اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے نور نظر حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا اور ان کی جگہ دنبہ کی قربانی ہوئی تو انھوں نے شکرے کے طور پر چار رکعت نماز ادا کی، پہلی رکعت بچے کا غم دور ہونے کے شکرے میں، دوسری رکعت فداکاری پر کھرا اترنے کے شکرے میں، تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور چوتھی رکعت ذبح کے جاں گسل لمحات پر اپنے لخت جگر کے صبر کرنے کی وجہ سے، حضرت ابراہیم نے بطور نفل یہ چار رکعتیں پڑھی تھیں، لیکن ہم پر فرض قرار دے دی گئیں۔

عصر کے وقت سب سے پہلے حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی وقت

انھیں چار تاریکیوں سے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ لغزش کی تاریکی سے، رات کی تاریکی سے، پانی کی تاریکی سے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، انھی چار ظلمات سے رہائی ملنے پر حضرت یونس نے شکرانے کے طور پر عصر کے وقت چار رکعتیں پڑھی تھیں، جو امت محمدیہ پر فرض قرار دے دی گئیں۔

مغرب کے وقت سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بطور شکرانہ تین رکعت نفل نماز پڑھی ہے پہلی رکعت اپنی ذات سے اُلوہیت کی نفی کے لیے، دوسری رکعت اپنی والدہ کی ذات سے اُلوہیت کی نفی کے لیے، تیسری رکعت صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالی میں اُلوہیت کے اثبات اور انحصار کے لیے۔

عشاء کے وقت سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چار رکعت نماز ادا کی ہے، اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ مدین سے نکلے اور راستہ بھٹک گئے تو انھیں چار چیزوں کا خوف لاحق ہوا، (۱) بیوی کا (۲) اپنے بھائی حضرت ہارون کا، (۳) اپنے دشمن فرعون کا، (۴) اپنے بچوں کا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انھیں ان چاروں غموں سے نجات دے دی تو اُس وقت بطور تطوع انھوں نے یہ چار نمازیں ادا کیں، جنہیں امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیا گیا۔

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ نماز کے متعلق یہ اقوال مجھے اپنے شیخ علامہ توام الدین کا کی رحمہ اللہ کی شرح میں دستیاب ہوئے ہیں، جو ابوالفضل سے منقول ہیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ (عنایہ از صفحہ ۲۱۹ تا ۲۲۶)

﴿أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأَفْقِ، وَالْآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ﴾  
 لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① أَنَّهُ أَمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا وَكَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ لَكَ وَلَا مَيْتِكَ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالْفَجْرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو طَوْلًا ثُمَّ يَعْقِبُهُ الظَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ② لَا يَفْرَتُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ، أَيُّ الْمُنْتَشِرُ فِيهِ .

**ترجمہ:** فجر کا اول وقت فجر ثانی کے طلوع ہونے کے بعد ہے اور فجر ثانی وہی ہے جو افق میں چوڑائی میں پھیلتی ہے، اور فجر کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو امامت جبرئیل والی حدیث کی وجہ سے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو پہلے دن طلوع فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب خوب سفیدی ہوگئی اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا تو نماز پڑھائی، اور آخر حدیث میں یہ کہا کہ جو وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فجر کا وقت ہے۔

اور صبح کاذب کا اعتبار نہیں ہے اور صبح کاذب وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تاریکی آجاتی ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے تمہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی فجر مستطیل (سے تمہیں صبح کا دھوکہ ہو) اور فجر تو وہ ہے جو افق میں مستطیل ہوتی ہے، یعنی پھیلتی ہوئی رہتی ہے۔

## اللغات:

﴿حَدًّا﴾ کلمہ تاکید، بہت زیادہ، کثیر مقدار۔ ﴿يَبَاطُ﴾ سفیدی۔ ﴿ظَلَامٌ﴾ اندھیرا۔ ﴿يَغُوتٌ﴾ باب نصر؛ دھوکے میں

بتا کرنا۔

## تخریج:

- ① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الصلوٰۃ باب المواقیث حدیث رقم ۳۹۳۔  
وترمذی فی کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء فی مواقیث الصلوٰۃ حدیث ۱۴۹۔
- ② اخرجہ ترمذی کتاب الصوم باب ماجاء فی بیان الفجر حدیث رقم ۷۰۶۔  
اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الصوم باب وقت السحور حدیث رقم ۲۳۴۶۔  
و مسلم فی کتاب الصیام باب بیان ان الدخول نصوم يحصل بطلوع الفجر حدیث رقم ۲۵۴۶۔

## فجر کے وقت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ فجر کا اول وقت فجر ثانی (فجر صادق، صبح صادق) کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک ہے، فجر ثانی اور صبح صادق سے مراد وہ سفیدی ہے جو چوڑائی میں آسمان پر پھیلتی ہے، فجر کے اول اور آخر وقت کے سلسلے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کی اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے جس میں انھوں نے ایک دن تو اول وقت میں طلوع فجر ہی کے وقت آپ ﷺ کو فجر کی نماز پڑھادی تھی، اور دوسرے دن بالکل اخیر میں جب خوب سویرا ہو گیا اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا تھا تب فجر کی نماز پڑھائی اور یوں فرمایا کہ کل اور آج کے جو اوقات ہیں ان کے مابین جو وقت ہے، وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فجر کا وقت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان دو وقتوں کے مابین وہی وقت ہے جسے ہم نے فجر کا اول اور آخر وقت قرار دیا ہے۔

حدیث جبرئیل یہ ہے: " أن رسول الله ﷺ قال أمني جبريل عليهما السلام عند البيت مرتين وصلي بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس وصار الفسي مثل الشرك، وصلي بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلي بي المغرب حين غابت الشمس، وصلي بي العشاء حين غاب الشفق، وصلي بي الفجر حين طلع الفجر، وصلي بي الظهر في اليوم الثاني حين زالت الشمس وصار ظل كل شيء مثله، وصلي بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلي بي المغرب حين غربت الشمس لوقته بالأمس، وصلي بي العشاء حين مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل، وصلي بي الفجر حين طلع الفجر وأسفر وكادت الشمس أن تطلع، ثم قال: "يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دو مرتبہ بیت اللہ میں مجھے نماز پڑھائی ہے، پہلے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل چکا تھا اور سایہ تسمے کے مانند ہو گیا تھا، اور عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے

ہم مثل ہو گیا تھا، اور مغرب اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا تھا، اور عشاء غیبو بت شفق کے وقت پڑھائی اور فجر طلوع فجر کے وقت پڑھائی اور دوسرے دن سورج ڈھلنے کے بعد ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہونے کے وقت ظہر پڑھائی اور عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو چند ہو گیا تھا، مغرب کی نماز غروب شمس کے وقت پہلے ہی دن کی طرح پڑھائی، اور عشاء تہائی رات یا نصف رات گذر جانے کے بعد پڑھائی، اور فجر اس وقت پڑھائی جب خوب صبح ہو گئی اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر حضرت جبریل نے مجھ سے یوں کہا اے محمد ﷺ یہ آپ کی نماز کا وقت ہے اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی نماز کا وقت ہے، اور جو وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے۔

ولا معتبر بالفجر الکاذب الخ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کے سلسلے میں صبح صادق کا اعتبار ہے، صبح کاذب کا اعتبار نہیں ہے، اور صبح کاذب وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد تاریکی آجاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی دلیل ہے کہ لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل اس فرمان کا شان و رود یہ ہے کہ حضرت بلال صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے سحری اور تہجد کے لیے اذان دیتے تھے اور جب صبح صادق طلوع ہو جاتی تھی تو حضرت عبداللہ بن کتبوم نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے، چونکہ اس موقع پر دو اذانیں ہوتی تھیں، اس لیے کبھی کبھی لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا کہ یہ اذان فجر کے لیے ہے یا تہجد کے لیے ہے، اس پر آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اذان بلال سے دھوکہ نہ کھایا کرو، وہ فجر کے لیے نہیں، بل کہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، اور نہ ہی فجر مستطیل یعنی فجر کاذب سے دھوکہ کھایا کرو، یہ دونوں چیزیں نماز فجر سے متعلق نہیں ہیں، اور نہ ہی ان اوقات میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت تو اس صبح صادق سے طلوع ہوتا ہے جو افق میں چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔

﴿وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ﴾ لِإِمَامَةِ جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ،  
﴿وَأَخْرَ وَقْتَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ سِوَا فِيءِ الزَّوَالِ، وَقَالَ إِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيءِ الزَّوَالِ هُوَ الْفَيْءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ وَقْتُ الزَّوَالِ، لَهُمَا إِمَامَةُ جَبْرِئِيلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِلْعَصْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ ② عَلَيْهِ السَّلَامُ أِبْرَدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِيَارِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَنْتَارُ لَا يَنْقُضِي الْوَقْتُ بِالشَّكِّ.

**ترجمہ:** اور ظہر کا اول وقت وہ وقت ہے جب سورج ڈھل جائے، اس لیے کہ حضرت جبریل نے پہلے دن زوال شمس کے وقت امت کی تھی۔ اور امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے یہاں ظہر کا آخری وقت اس وقت سے ہے جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو جائے اور امام صاحب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے یہی ایک روایت ہے۔ اور زوال کے وقت اشیاء کا جو سایہ ہوتا ہے وہی سایہ اصلی ہے۔

حضرات صاحبینؒ کی دلیل حضرت جبرئیل علیہ السلام کا پہلے دن عصر کے لیے اس وقت میں امامت کرنا ہے۔ اور حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے ”ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیوں کہ گرمی کی شدت جہنم کی شدت کی وجہ سے ہے اور اہل عرب کے علاقوں میں سخت گرمی اسی وقت میں ہوتی ہے۔ اور جب آثار میں تعارض ہے تو شک کی وجہ سے وقت خارج نہیں ہوگا۔

## اللغات:

﴿فِيءُ﴾ سایہ۔ ﴿فَيْحٌ﴾ تیزی، سختی، پھیلاؤ۔

## تخریج:

① اخرجہ مسلم فی کتاب المساجد باب اوقات الصلوات الخمسه حدیث رقم ۱۳۸۱، ۱۷۶۔

② اخرجہ مسلم فی کتاب المساجد باب استحباب الابراء بالظہر حدیث رقم ۱۳۹۵۔

## ظہر کے وقت کی تفصیل:

اس عبارت میں ظہر کے اول اور آخری وقت سے بحث کی گئی ہے، ظہر کے اول وقت میں تو حضرات ائمہ متفق ہیں، چنانچہ ہمارے علمائے ثلاثہ کے یہاں ظہر کا اول وقت بالاتفاق زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، کیوں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پہلے دن آپ ﷺ کو اسی وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی تھی۔

البتہ ظہر کے آخری وقت کے سلسلے میں علمائے احناف کا اختلاف ہے، چنانچہ امام صاحب سے منقول جملہ روایات میں سب سے مستند اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے دوچند ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات صاحبینؒ کے یہاں سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔

حضرات صاحبینؒ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرئیل نے پہلے دن آپ ﷺ کو عصر کی نماز اس وقت میں پڑھائی تھی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا، معلوم یہ ہوا کہ اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے ورنہ تو امامت جبرئیل کا غیر وقت میں عصر پڑھانا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

اس سلسلے میں حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ابر دو ا بالظہر الخ کے فرمان سے گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کے علاقوں میں ایک مثل سایہ ہونے کے وقت گرمی اپنے شباب پر رہتی تھی، لہذا یہ بات طے ہے کہ ابر دو ا کا مصداق وہ وقت ہے جو مثل اول کے بعد آتا ہے اور جب مثل اول کے بعد والے وقت میں ظہر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر اس وقت میں عصر کا وقت کہاں سے آجائے گا؟

وإذا تعارضت الخ صاحب ہدایہ حضرات صاحبینؒ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایک مثل پر ظہر کا وقت باقی رہنے اور ختم ہو جانے کے سلسلے میں نصوص میں تعارض ہے، کیوں کہ امامت جبرئیل والی حدیث سے ایک مثل پر ظہر کے

وقت کا ختم ہونا ثابت ہو رہا ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث سے ایک مثل پر اس وقت کی بقاء ثابت ہو رہی ہے، تو اب اذا تعارضتا تساقطا کی رو سے دونوں حدیثوں کو ایک طرف کر دیں گے اور خود اس وقت کے متعلق غور کریں گے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثل سے پہلے ظہر کا وقت یقینی طور پر باقی تھا، اور ایک مثل پر اس کی بقاء اور عدم بقاء کے حوالے سے نصوص میں تعارض ہو گیا، اور ایک مثل کے بعد اس کے باقی رہنے اور ختم ہو جانے میں شک واقع ہو گیا، حالاں کہ ایک مثل سے پہلے اس کی بقاء کا یقین تھا، تو بقاء کا یقین خروج کے شک کے وجہ سے زائل نہیں ہوگا اور ایک مثل کے بعد بھی وہ باقی ہی رہے گا، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ یقین لا یزول بالشک۔

### فائدہ:

صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفي الزوال الخ کے ذریعے سایہ اصلی کی حقیقت بیان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ سایہ جو تمام چیزوں کے لیے زوال کا وقت کہلاتا ہے، اسی کو فقہاء کی اصطلاح میں سایہ اصلی کہا جاتا ہے، صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے سایہ اصلی کی معرفت اور اس کی شناخت کے متعلق محمد بن شجاع کا قول بیان کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بالکل برابر اور ہموار زمین میں ایک لکڑی گاڑ دی جائے اور جہاں تک اس لکڑی کا سایہ پہنچے اس جگہ ایک علامت بنا دی جائے، اور جب تک لکڑی کا سایہ گھٹتا رہے گا وہ زوال سے پہلے کا وقت ہوگا، لیکن جیسے ہی لکڑی کا سایہ ٹھہر جائے اور اس میں نقص اور اضافہ کچھ بھی نہ ہو بس یہی سایہ اصلی ہے۔ (عنایہ ۲۲۱/۱)

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوَلَيْنِ، وَالْآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ ﴿لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا﴾.

**ترجمہ:** اور دونوں قولوں پر جب ظہر کا وقت نکل جائے تو وہی عصر کا اول وقت ہے اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج غروب نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے غروب شمس سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا۔

### تخریج:

① اخرجہ الأئمة الستة في كتبهم مسلم في كتاب المساجد باب من ادرك ركعة من الصلوة حديث رقم ۱۳۷۴، ۱۶۳.

و بخاری فی کتاب الصلوة باب من ادرك من الفجر، حديث رقم ۵۷۹.

### عصر کے وقت کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت نکل جائے گا تو اس کے معاً بعد عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عصر کا اول وقت دو مثل کے بعد شروع ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں مثلین تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور حضرات صاحبین

کے یہاں چوں کہ ایک ہی مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے یہاں ایک مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوگا اور دونوں فریق کے یہاں اس وقت تک عصر کا وقت باقی رہے گا جب تک کہ سورج غروب نہ ہونے لگے، جب سورج غروب ہونے لگے گا تو عصر کا وقت بالاتفاق ختم ہو جائے گا۔

عصر کے اول وقت کی دلیل تو امامت جبرئیل والی حدیث ہے، اور آخر وقت کی دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ غروب شمس سے پہلے پہلے جس شخص نے بھی عصر کی ایک رکعت پالیا، گویا اس نے عصر کی نماز کو پالیا، اس حدیث سے صاف طور پر یہ واضح ہے کہ غروب شمس تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے، ورنہ اس وقت نماز کے پالینے کا کیا مطلب ہے؟۔

«وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ» وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، لِأَنَّ جِبْرَائِيلَ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّ فِي يَوْمَيْنِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، وَلَنَا قَوْلُهُ ② عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، وَمَا رَوَاهُ كَانَ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْكُرَاهَةِ، ثُمَّ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي فِي الْأَفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ الْحُمْرَةُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ③ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، وَ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ④ عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا اسْوَدَّ الْأَفُقُ، وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَوْطَأِ وَفِيهِ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ .

**ترجمہ:** اور جب سورج ڈوب جائے تو یہ مغرب کا اول وقت ہے اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار تک ہے جس میں مصلیٰ تین رکعات نماز پڑھ لے، اس لیے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی تھی۔

ہماری دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ مغرب کا اول وقت غروب شمس کا وقت ہے، اور اس کا آخری وقت غیبت شفق کا وقت ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جس کو بیان کیا ہے وہ کراہت سے بچنے کے لیے تھا۔

پھر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد افق میں ظاہر ہوتی ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں سرخی ہی شفق ہے، یہی امام صاحب رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ شفق سرخی ہے۔

حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب افق سیاہ ہو جائے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مؤطا میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں حضرات صحابہ کا اختلاف بھی ہے۔

## تخریج:

- ① اخرجہ مسلم فی کتاب المساجد باب اوقات الصلوات الخمسہ حدیث رقم ۱۳۹۲، ۱۳۹۳.
- ② اخرجہ مسلم فی کتاب المساجد باب اوقات الصلوات الخمس حدیث رقم ۱۳۹۱، ۱۷۶.
- ③ اخرجہ دارقطنی فی کتاب الصلوٰۃ باب ما روی فی صفة المغرب والصبح حدیث رقم ۱۰۴۳.
- ④ اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الصلوٰۃ باب فی المواقیت حدیث رقم ۳۹۴.

## مغرب کے وقت کی وضاحت:

اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ مغرب کا اول وقت سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کب تک باقی رہتا ہے، اس سلسلے میں حضرات ائمہ مختلف ہیں، چنانچہ امام شافعی کا قول اصح یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اتنی مقدار میں باقی رہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا اس میں تین رکعات نماز پڑھ سکے اور بس، اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بقیہ دیگر ائمہ کے یہاں مغرب کا وقت غروب شفق تک باقی رہتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ایک روایت بھی ہے۔

قول اول کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز پڑھائی تھی، اگر مغرب کا وقت دراز ہوتا تو یقیناً حضرت جبریل اور نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی تقدیم و تاخیر کرتے، مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا، معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت میں توسع نہیں ہے۔

ہم سب کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور اس میں غروب شمس کو مغرب کا اول وقت اور غیبو بت شمس کو اس کا آخری وقت قرار دیا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مغرب کا وقت ثلاث رکعات پڑھنے کی مقدار کے بعد نہیں ختم ہوتا، بل کہ غیبو بت شفق تک دراز اور برقرار رہتا ہے۔

رہی وہ حدیث جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل کا دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب پڑھانا مکروہ وقت سے بچنے کے لیے تھا، اور اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ مغرب کو آخر وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، لہذا اس تحرز کی وجہ سے آپ مغرب کے وقت کو ثلاث رکعات کی مقدار میں محصور نہیں کر سکتے۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا نماز شروع کرنا ثابت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ انھوں نے اس نماز سے فراغت کب حاصل کی تھی، بہت ممکن ہے کہ دوسرے دن غیبو بت شفق کے وقت فراغت حاصل کی ہو۔ بہر حال ہمارے یہاں تو یہ طے ہے کہ غیبو بت شفق تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن اس شفق سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت امام عالی مقام کا فرمان یہ ہے کہ شفق سے وہ سفیدی مراد ہے جو سرنخی کے بعد اُفق پر ظاہر ہوتی ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شفق سے سرنخی ہی مراد ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہی ہے اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الشفق الحمرة کہ شفق سرنخی ہی کا نام ہے۔

حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق یعنی مغرب



کا آخری وقت تب ہے جب افق سیاہ ہو جائے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ افق میں سفیدی کے بعد ہی سیاہی آتی اور چھاتی ہے، اس لیے شفق سے مراد سفیدی ہوگی اور اس سفیدی کے ظہور تک مغرب کا وقت باقی رہے گا۔

ری وہ روایت جو صحابین کا مستدل ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مؤطا میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور ہماری پیش کردہ روایت ثنائی ہے یعنی مرفوع ہے، اور مرفوع کے مقابلے میں موقوف حدیث حجت نہیں بن سکتی، اس لیے اس سے استدلال ہی کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں حضرات صحابہ کا اختلاف ہے، کیوں کہ صحابہ میں سے بھی بعض حضرات شفق سے سفیدی مراد لیتے تھے اور بعض حضرات سرفخی مراد لیتے تھے، اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی مراد کے سلسلے میں حضرات صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو اس سے استدلال کرنا اور اسے حجت یا دلیل بنانا درست نہیں ہے۔

﴿وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ﴾ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تَقْدِيرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

**ترجمہ:** اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے اور اس کا آخر وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ عشاء کا آخری وقت فجر طلوع نہ ہونے تک ہے۔ اور یہ فرمان امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف تہائی رات گذر جانے کے ساتھ اندازہ کرنے میں حجت ہے۔

## اللغات:

﴿شَفَقٌ﴾ وہ سرفخی جو سورج کے غروب کے وقت آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ ﴿ذَهَابٌ﴾ اسم مصدر، باب فتح؛ جانا، گزرنا۔

## تخریج:

① اخرجه طحاوی فی شرح معانی الآثار باب مواقیب الصلوة، حدیث رقم ۹۱۴ و ۱۲۰.

## عشاء کے وقت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عشاء کا وقت غیبوت شفق سے شروع ہو کر طلوع فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے اور اس سلسلے میں کتاب میں بیان کردہ حدیث ہمارا مستدل ہے جس میں واضح طور پر یہ بتلادیا گیا ہے کہ عشاء کا آخری وقت طلوع فجر سے پہلے پہلے ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں عشاء کا آخری وقت تہائی رات تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ان کی دلیل امامت جبرئیل والی حدیث ہے جس میں یہ مضمون وارد ہے کہ وصلی بی العشاء حین مضی ثلث اللیل أو قال نصف اللیل اور یہ مضمون امامت کے دوسرے دن کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبرئیل نے آپ ﷺ کو پہلے دن تو غیبوت شفق کے بعد عشاء پڑھائی اور دوسرے دن تہائی رات یا نصف رات گذرنے کے بعد پڑھائی اور چوں کہ اخیر میں انھوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے

ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت بھی غیوبت شفق اور ثلث لیل کے بین میں ہے، اس لیے ہم ثلث لیل کو عشاء کا آخری وقت مانتے ہیں۔

لیکن ہماری طرف سے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ظہر کے سلسلے میں نصوص متعارض تھیں، اسی طرح یہاں بھی نصوص متعارض ہیں، لہذا نصوص سے ہٹ کر یقین کو فیصلہ بنایا جائے گا اور ثلث رات کے بعد بھی عشاء کے وقت کی بقاء کو ثابت مانا جائے گا، کیوں کہ ثلث لیل سے پہلے تک اس کا ہونا تو متیقن ہے۔

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْوُتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْوُتْرِ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقْتُهُ وَقْتُ الْعِشَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّنْذِيرِ كَبِيرٍ لِلتَّرْتِيبِ.

**ترجمہ:** اور وتر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، اس لیے کہ وتر کے متعلق آپ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا فرمان یہ ہے کہ وتر کو عشاء اور صبح کے درمیان پڑھو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضرات صاحبین کے یہاں ہے۔ جب کہ امام صاحب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے یہاں عشاء کا وقت ہی وتر کا بھی وقت ہے، لیکن یاد ہونے کی صورت میں وتر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ترتیب واجب ہے۔

### اللغات:

﴿تَنْذِيرٌ كَبِيرٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ یاد کرنا۔

### تخریج:

① اخرجه ابوداؤد فی کتاب الوتر باب استحباب الوتر حدیث رقم ۱۴۱۸.

و ترمذی فی کتاب الوتر باب ماجاء فی فضل الوتر حدیث رقم ۴۵۲.

### نماز وتر کے وقت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات صاحبین کے یہاں وتر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، جب کہ امام اعظم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے نزدیک جو وقت عشاء کا ہے وہی وقت وتر کا بھی ہے، صاحبین کی دلیل آپ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا یہ فرمان ہے کہ فصلتوها ما بین العشاء الی طلوع الفجر یعنی وتر کو عشاء اور صبح صادق کے درمیان پڑھ لیا کرو، اس حدیث سے صاحبین کا وجہ استدلال باہر معنی ہے کہ آپ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے عشاء اور صبح صادق کے مابین وتر پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بین اور مابین کا تحقق اسی وقت ہوگا جب وتر کو عشاء کے بعد اور صبح صادق سے پہلے پڑھا جائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وتر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔

حضرت امام صاحب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی دلیل یہ ہے کہ ان کے نزدیک وتر عملی طور پر فرض ہے یعنی جس طرح فرائض کو پابندی سے

ادا کرنے کا معمول ہے، اسی طرح وتر کو بھی پابندی سے ادا کرنے کا معمول ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر وقت دو واجب نمازوں کو جمع کرے تو ان دونوں نمازوں کا ایک ہی وقت ہوتا ہے اور اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، جیسے بہت سی فائزہ نمازیں اور وقفیہ نماز کہ دونوں کو ایک وقت جمع کرتا ہے اور ان میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی اور جو عشاء کا وقت ہے وہی وتر کا بھی وقت ہوگا۔

البتہ چوں کہ وتر اور عشاء میں اداء کے اعتبار سے ترتیب واجب ہے، اس لیے وتر کو عشاء پر جان بوجھ کر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ اگر عدا کسی نے ایسا کر دیا تو اس کے لیے وتر کا اعادہ واجب ہے، کیوں کہ ان میں ترتیب واجب ہے اور ترک واجب ہے نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر نسیاناً اور سہواً ایسا ہوا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اعادہ ضروری نہیں ہے، جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں بھی اعادہ ضروری ہے۔

اس سے پہلے نمازوں کے مطلق اوقات کو بیان کیا گیا ہے، اب یہاں سے کامل اور ناقص اوقات کو بیان کریں گے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ فصل بھی قائم کریں گے، چنانچہ اس فصل کے تحت اوقات کاملہ اور اوقات مستحبہ کو بیان کر رہے ہیں۔ (عنایہ ۱/۲۲۷)

وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ① أَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمۃ اللہ علیہ يُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا نَرُوهُ، ﴿وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ، وَتَقْدِيمُهُ فِي الشِّتَاءِ﴾ لِمَا رَوَيْنَا، وَلِرِوَايَةِ أَنَسٍ رحمۃ اللہ علیہ ② قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ يَكْرَهُ بِالظُّهْرِ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ أَبْرَدَ بِهَا، ﴿وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَّعَيَّرِ الشَّمْسُ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ النَّوَافِلِ لِكِرَاهَتِهَا بَعْدَهُ، وَالْمُعْتَبَرُ تَغْيِيرُ الْقُرْصِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ لَا تُحَارِفِيهِ الْإَعْيُنُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَيْهِ مَكْرُوهٌ﴾.

**ترجمہ:** اور فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو، کیوں کہ وہ وقت ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں تعجیل مستحب ہے، لیکن ان کے خلاف وہ روایت بھی حجت ہے جسے ہم بیان کر چکے اور وہ روایت بھی حجت ہے جسے آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اور موسم گرما میں ظہر کو ٹھنڈک میں پڑھنا جب کہ موسم سرما میں اسے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں جلدی کرتے تھے اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو آپ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔

اور گرمی سردی دونوں موسم میں عصر کو اس وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو، کیوں کہ ایسا کرنے میں نوافل کی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ اور (تغییر شمس سے) سورج کی نکیہ کا متغیر ہونا معتبر ہے،

اور وہ اس کا اس حال میں ہو جانا ہے کہ آنکھیں چکا چوندھ نہ ہوں، یہی صحیح ہے اور اس وقت تک عصر کو مؤخر کرنا مکروہ ہے۔

## اللغات:

﴿إِسْفَارٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ روشن کرنا۔ ﴿تَعْجِيلٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ جلدی کرنا۔ ﴿إِبْرَادٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ ٹھنڈا کرنا۔ ﴿صَيْفٌ كَرْمٌ﴾ گرمی۔ ﴿شِتَاءٌ سَرْدٌ﴾ سردی۔ ﴿بَغْرٌ﴾ باب تفعیل؛ شروع وقت میں کسی کام کا کر لینا، کسی کام کا پہلے کر لینا۔ ﴿قُرْصٌ كَتَمِيَا، كَوَلِي﴾۔ ﴿تَحَارٌ﴾ صیغہ مجہول، احار یحیر، باب افعال؛ حیران کرنا، چندھیانا۔

## تخریج:

① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الصلوٰۃ باب وقت الصبح حدیث رقم ۴۲۴۔

② اخرجہ بخاری کتاب الجمعة باب اذا شئت الحر یوم الجمعة حدیث رقم ۹۰۶۔

## فجر، ظہر اور عصر کے مستحب اوقات کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فجر کی نماز کو اسفار یعنی اجالے میں پڑھنا مستحب ہے اور اس پر آپ ﷺ کا یہ فرمان اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر دلیل ہے۔ اور اس فرمان سے وجہ استدلال بایں طور ہے کہ آپ ﷺ نے صیغہ امر کے ساتھ اسفار میں فجر پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر کا ادنیٰ درجہ استحباب ہے، لہذا آپ کے اس فرمان کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، اور اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا مستحب قرار دیا جائے گا۔

صاحب عنایہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسفار میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ طلوع شمس سے اتنی دیر پہلے نماز پڑھی جائے کہ اگر نماز دوبارہ پڑھنے کی نوبت آئے تو وضو کر کے قراءت مسنونہ کے مطابق دوبارہ نماز پڑھی جاسکے۔ (۲۲۷/۱)

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کو جلدی پڑھنا مستحب ہے اور جلدی سے مراد یہ ہے کہ وقت کے نصف اول میں نماز پڑھ لی جائے، لہذا جب تمام نمازوں میں تعجیل مستحب ہے تو ظاہر ہے کہ فجر میں بھی تعجیل مستحب ہوگی، اور اس تعجیل پر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے "کان رسول اللہ ﷺ یصلی الصبح فینصرف النساء متلففات بمروطهن ما یعرفن من الغلس" یعنی آپ ﷺ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو عورتیں اپنی اوڑھنیوں میں لپی ہوئی واپس ہوتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ کا وجہ استدلال یوں ہے کہ اس میں غلس ہی کے اندر نماز سے فارغ ہونا اور عورتوں کا واپس ہونا ثابت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غلس، اسفار سے پہلے ہے کیوں کہ غلس تاریکی کو کہتے ہیں جب کہ اسفار اجالے کا نام ہے، اور صبح میں تاریکی کے بعد ہی اجالا ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ فجر میں آپ ﷺ تعجیل فرماتے تھے اور تعجیل ہی مستحب ہے۔

ہماری طرف سے اس حدیث کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث فعلی ہے اور ہماری بیان کردہ حدیث قولی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جب فعلی اور قولی حدیث میں تعارض ہو، تو قولی حدیث راجح ہوتی ہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں من الغلس کا جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نہیں، بل کہ کسی راوی کا ہے اور عورتوں کی عدم شناخت کا سبب راوی نے من الغلس سمجھا اور اس کا اضافہ کر دیا۔ اس لیے کہ یہی روایت ابن ماجہ شریف ص ۴۹

پر مروی ہے اور اس میں من الغلس کا اضافہ نہیں ہے۔

نماز ظہر کا حکم یہ ہے کہ موسم گرما میں اسے ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے جب کہ موسم سرما میں کچھ تعجیل کر کے پڑھنا مستحب ہے، اس کی پہلی دلیل وہ روایت ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی یعنی اُبردوا بالظہر فإن شدة الحر من فيح جهنم اور دوسری روایت حضرت انسؓ کی یہ حدیث ہے کان رسول اللہ ﷺ إذا كان في الشتاء بگر بالظہر وإذا كان في الصيف اُبرد بها یعنی ٹھنڈک میں آپ ﷺ ظہر کو جلدی پڑھتے تھے اور گرمی میں اسے ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، اس مسئلے میں یہ حدیث نہایت واضح ہے اور سردی گرمی دونوں موسم سے متعلق حنفیہ کے نظریے اور ان کے مسلک کی مؤید ہے۔

و تأخیر العصر الخ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز گرمی اور سردی دونوں موسم میں تاخیر سے پڑھنا افضل اور مستحب ہے اور اس استحباب کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لہذا جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی نوافل پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا، لیکن اس تاخیر میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اتنی تاخیر بھی نہ ہو جس سے مکروہ وقت میں نماز ادا کرنی پڑے، صاحب ہدایہ نے اس تاخیر کی غایت تغیر شمس قرار دیا ہے، یعنی سورج کی نکیہ میں تغیر و تبدل آنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینا مستحب ہے، اور بالکل اس وقت میں عصر پڑھنا کہ نگاہیں سورج کی نکیہ پر جمنے لگیں مکروہ ہے۔

وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِهِ بِالْيَهُودِ، وَقَالَ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَأَخَّرُوا الْعِشَاءَ.

**ترجمہ:** اور مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں یہود کی مشابہت ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت اس وقت تک ہمیشہ خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر کرتی رہے گی۔

### تخریج:

① أخرجه ابوداؤد في كتاب الصلوة باب في وقت المغرب حديث ٤١٨.

### مغرب کے مستحب وقت کی تفصیل:

مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی یعنی اذان کے بعد زیادہ تاخیر کیے بغیر پڑھنا مستحب ہے اور اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ یہود اس نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے، لہذا اگر ہم بھی تاخیر سے پڑھنے لگیں تو ظاہر ہے کہ یہود کی مشابہت لازم آئے گی اور ہمیں ان کی مشابہت سے ہر حال میں بچنا ہے اور نیچے کا واحد استہیہ ہے کہ مغرب میں تعجیل کی جائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ مغرب کو جلدی اور عشاء کو تاخیر سے پڑھتے رہیں گے اس وقت تک وہ خیر پر قائم رہیں گے، اس فرمان سے بھی مغرب میں تعجیل ثابت ہو رہی ہے۔

وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَيَّ لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَإِلَّا فِيهِ قَطَعَ السَّمَرِ الْمُنْهِي ② عَنْهُ بَعْدَهُ، وَقِيلَ فِي الصَّيْفِ تَعْجَلْ كَيْ لَا تَتَقَلَّلَ الْجَمَاعَةُ،

وَالتَّأخِيرُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحٌ، لِأَنَّ دَلِيلَ الْكِرَاهَةِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ عَارِضُهُ دَلِيلُ النَّدْبِ وَهُوَ قَطْعُ السَّمْرِ بِوَاحِدٍ فَيُثْبِتُ الْإِبَاحَةَ، وَإِلَى النِّصْفِ الْأَخِيرِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ السَّمَرُ قَبْلَهُ.

**ترجمہ:** اور تہائی رات سے پہلے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے، کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں اس قصہ گوئی کا خاتمہ ہے جو عشاء کے بعد مکروہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ گرمی میں عشاء جلدی پڑھ لی جائے، تاکہ جماعت میں قلت نہ ہو۔ اور نصف لیل تک عشاء کو مؤخر کرنا مباح ہے، کیوں کہ دلیل کراہت یعنی تقلیل جماعت سے دلیل ندب یعنی (عشاء کے بعد) کسی کے ساتھ بات نہ کرنا معارض ہے، لہذا اباحت ثابت ہو جائے گی، اور نصف اخیر تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں تقلیل جماعت ہے، جب کہ قصہ گوئی تو اس سے پہلے ہی منقطع ہو چکی ہے۔

### اللغات:

﴿أَشَقُّ﴾ شَقَّ يَشُقُّ، باب نصر؛ بھاری کر دینا، دشوار کرنا۔ ﴿سَمَرٌ﴾ رات کو دیر تک کہانیاں سننا، رات کی قصہ گوئی۔

### تخریج:

- ① اخرجہ ترمذی فی کتاب الصلوٰۃ باب ما جاء فی تاخیر صلوٰۃ العشاء حدیث رقم ۱۶۷.
- ② اخرجہ بخاری، کتاب مواقیب الصلوٰۃ باب وقت العصر حدیث رقم ۵۴۷.

### عشاء کا مستحب وقت:

مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا (دونوں موسم میں) مستحب ہے، اس پر پہلی دلیل تو یہ حدیث ہے لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل یعنی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھتا۔ اور اس تاخیر کی دوسری علت اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے عشاء کے بعد لا یعنی باتوں اور قصہ گوئیوں سے منع فرمایا ہے، اب ظاہر ہے جب عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے گی تو لوگوں کو اس کے بعد گھر جانے اور گھر جا کر آرام کرنے اور سونے کی فکر ہوگی، نہ کہ گپ شپ مارنے کی، اس لیے اس حوالے سے بھی عشاء کو ثلث لیل تک مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔

وقیل الخ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو گرمی میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے اور لوگ جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں، اب اگر عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جائے گا تو بہت سے لوگ جماعت میں شریک نہیں ہو سکیں گے اور جماعت میں لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اس لیے گرمیوں میں تو عشاء میں بھی تجلیل مستحب ہے۔

والتأخیر الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ عشاء کو نصف لیل تک مؤخر کرنا جائز اور مباح ہے، اور اس اباحت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو طرح کی دلیلیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متعارض ہیں (۲) جماعت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے تو تاخیر مکروہ ہے (۲) لیکن اگر عشاء کو مؤخر کیا جائے تو قصہ گوئی نہیں ہوگی، اس فائدے کے تحت تاخیر عشاء مندوب ہے، اور صورت مسئلہ میں

دونوں ایک دوسرے سے متعارض ہیں، اس لیے اذا تعارضتا تساقطا پر عمل کرتے ہوئے مکروہ اور مندوب دونوں کو ختم کر کے یوں کہیں گے کہ تاخیر نہ تو مکروہ ہے، اور نہ ہی مندوب و مستحب ہے، البتہ مباح ہے۔

اس کے برخلاف نصف اخیر تک عشاء کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ یہاں صرف علت کراہت یعنی تقلیل جماعت ہی موجود ہے اور علت ندب یعنی قطع سمر نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً لوگ نصف اخیر سے پہلے پہلے ہی رات کی تاریکیوں میں کھو کر دم توڑ دیتے ہیں، لہذا جب نصف اخیر والی صورت میں قطع سمر کی علت سے اس کا معارضہ نہیں ہے تو تقلیل جماعت والی علت تنہا مؤثر ہوگی اور نصف اخیر تک مؤخر کرنا مکروہ ہوگا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

﴿وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوُتْرِ لِمَنْ يَأْتِي صَلَاةَ اللَّيْلِ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّقُ بِالْإِتْبَاهِ أَوْ تَرَ قَبْلَ النَّوْمِ﴾ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ.

**ترجمہ:** اور اس شخص کے لیے جسے رات کی نماز سے محبت ہو وتر میں آخر لیل مستحب ہے، پھر اگر اسے جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جسے یہ خوف ہو کہ آخر لیل میں نہیں اٹھ پائے گا وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے اور جسے یہ امید ہو کہ آخر رات میں بیدار ہو جائے گا وہ آخر لیل میں وتر پڑھے۔

### اللغات:

﴿يَأْتِي﴾ باب سمع؛ محبت کرنا، أَلْفَتْ رَكْنًا - ﴿يَتَّقُ﴾ باب ضرب؛ یقین ہونا، اعتماد ہونا۔ ﴿إِتْبَاهٌ﴾ اسم مصدر، باب

انفعال؛ بیدار ہونا، ہوش کا واپس آجانا۔

### تخریج:

① اخرجه ترمذی، کتاب الوتر باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر حديث رقم ۴۵۵.

### نماز وتر کا مستحب وقت:

وتر کے مستحب وقت کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تہجد کی نماز پیاری ہو اور وہ آخر لیل میں تہجد پڑھنے کا عادی ہو، تو اس کے لیے آخر لیل میں ہی (تہجد کے بعد) وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی شخص کو آخر لیل میں اٹھنے اور بیدار ہونے کا اعتماد نہ ہو تو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ اور ان دونوں صورتوں کے متعلق حدیث پاک میں وضاحت آئی ہے، حدیث خود کتاب میں مذکور ہے یعنی من خاف أن لا يقوم الخ۔

﴿وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ غَيْمٌ فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيلُهَا﴾  
لَأنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَطَرِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ تَوَهُمُ الْوُقُوعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ، وَلَا تَوَهُمُ فِي الْفَجْرِ، لِأَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ مُدِيرَةً، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، التَّأْخِيرُ فِي الْكُلِّ لِلْإِحْتِيَاظِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَدَاءُ بَعْدَ الْوَقْتِ، لِأَقْبَلِهِ.

**ترجمہ:** اور جب ابر کا دن ہو تو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازوں میں تاخیر صلاۃ مستحب ہے جب کہ عصر اور عشاء میں تعجیل صلاۃ مستحب ہے، کیوں کہ عشاء کو مؤخر کرنے میں بارش کا اعتبار کرتے ہوئے جماعت کی تقلیل ہے اور عصر کو مؤخر کرنے میں اس کے وقت مکروہ میں واقع ہونے کا وہم ہے۔ اور فجر میں کوئی وہم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مدت دراز ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ احتیاط کے پیش نظر تمام نمازوں میں تاخیر مستحب ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ وقت کے بعد بھی ادا جائز ہے مگر وقت سے پہلے جائز نہیں ہے۔

## اللغات:

﴿عَنِمْ﴾ بادل، ابر۔ ﴿مَطَرٌ﴾ بارش۔ ﴿تَوَهُّمٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعّل؛ خدشہ ہونا، وہم ہونا۔ ﴿مُدْبِرَةٌ﴾ لمبی، عام طور پر مدت کی صفت ہی بنتا ہے۔

## ابر آلودوں میں نمازوں کے مستحب وقتوں کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موسم خراب ہو اور آسمان ابر آلود ہو تو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازوں کو مؤخر کے پڑھنا مستحب ہے جب کہ عصر اور عشاء کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ تعجیل عشاء کی علت یہ ہے کہ اگر عشاء کو مؤخر کیا گیا اور بارش ہوگئی تب تو یہ بات طے ہے کہ جماعت کی تعداد نہایت کم ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع پر عشاء کو جلدی پڑھ لیا جائے، تاکہ جماعت کی تعداد کم نہ ہو۔

اور عصر کو جلدی پڑھنے اور مؤخر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا آخری وقت مکروہ ہے، اب اگر اس کو مؤخر کر کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وقت مکروہ میں اس کے وقوع کا یقین تو نہیں مگر وہم ضرور ہوگا اور وہم سے بھی احتیاط ضروری ہے، اس لیے عصر میں بھی تعجیل ہوگی۔

اس کے برخلاف فجر، ظہر اور مغرب میں تاخیر کرنا مستحب ہے، فجر میں تاخیر کے مستحب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک دراز رہتا ہے اور تاخیر کرنے کے بعد بھی اس کے وقت مکروہ میں واقع ہونے کا کوئی وہم نہیں رہتا، اس لیے اس میں تاخیر مستحب ہے۔ اسی طرح ظہر اور مغرب کو یوم ابر میں مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بدلی کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا اور اگر بالفرض گھڑی وغیرہ نہ ہوتی تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جائے گا، اس لیے احتیاطاً ان میں بھی تاخیر مستحب ہے، تاکہ وقت سے پہلے پڑھ لینے کا امکان ختم ہو جائے، کیوں کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اسی لیے حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ احتیاط کے پیش نظر بدلی کے دن نظر تمام نمازوں میں تاخیر کرنا بہتر ہے، کیوں کہ بدلی کی وجہ سے ان کے قبل از وقت واقع ہونے کا احتمال ہے جب کہ وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہے۔ اور اگر اس تاخیر میں نماز کا وقت نکل بھی گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ وقت گزرنے کے بعد بھی نماز معتبر ہے، ادا نہیں تو قضا تو بہر حال ہوگی، لیکن وقت سے پہلے نہ تو اداء کا اعتبار ہے اور نہ ہی قضاء کا، اس لیے احتیاطاً جملہ نمازوں میں تعجیل مستحب ہے۔



## فَصَلِّ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تَكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

یہ فصل ان اوقات کے بیان میں ہے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

اس سے پہلے والی فصل میں ان اوقات کا بیان تھا جن میں نماز پڑھنا مستحب ہے، یہاں سے ان اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا نہ کرنا اس کے کرنے سے اولیٰ ہو۔

﴿لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهْرِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا﴾ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه ① قَالَ ثَلَاثَةٌ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ نُصَلِّيَ وَأَنْ نُقْبَرَ فِيهَا مَوْتَانَا، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضِيفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَنْ نُقْبَرَ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ، لِأَنَّ الدَّفْنَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَالْحَدِيثُ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِضِ بِمَكَّةَ، وَحُجَّةٌ عَلَى أَبِي يُوْسُفَ رضي الله عنه فِي إِبَاحَةِ النُّفْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَتِ الزَّوَالِ.

**ترجمہ:** طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ ہی دوپہر میں اس کے قیام کے وقت جائز ہے اور نہ ہی اس کے غروب کے وقت جائز ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے، طلوع آفتاب کے وقت یہاں تک کہ سورج خوب بلند ہو جائے، زوال آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے اور جس وقت آفتاب غروب ہونے لگے حتیٰ کہ وہ غروب ہو جائے اور ان نقبر سے مراد نماز جنازہ ہے، کیوں کہ (اس وقت) دفن کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں فرائض کو خاص کرنے کے حوالے سے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے خلاف حجت ہے، اور جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل نماز کو مباح قرار دینے میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے خلاف حجت ہے۔

## تخریج:

① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس حدیث رقم ۳۱۹۲۔  
و ابن ماجہ فی کتاب الجنائز باب ماجاء فی الاوقات التی لا یصلی فیہا حدیث رقم ۱۵۱۹۔

## ہر قسم کی نماز کے مکروہ ہونے کے اوقات کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان تینوں اوقات (یعنی طلوع شمس کے وقت، زوال شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت) میں مطلقاً نماز پڑھنا مکروہ اور ممنوع ہے خواہ فرض نماز ہو یا نفل ہو۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان اوقات میں فرض نماز تو ہر جگہ جائز ہے اور مکہ میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنا جائز ہے۔

جواز فرائض کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ حدیث ہے من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها کہ جو شخص نماز سے سو گیا یا نماز کو بھول گیا تو جب بھی یاد آجائے نماز پڑھ لے کیوں کہ وہی اس کا وقت ہے، اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس حدیث میں مطلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی یاد آئے نماز پڑھ لے، لہذا یہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا اور جب بھی یاد آئے گا سونے اور بھولنے والے شخص کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، خواہ وہ طلوع شمس کا وقت ہو یا اس کے زوال اور غروب کا وقت ہو۔

اور مکہ میں جواز نفل کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کا مضمون یہ ہے یا بنی عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار یعنی اے بنو عبد مناف کسی بھی شخص کو اس گھر کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے مت روکو خواہ وہ کسی بھی وقت نماز پڑھنا چاہے، رات میں ہو یا دن میں، اس حدیث سے بھی تمام اوقات میں نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہو رہا ہے، اس لیے اگر ہم اوقات ثلاثہ میں نماز کی ممانعت کا حکم لگائیں گے تو صلی أية ساعة شاء الخ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھنے کی جواز ت دی ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے دی ہے عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے علاوہ اور دنوں میں نصف النہار کے وقت زوال شمس سے پہلے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اس حدیث میں واضح طور پر جمعہ کے دن کی تخصیص ہے، اس لیے ہم بھی اس تخصیص پر عمل کریں گے اور جمعہ کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھنے کی اجازت دیں گے۔

ہماری دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے ”ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أن نصلي وأن نقبر فيها موتانا الخ اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ جب وضاحت اور صراحت کے ساتھ

آپ ﷺ نے ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمادیا ہے، تو اب اس کے علاوہ ضعیف یا محتمل روایات کا سہارا لے کر ان اوقات میں نماز کے جواز کی اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ حدیث امام شافعی اور امام ابو یوسف دونوں کے خلاف حجت ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت تو اس لیے ہے کہ اس میں اوقات ثلاثہ کی جو ممانعت وارد ہے وہ کسی زمان یا مکان یا کسی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ ہر مکان اور ہر طرح کی نماز کو عام ہے، لہذا فرائض کی تخصیص یا مکہ مکرمہ کی تخصیص کرنا اطلاق حدیث کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کے مترادف ہے جو درست نہیں ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ ثلاثہ اوقات مطلق ہے، لہذا یہ ہر دن کے ثلاثہ اوقات کو شامل ہے، اور اس سے جمعہ وغیرہ کی تخصیص کرنا صحیح نہیں ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث من نام عن صلاة الخ کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے اوقات ثلاثہ میں نماز کا جواز ثابت ہو رہا ہے اور ہماری پیش کردہ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث سے ان اوقات میں نماز کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے، گویا یہاں میخ اور محرم کا اجتماع ہے اور فقہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں میخ اور محرم دونوں جمع ہو جائیں تو محرم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، إذا اجتمع الحلال والحرام أو المحرم والمسيح غلب الحرام والمحرم“ لہذا یہاں بھی دلیل محرم کو ترجیح ہوگی اور حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہی پر عمل ہوگا۔

اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب یہی ہے کہ یہ حدیث بھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے معارض ہی نہیں ہو سکتی، کیوں کہ وہ محرم ہے اور یہ میخ ہے۔

اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ إلا یوم الجمعة کا استثناء منقطع ہے، لہذا جب یہ استثناء منقطع ہے تو اس سے ان کا مدعی بھی ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ إلا ولا کے معنی میں ہے جیسے قرآن میں ہے وما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأ اور یہاں بھی إلا خطأ ولا خطأ کے معنی میں ہے اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ (عنا یہ ۲۳۶)

والمراد بقوله الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حدیث عقبہ بن عامر میں أن نقبر سے نماز جنازہ مراد ہے، کیوں کہ ان اوقات میں نماز جنازہ ہی پڑھنے کی ممانعت ہے، دن کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

﴿قَالَ وَلَا صَلَاةَ جَنَازَةٍ﴾ لِمَا رَوَيْنَا، ﴿وَلَا سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ﴾ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ، ﴿إِلَّا عَصَرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ﴾ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْءُ الْقَائِمُ مِنَ الْوَقْتِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالْكُلِّ لَوَجَبَ الْإِدَاءُ بَعْدَهُ، وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْجُزْءِ الْمَاضِي فَلَمُودِي فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَاضٍ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَذَاهَا كَمَا وَجَبَتْ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ كَامِلَةً فَلَا تَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ، قَالَ رحمۃ اللہ علیہ وَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ

الْجَنَازَةِ وَسُجْدَةَ التَّلَاوَةِ الْكُرَاهَةَ، حَتَّىٰ لَوْ صَلَّىٰ فِيهَا أَوْ تَلَا سُجْدَةً فِيهَا وَسَجَدَهَا جَازًا، لِأَنَّهَا أُدِّيَتْ نَاقِصَةً  
كَمَا وَجَبَتْ، إِذِ الْوُجُوبُ بِحُضُورِ الْجَنَازَةِ وَالتَّلَاوَةِ.

**ترجمہ:** اور (ان اوقات میں) نماز جنازہ بھی نہ پڑھے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی اور سجدہ تلاوت بھی نہ کرے، کیوں کہ وہ نماز ہی کے معنی میں ہے، سوائے اسی دن کی عصر کے غروب کے وقت، کیوں کہ نماز کا سبب وہی جز ہے جو وقت سے بچا ہے، اس لیے کہ اگر سبب کوکل وقت سے متعلق کر دیا جائے تو وقت کے بعد ادا کرنا واجب ہوگا اور اگر سبب کو گزرے ہوئے وقت سے متعلق کریں تو آخری وقت میں نماز ادا کرنے والا قضاء کرنے والا ہوگا۔ لہذا جب یہ صورت حال ہے تو (غروب کے وقت) نماز پڑھنے والے نے ویسا ہی ادا کی جیسی وہ واجب ہوئی تھی۔ برخلاف اس کے علاوہ دیگر نمازوں کے، کیوں کہ وہ کامل واجب ہوئی ہیں، لہذا ناقص وقت سے ادا نہیں کی جائیں گی۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت میں جو نفی مذکور ہے اس سے کراہت مراد ہے حتیٰ کہ اگر ان اوقات میں سے کسی وقت میں کسی نے نماز جنازہ پڑھ لیا، یا اس وقت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کر لیا تو جائز ہے۔ کیوں کہ جس طرح یہ ناقص واجب ہوئی تھیں اسی طرح ناقص ادا بھی کی گئیں، اس لیے کہ وجوب تو جنازہ حاضر ہونے اور تلاوت کرنے سے ثابت ہو چکا ہے۔

### وقت ناقص میں نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور اسی دن کی عصر کے فرض ادا کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اوقات ثلاثہ میں رکوع سجدہ والی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اسی طرح نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کرنے کی بھی ممانعت ہے، نماز جنازہ کی ممانعت پر تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کی حدیث دلیل ہے اور پھر صاحب ہدایہ نے بھی یہ وضاحت کر دی ہے کہ ان فقہوں سے صلاۃ جنازہ مراد ہے۔

اور سجدہ تلاوت کے عدم جواز اور ممانعت کی دلیل یہ ہے کہ شرائط اور اوصاف کے حوالے سے سجدہ تلاوت نماز کا ہم معنی ہے اور جب سجدہ تلاوت نماز کا ہم معنی ہے تو وہ نماز کی ممانعت کے تحت داخل ہوگا، اور چوں کہ اوقات ثلاثہ میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لہذا ان اوقات میں سجدہ تلاوت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔

إلاّ عصر یومہ الخ یہ عبارت ولا عند غروبها سے مستثنیٰ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بوقت غروب نماز پڑھنے اور سجدہ تلاوت ادا کرنے کی ممانعت ہے، لیکن اسی دن کی نماز عصر اس حکم سے خارج اور مستثنیٰ ہے اور اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ غروب شمس ہونے لگا تو اس کے لیے غروب کے وقت اسی دن کی نماز عصر پڑھنا جائز ہے، لیکن دوسری کوئی نماز یا عصر کی قضاء نماز اس وقت میں پڑھنا ممنوع ہے۔

غروب شمس کے وقت عصر الیوم پڑھنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وجوب نماز کا سبب یا تو پورا وقت ہے یا وقت کا وہ جزء ہے جو گزر گیا، یا وقت کا وہ جزء ہے جو کچھ وقت گزرنے کے بعد باقی رہتا ہے، اب

یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو کل وقت کو سبب قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی گذرے ہوئے وقت کو سبب قرار دے سکتے ہیں، کیوں کہ اگر کل وقت کو سبب قرار دیں گے تو نماز کا وقت کے بعد ادا ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ جب کل وقت نماز کا سبب ہوگا اور سبب کے بعد ہی سبب کا وجود ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وقت گذرنے کے بعد ہی نماز کی ادائیگی ہو سکے گی اور یہ صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح گذرے ہوئے جزء کو بھی سبب نہیں قرار دیا جاسکتا، کیوں کہ اگر کوئی شخص آخر وقت میں نماز ادا کرے گا تو گذرے ہوئے جزء کو سبب قرار دینے کی صورت میں اسے ادا کرنے والا نہیں، بل کہ قضاء کرنے والا کہیں گے، حالانکہ بہر حال وہ ادا کرنے والا ہے، اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ نہ تو کل وقت کو نماز کا سبب قرار دیا جائے گا اور نہ ہی وقت کے گذرے ہوئے جزء کو، اس لیے نماز کا سبب وقت کا وہ جزء ہوگا جو اداء سے متصل ہوگا اور صورت مسئلہ میں چونکہ ادا سے متصل جزء ناقص ہے، اس لیے نماز بھی ناقص ہی ادا کی جائے گی، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی سبب ہوتا ہے، اور یہاں سبب ناقص ہے، اس لیے سبب بھی ناقص رہے گا اور غروب شمس کے وقت نماز ادا کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ اور نمازوں کو غروب یا طلوع یا زوال کے وقت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ کامل اسباب کے ساتھ واجب ہوئی ہیں، لہذا ناقص وقت میں ان کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔

قال والمراد بالنفي النخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو اوقات ثلاثہ میں نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت سے منع کیا گیا ہے اس سے کراہت مراد ہے یعنی ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور سجدہ تلاوت ادا کرنا خلاف اولیٰ ہے، تاہم اگر کسی نے کر لیا تو بہر حال یہ جائز ہے اور کرنے والے کے ذمے سے بری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نماز جنازہ کے وجوب کا سبب اس کا موجود ہونا ہے اور سجدہ تلاوت کے وجوب کا سبب قرآن پڑھنا اور تلاوت کرنا ہے، لہذا جب بھی یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کی ادائیگی ضروری ہوگی، خواہ ناقص وقت میں پائی جائیں یا کامل وقت میں۔

﴿وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ﴾ لِمَا رَوَى أَنَّهُ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتِ وَيَسْجُدَ لِلتَّلَاوَةِ وَيُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ، لِأَنَّ الْكِرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرَضِ لِصِغَرِ الْوَقْتِ كَالْمَشْغُولِ بِهِ، لَا لِمَعْنَى فِي الْوَقْتِ فَلَمْ تَطْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ، وَفِيمَا وَجَبَ لِعَيْنِهِ كَسَجْدَةِ التَّلَاوَةِ، وَظَهَرَ فِي حَقِّ الْمُنْدُورِ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وَجُوبُهُ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَفِي حَقِّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَفِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ، لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ وَهُوَ خَتَمُ الطَّوَافِ وَصِيَانَةُ الْمُؤَدَّى عَنِ الْبُطْلَانِ .

ترجمہ: اور فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اور عصر کے بعد بھی مکروہ ہے، یہاں تک

کہ سورج ڈوب جائے اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص ان دونوں وقتوں میں قضاء نمازیں پڑھے، کیوں کہ کراہت حق فرض کی وہ تھی، تاکہ پورا وقت فرض میں مشغول ہونے کی طرح ہو جائے، نہ کہ کسی ایسے معنی کی وجہ سے (کراہت تھی) جو وقت میں ہو، لہذا یہ کراہت فرائض کے حق میں ظاہر نہیں ہوئی اور نہ ہی ان چیزوں کے حق میں ظاہر ہوئی جو بالذات واجب ہیں، جیسے سجدہ تلاوت، البتہ یہ کراہت مندور کے حق میں ظاہر ہوگی، اس لیے کہ اس کا وجوب ایسے سبب کے ساتھ متعلق ہے جو نذر ماننے والے کی طرف سے ہے۔ اور طواف کی دو رکعتوں کے حق میں بھی (کراہت) ظاہر ہوگی اور ہر اس نماز کے حق میں ظاہر ہوگی جس کو مصلی شروع کر کے فاسد کر دے، کیوں کہ ان میں وجوب لغیرہ ہے اور وہ طواف کو ختم کرنا اور ادا کی جانے والی نماز کو باطل ہونے سے بچانا ہے۔

## اللغات:

﴿مَنْدُورٌ﴾ نذر کا، منت مانا ہوا۔ ﴿صِيَانَةٌ﴾ حفاظت، بچاؤ۔

## تخریج:

① اخرجہ البخاری فی کتاب مواقیب الصلاة باب الصلاة بعد الفجر، حدیث رقم: ۵۸۱۔

و ابوداؤد فی کتاب التطوع باب من رخص فیہما اذا كانت الشمس مرتفعة، حدیث رقم: ۱۲۷۴۔۱۲۷۵۔

## نفل نماز مکروہ ہونے کے اوقات کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ آپ ﷺ نے ان دونوں وقتوں میں نوافل سے منع فرمایا ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث منقول ہے ان رسول اللہ ﷺ نےھی عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب“ اس حدیث میں صاف طور پر فجر بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر بعد سے غروب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔

ولا بأس الخ فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، اگر کوئی شخص ان اوقات میں قضاء نمازیں پڑھے یا سجدہ تلاوت کرے یا جنازے کی نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں اس کے لیے جائز اور صحیح ہیں، کیوں کہ ان اوقات میں نوافل پڑھنے کی جو ممانعت ہے وہ حق فرض کی وجہ سے ہے تاکہ پورا کا پورا وقت اسی فرض میں مشغول رہے، لہذا یہ کراہت فرائض کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی اور ان چیزوں کے حق میں بھی ظاہر نہیں ہوگی جو بالذات اور بالعمین واجب ہیں اور ان کے وجوب میں بندے کا دخل نہیں ہے، جیسے سجدہ تلاوت، اس لیے کہ سجدہ تلاوت کا وجوب بندے کے فعل پر موقوف نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اسی طرح آیت سجدہ سننے سے بھی اس کا وجوب ہو جاتا ہے، ہر چند کہ انسان سننے کا قصد نہ کرے۔ اور جیسے نماز جنازہ، اس لیے کہ اس کا وجوب بھی بندے کے فعل پر موقوف نہیں ہے اور یہ بھی واجب لعینہ ہے۔

البتہ وہ چیزیں جن کا وجوب بغیرہ ہے اور ان کا تعلق بندے کے فعل سے ہے ان تمام چیزوں میں یہ کراہت ظاہر ہوگی جیسے نذر مانی ہوئی نماز، طواف کے بعد کی دو رکعتیں اور شروع کر کے باطل کر دی جانے والی نماز، یہ تمام چیزیں چونکہ بندے کے فعل پر موقوف ہیں اور ان کے وجوب کا سبب بھی بندے ہی کی طرف سے متحقق ہوتا ہے، اس لیے یہ چیزیں واجب بغیرہ ہوں گی اور ان کے حق میں کراہت کا ظہور ہوگا، لہذا نہ تو عصر اور فجر کے بعد نذر مانی ہوئی نماز ادا کرنا درست ہے، اس لیے کہ نذر ماننا بندے کا فعل ہے، لہذا یہ واجب بغیرہ ہے، نہ ہی طواف کے بعد کی دو رکعتوں کا پڑھنا صحیح ہے، کیوں کہ یہ بھی بندے کے فعل یعنی طواف کرنے پر موقوف ہے، اور نہ ہی شروع کر کے فاسد کر دی جانے والی نفل کی قضاء ان اوقات میں درست ہے، کیوں کہ یہ بھی بندے کے اپنے ہی فعل کے سبب واجب ہوئی ہے۔

﴿وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَقَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرِ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ﴾ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَعَ حَرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ، ﴿وَلَا يَتَنَقَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرَضِ﴾ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ، ﴿وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ﴾ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِسْتِغَالِ عَنِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ.

**ترجمہ:** اور طلوع فجر کے بعد فجر کی رکعتوں سے زائد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ نماز کے بے انتہاء شوقین ہونے کے باوجود آپ ﷺ نے کبھی ان دو رکعتوں پر اضافہ نہیں فرمایا۔ اور غروب شمس کے بعد فرض سے پہلے بھی کوئی شخص نفل نماز نہ پڑھے، کیوں کہ ایسا کرنے میں مغرب کی تاخیر ہے، اور جمعہ کے دن جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلے تو بھی نفل نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ اس میں خطبہ سننے کے علاوہ دوسرے کام میں مشغول ہونا پایا جاتا ہے۔

## اللَّغَاتُ:

﴿حَرْصٌ﴾ کثرت شوق۔

## تَخْرِيجُ:

① اخراجہ دارقطنی فی کتاب الصلاة باب لا صلوة بعد الفجر الاسجدتین حدیث ۱۵۳۵.

## تَوْضِيحُ:

① مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ مزید نوافل نہیں پڑھنی چاہئیں، اس لیے کہ آپ ﷺ پوری امت میں سب سے زیادہ نماز کے عاشق تھے، اس کے باوجود آپ ﷺ نے کبھی ان پر اضافہ نہیں کیا۔ حاشیہ ہدایہ میں شیخ الاسلام کے حوالے سے ایک وجہ یہ تحریر کی گئی ہے کہ صبح صادق کے بعد دو رکعت سے زیادہ پڑھنے کی ممانعت فجر کی سنتوں ہی کی وجہ سے ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بہ نیت نفل بھی کوئی شخص دو رکعت پڑھے گا تو بھی وہ رکعتی الفجر ہی میں سے شمار کی جائیں گی، اس لیے خواہ مخواہ ہی ضیاع وقت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ (ہدایہ ص ۸۶ حاشیہ ۹)

② دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں مغرب کو مؤخر کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ مغرب کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، لہذا حصول نفل کی وجہ سے فرض کو کراہت کے ساتھ ادا کرنا کیسے صحیح ہوگا؟

③ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب امام جمعہ خطبہ دینے کے لیے نکلے اور کھڑا ہو تو اس وقت بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے۔ اور ظاہر ہے نوافل میں لگنے کی وجہ سے استماع فوت ہوگا اور ادائے نفل کی وجہ سے واجب کو ترک کرنا درست نہیں ہے۔





# بَابُ الْأُذَانِ

## یہ باب احکامِ اذان کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے موافقت کو بیان فرمایا ہے اور اب یہاں سے اذان کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، ان دونوں کو یکے بعد دیگرے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اذان ہی سبب صلاۃ یعنی وقت صلاۃ کے دخول کا اعلان ہے، اس لیے پہلے وقت کو بیان کیا گیا اور اب اعلان کو بیان کیا جا رہا ہے۔

### اذان کے لغوی معنی:

مطلق اعلان کو لغت میں اذان کہا جاتا ہے۔

### اذان کے شرعی معنی:

الإعلام بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة على صفة مخصوصة یعنی مخصوص طریقے پر مخصوص الفاظ کے ذریعے نماز کے اعلان کا نام اذان ہے۔

جمہور محدثین و مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ اذان کی مشروعیت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ ہجرت کے کون سے سال اذان سکھائی گئی، اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ تعلیم اذان کا واقعہ ۲ھ میں پیش آیا، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ ۱ھ میں پیش آیا۔

اذان کی مشروعیت کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مختلف مقامات پر جا کر آباد ہو گئے اور جماعت میں بیک وقت سب کا حاضر ہونا دشوار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک ساتھ حاضر ہونے کے سلسلے میں تبادلہ خیال فرمایا، چنانچہ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے اسے دیکھ کر سب لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں، لیکن یہ رائے پسند نہیں کی گئی اور علت یہ بیان کی گئی کہ اس سے صرف وہی لوگ مسجد میں حاضر ہو سکیں گے جو جھنڈا دیکھیں گے، اور جھنڈا نہ دیکھنے والوں کے لیے حاضر ہونے کا مسئلہ برقرار رہے گا۔

کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ نماز کے وقت آگ روشن کر دی جائے اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں آ جایا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کی مشابہت کی وجہ سے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔

کسی نے کہا کہ نماز کے وقت سٹکھ میں پھونک ماری جائے اس کی آواز سے لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں گے، لیکن یہ تجویز بھی یہودی مشابہت کے پیش نظر نامنظور کر دی گئی، اخیر میں ایک رائے یہ ہوئی کہ ناقوس بجایا جائے (یعنی ایک بڑی لکڑی کو لے کر اس پر چھوٹی لکڑی سے مارا جائے) لیکن چونکہ اس میں نصاریٰ کی مشابہت تھی، اس لیے یہ رائے بھی ناپاس قرار دیدی گئی۔  
خلاصہ یہ ہے کہ اس مینٹنگ میں نماز کے وقت لوگوں کے جمع ہونے کے حوالے سے کوئی حتمی قرارداد منظور نہیں ہو پائی، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، ہر ایک اس سلسلے میں حیران و سرگرداں تھا، اور اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی حل سامنے آجائے۔

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ بھی اس مینٹنگ میں موجود تھے اور انھیں اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی فکر تھی، چنانچہ وہ اپنے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے شام کا کھانا پیش کیا لیکن عبداللہ بن زید نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ اصحاب رسول نماز کے سلسلے میں ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میری آنکھ لگی اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک آدمی اُترا جس کے جسم پر سبز رنگ کی دو چادریں تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا، میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس پیچو گے؟ اس نے پوچھا تم اسے لے کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اسے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر جاؤں گا اور اس کے ذریعے نماز کے وقت کی اطلاع دی جائے گی، اس آدمی نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا ہاں ضرور بتلائیے، چنانچہ وہ شخص ایک دیوار کے کنارے قبلہ رخ منہ کر کے کھڑا ہوا اور اذان کے پورے کلمات بیان کیے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صبح کو نبی کریم ﷺ سے میں نے اس خواب کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”إِنَّهُ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَالْقَهَا إِلَىٰ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْدَىٰ وَأَمْدٌ صَوْتًا مَنكٌ وَمَرَهُ يَنَادِي بِهٖ“ یعنی یہ بڑا سچا خواب ہے، تم حضرت بلالؓ کو یہ کلمات بتاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ان کلمات کو ادا کریں، کیوں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں تک حضرت بلالؓ کی یہ آواز پہنچی تو وہ بھی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، بخدا میرے ساتھ بھی رات کو یعنی یہی معاملہ پیش آیا ہے، لیکن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اس سلسلے میں مجھ سے سبقت حاصل کر لی، اس پر اللہ کے نبی نے اپنے پاک پروردگار کا شکر یہ ادا کیا اور اس طرح نماز کے اوقات کا مسئلہ حل ہو گیا۔ (بحوالہ بدائع الصنائع ج: ۱، ص ۳۶۵)

﴿الْأَذَانُ سُنَّةٌ ① لِلصَّلَاةِ الْخُمْسَةِ وَالْجُمُعَةِ، لِأَسْوَأَهَا﴾ لِلنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، وَصِفَةُ الْأَذَانِ مَعْرُوفَةٌ وَهُوَ كَمَا أَدَّنَ الْمَلِكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ .

**ترجمہ:** پانچوں نمازوں اور جمعہ کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے، نقل متواتر کی وجہ سے۔ اور اذان کا طریقہ مشہور ہے اور وہ اسی طرح ہے جس طرح آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے اذان دی تھی۔

**تخریج:**

## اذان کی حیثیت اور طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رائج قول کی بنیاد پر اذان سنت مؤکدہ ہے اور پانچوں نمازوں نیز جمعہ کے لیے اذان مشروع ہے، ان کے علاوہ دیگر نمازیں مثلاً عیدین، نماز جنازہ، نماز کسوف و خسوف اور وتر وغیرہ کے لیے اذان مشروع نہیں ہے، اذان کی یہ مشروعیت نقل متواتر کے پیش نظر ہے، یعنی صلوات خمسہ اور جمعہ کے لیے اذان کی مشروعیت اس قدر کثیر روایات سے ثابت ہے اور ایسے معتد اور ثقہ راویوں سے مروی ہے جو تواتر کی حد تک جا پہنچی ہے اور اب اس میں کسی کے لیے پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اذان کا طریقہ بھی وہی مشہور طریقہ ہے جس طریقہ پر آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے اذان دی تھی۔

## فائدہ:

یہاں دو باتیں قابل ذکر بھی ہیں اور لائق توجہ بھی (۱) پہلی بات یہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ ہے اور یہی صحیح ہے، اس سلسلے میں بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ اذان واجب ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، دراصل ان حضرات کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی اس روایت سے دھوکہ ہو گیا جس میں انھوں نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اگر تمام اہل شہر اذان کو ترک کر دیں تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ اور عموماً ترک واجب ہی پر قتال کیا جاتا ہے، اس لیے اذان بھی واجب ہونی چاہیے۔ صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ترک اذان پر جو قتال کرنے کی بات کہی ہے وہ اذان کے واجب ہونے کی وجہ سے نہیں کہی ہے، بل کہ اس وجہ سے کہی ہے کہ ترک اذان پر اصرار کرنے کی وجہ سے دین کی تذلیل و توہین ہے اور دین کی اہانت کرنے والے ناعاقبت اندیشوں سے قتال ضروری ہے۔ (۲۳۳/۱)

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ صاحب کتاب نے یہاں خاص طور پر جمعہ کا تذکرہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ جس طرح جمعہ کے لیے اذان عام، امام، شہر اور دیگر شرائط ضروری ہیں اور جمعہ کے لیے اذان مشروع ہے، تو اسی طرح عیدین کے لیے بھی شرائط جمعہ ثابت ہیں، لہذا ان میں بھی اذان ہونی چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جمعہ کے لیے دو نبوت سے ہی اذان مشروع ہے جب کہ عیدین وغیرہ کے لیے اسی زمانے سے اذان ثابت نہیں ہے، چنانچہ جابر بن سمرہ کا بیان ہے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید غیر مرة ولا مرتین بغیر اذان ولا إقامة یعنی میں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذان و اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھی ہے۔ (فتح القدیر ۲۳۳/۱)

﴿وَلَا تَرْجِعَ فِيهِ﴾ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمۃ اللہ علیہ فِيهِ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي مَحْدُورَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرَهُ بِالتَّرْجِيعِ، وَلَنَا أَنَّهُ لَا تَرْجِيعَ فِي الْمَشَاهِيرِ، وَكَانَ مَارَوَاهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا.

**ترجمہ:** اور اذان میں ترجیع نہیں ہے اور ترجیع یہ ہے کہ موذن (کلمات اذان کو) لوٹائے چنانچہ شہادتین کو آہستہ آواز سے کہنے کے بعد بلند آواز سے کہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیع ہے، حضرت ابو محذورہ کی حدیث کی وجہ سے کہ:



﴿وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ﴾ لِأَنَّ بِلَالَ رضي الله عنه قَالَ ① الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ حِينَ وَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَاقِدًا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَحْسَنَ هَذَا يَا بِلَالُ، إِجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ، وَحَصَّ الْفَجْرُ بِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَعَقْلَةٍ.

**ترجمہ:** اور (اذان کہنے والا) فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرے، اس لیے کہ حضرت بلال رضي الله عنه نے جب آپ صلى الله عليه وسلم کو سوتا ہوا پایا تو یوں کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، اس پر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، اے بلال یہ بڑا اچھا جملہ ہے اسے تم اپنی اذان میں شامل کر لو۔ اور فجر کی اذان کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا، کیوں کہ وہ سونے اور غفلت کا وقت ہے۔

### اللغات:

﴿راقدا﴾ سویا ہوا، نام۔

### تخریج:

- ① اخرجہ طبرانی فی معجم الکبیر حدیث رقم ۱۰۸۱ و ایضاً.  
ابن ماجہ فی کتاب الاذان باب السنۃ فی الاذان حدیث رقم ۸۱۶.

### فجر کی اذان میں اضافے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے، اور اس اضافے کے مستحب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت بلال رضي الله عنه فجر کی اذان دے کر حضرت عائشہ رضي الله عنها کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا الصلاۃ یارسول اللہ، اس پر حضرت عائشہ رضي الله عنها نے فرمایا الرسول نام یعنی آپ صلى الله عليه وسلم کو خواب ہیں، اس پر حضرت بلال رضي الله عنه نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، جب آپ بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضي الله عنها نے آپ کو یہ قصہ سنایا، آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ اسے اپنی اذان میں شامل کر لیں۔ (عنا یہ ۲۳۶۱)

رہا یہ سوال کہ یہ زیادتی صرف اذان فجر کے ساتھ خاص کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کا وقت سونے اور غفلت میں پڑے رہنے کا وقت ہے، اسی لیے اسے اس وقت کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بقول صاحب عنایہ الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا واقعہ بھی چون کہ فجر ہی کے ساتھ پیش آیا تھا، اس وجہ سے بھی فجر کی اذان ہی اس اضافے کے الحاق کی زیادہ حق دار ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ﴾ هَكَذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ: أَنَّهَا فُرَادَى فُرَادَى إِلَّا قَوْلُهُ قَدْ قَامَتِ

## الصَّلَاةُ.

**ترجمہ:** اور اقامت اذان ہی کی طرح ہے، مگر مؤذن اقامت میں حیّ علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ قد قامت الصلاة کا اضافہ کرے، آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے ایسا ہی کیا تھا اور یہی مشہور ہے، پھر یہ قد قامت الصلاة کے علاوہ باقی کلمات اقامت کو فرادئی فرادی کہنے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے۔

## اللغات:

﴿فرادی﴾ اکیلا اکیلا، تنہا تنہا۔

## تخریج:

① اخرجه ابوداؤد فی کتاب الصلوة باب کیف الاذان حدیث رقم ۴۹۹.

## اقامت کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جس طرح دو دو مرتبہ اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں اسی طرح دو دو مرتبہ اقامت کے کلمات بھی کہے جائیں گے، البتہ اقامت میں حیّ علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ قد قامت الصلاة کا اضافہ بھی کیا جائے گا، یہ حکم ہمارے یہاں ہے اور اس حکم کی دلیل یہ ہے کہ اذان و اقامت کی تعلیم دینے والے فرشتے نے اسی طرح اقامت کہی تھی، لہذا ہمارے لیے اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ قد قامت الصلاة کے علاوہ اقامت کے جملہ کلمات ایک ایک مرتبہ کہے جائیں، البتہ قد قامت الصلاة کو ان کے یہاں بھی دو مرتبہ کہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کلمات اذان کو دو دو مرتبہ کہنے اور اقامت کو ایک ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا تھا۔ مگر ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے سلسلے میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند روایت آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے کی ہے اور چونکہ اس فرشتے نے اذان ہی کی طرح کلمات اقامت کو بھی دو دو مرتبہ کہا تھا، اس لیے اس کا یہ فعل اس باب میں اصل الاصول ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے بھی الگ نظریات قائم ہوں گے ان سب کے خلاف حجت اور دلیل ہوگا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا حضرت انس سے کلمات اذان کو دو دو مرتبہ اور کلمات اقامت کو ایک مرتبہ کہنا منقول ہے وہ دراصل آواز پر محمول ہے، یعنی حضرت انس کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں کلمات اذان میں سے ہر ہر کلمہ کو الگ الگ آواز سے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، جب کہ اقامت کے دونوں کلموں کو ایک ہی آواز سے ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔

﴿وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ فِي الْإِقَامَةِ﴾ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَدَّنتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَهَذَا

بَيَانُ الْاِسْتِحْبَابِ .

**ترجمہ:** اور مؤذن اذان میں ترسل کرے اور اقامت میں حدر کرے، کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے جب تم اذان دو تو ترسل کرو اور جب اقامت کہو تو حدر کرو، اور یہ استحباب کا بیان ہے۔

**اللغات:**

﴿يَتْرُسَلُ﴾ باب تفعل؛ کوشش کر کے آواز لمبی کر کے الفاظ ادا کرنا، بھمبر بھمبر کے پڑھنا۔ ﴿يَحْدُرُ﴾ باب نصر؛ جلدی

جلدی پڑھنا۔

**تخریج:**

① اخرجہ الترمذی کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء فی الترسل فی الاذان حدیث رقم ۱۹۵.

**اذان و اقامت کی ادائیگی کی رفتار کی وضاحت:**

فرماتے ہیں کہ مؤذن کے لیے اذان میں ترسل کرنا اور مکبر کے لیے اقامت میں حدر کرنا مسنون ہے۔ ترسل کی تعریف یہ ہے کہ اذان کے دو کلموں کے مابین سکتے کے ساتھ فصل کرے، اور حدر یہ ہے کہ اقامت کے دو کلموں کے مابین فصل نہ کرے بل کہ یک ہی سانس اور ایک ہی آواز میں دونوں کو ادا کرے۔ (عناہ ۲۳۸/۱)

ترسل اور حدر کے مسنون ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے یعنی إذا أذنت الخ صاحب ہدایہ نے تو امر کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ یہ مسنون ہے، کیوں کہ اذان میں ترسل اور اقامت میں حدر تو اتر سے ثابت ہے۔

وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ ﴿لِأَنَّ النَّارِ﴾ ① مِنَ السَّمَاءِ أَدْنَىٰ مُسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ، وَلَوْ تَرَكَ الْاِسْتِقْبَالَ جَازًا لِحُصُولِ الْمَفْصُولِ، وَيُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، ﴿وَيُحَوَّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يُمْنَةً وَيُسْرَةً﴾ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَبَوَّأَهُمْ، ﴿وَإِنْ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ﴾ وَمَرَادُهُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تَحْوِيلَ الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَعَ ثَبَاتِ وَجْهِهِ مَكَانَهُمَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ بَأَنَّ كَانَتْ الصَّوْمَعَةُ مُتَّسِعَةً، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا.

**ترجمہ:** اور اذان و اقامت میں استقبال قبلہ بھی کرے، اس لیے کہ آسمان سے اترنے والے فرشتے نے قبلہ رو ہو کر ہی اذان دی تھی۔ اور اگر استقبال کو ترک کر دیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا، البتہ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مکروہ ہے، اور حتیٰ علی الصلاۃ اور حتیٰ علی الفلاح کہتے وقت مؤذن دائیں بائیں جانب اپنا چہرہ پھیرے، کیوں کہ یہ قوم سے خطاب ہے، لہذا مؤذن ان کی مواجہت کرے۔

اور اگر مؤذن اپنے صومعہ میں گھوم جائے تو یہ بھی اچھا ہے، اور اس سے امام محمد رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ جب سنت طریقتہ کے مطابق دونوں قدموں کو اپنی جگہ جمائے رکھنے کے ساتھ دائیں بائیں جانب چہرہ پھیرنا ممکن نہ ہو (تو صومعہ میں گھوم جائے)

بایں طور کہ صومعہ کشادہ ہو۔ لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔

## اللغات:

﴿يَسْتَقْبِلُ﴾ باب استفعال؛ منہ کے سامنے کرنا۔ ﴿يُحَوِّلُ﴾ باب تفعیل؛ پھیرنا، گھمانا۔ ﴿يُؤَاجِهُ﴾ آنے  
سامنے ہونا۔ ﴿اِسْتَدَارَ﴾ باب استفعال؛ گھومنا، پھرنا۔ ﴿صَوْمَعَةٌ﴾ کوٹھڑی، کیمین۔ ﴿مَأَذَنَةٌ﴾ اذان دینے کا برج۔

## تخریج:

① اخرجه ابوداؤد كتاب الصلوة باب كيف الاذان حديث رقم ۵۰۷.

## اذان کی سنتیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کے لیے اذان واقامت میں قبلہ رخ منہ کرنا بھی مسنون ہے، کیوں کہ آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے قبلہ رخ ہو کر اذان دی تھی اور اس باب میں عمل کا دارومدار اسی فرشتے کے فعل پر ہے، لہذا جو اس نے کیا ہے وہ دیگر مؤذنین کے لیے بھی حجت ہے۔ اور یہ عمل چوں کہ مسنون ہے اس لیے اگر کسی نے استقبال قبلہ ترک کر دیا تو جائز تو ہے، لیکن مخالفت سنت کی وجہ سے مکروہ ہے، جائز اس لیے ہے کہ اذان کا مقصد اعلان اور اعلام ہے اور ترک استقبال اس سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ استقبال قبلہ کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔

البتہ مؤذن اذان میں جب حیّ علی الصلاۃ اور حیّ علی الفلاح کے کلمات پر پہنچے تو دائیں بائیں جانب اپنے چہرے کو گھمائے یعنی حیّ علی الصلاۃ میں دائیں طرف اور حیّ علی الفلاح میں بائیں طرف گھمائے، کیوں کہ ان کلمات سے وہ قوم سے خطاب کرتا ہے، لہذا ان کی مواجہت ضروری ہے، تاکہ علی وجہ الکمال خطاب ہو جائے اور کما حقہ پیغام خداوندی پہنچایا جاسکے۔

وان استدار الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مانک وغیرہ کا نظم نہیں تھا اور مؤذن بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہتا تھا، یہ جگہ عام طور پر مناروں کی طرح بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں آواز گونجتی تھی، اس لیے اذان کے لیے اس طرح کا نظم کیا جاتا تھا، اور اس جگہ کو عربی میں صومعہ کہا جاتا ہے، اور مؤذن جب حیّ علی الصلاۃ اور حیّ علی الفلاح پر پہنچتا تھا تو اسی صومعہ میں لگے ہوئے جھروکوں سے اپنا سر نکال کر یہ کلمات ادا کرتا تھا، تاکہ پوری کی پوری آواز باہر تک پہنچ جائے۔ جب صومعہ چھوٹا ہوتا ہے تب تو بہ آسانی اس کے جھروکے اور موکلے سے سر نکال کر باہر تک آواز پہنچائی جاسکتی ہے، لیکن اگر صومعہ کشادہ ہو اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر مؤذن کے لیے آواز پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں حیّ علی الصلاۃ اور حیّ علی الفلاح کے وقت صومعہ کے اندر ہی دائیں بائیں جانب چہرہ گھمالینا کافی ہے اور یہی طریقہ مستحسن ہے، لیکن اگر اپنی جگہ کھڑے ہو کر صومعہ کے جھروکے سے سر نکال کر آواز پہنچانا ممکن ہو تو پھر صومعہ میں گھومنا مستحسن نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ صومعہ کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب صومعہ کشادہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے جھروکے اور موکلے دور ہوں گے اور اپنی جگہ کھڑے کھڑے مؤذن کو صومعہ سے سر نکالنا ناممکن ہوگا، ہدایہ کی عبارت وان استدار سے آخر تک کا یہی



مفہوم ہے۔

﴿وَالْأَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ﴾ بِذَلِكَ أَمَرَ ① النَّبِيُّ ﷺ بِاللَّامِ بِاللَّهِ، وَرَلَانَهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ، ﴿وَأِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ﴾ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ.

**ترجمہ:** اور مؤذن کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کر لے، (اس لیے کہ) آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی کا حکم دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ طریقہ اعلام میں زیادہ کامل ہے۔ اور اگر مؤذن نے ایسا نہیں کیا تب بھی اچھا ہے، کیوں کہ یہ اصلی سنت نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿إِعْلَامٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال؛ اطلاع دینا، علم دینا۔

### تخریج:

① اخرجہ ابن ماجہ، کتاب الاذان، باب السنۃ فی الاذان حدیث رقم ۷۱۰.

### اذان کے مستحبات:

مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کے لیے اذان دیتے وقت اپنی سببہ والی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر کے اذان دینا افضل اور بہتر ہے، اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا حکم دیا تھا چنانچہ مروی ہے کہ ”ان النبی ﷺ امر بلالاً ان یدخل اصبغیہ فی اذنیہ وقال إنه ارفع لصوتک“ یعنی آپ ﷺ نے حضرت بلال کو کانوں میں انگلیاں داخل کرنے کا حکم دیا اور یوں فرمایا کہ یہ عمل تمہاری آواز کو اور بھی زیادہ بلند کرنے والا ہے، اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اذان کا مقصد اعلام ہے اور چونکہ کانوں میں انگلیاں داخل کرنے سے کامل طور پر اعلام حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل بہتر ہوگا۔

وإن لم یفعل الخ فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن نے یہ عمل نہیں کیا اور کانوں میں انگلیاں داخل کیے بغیر ہی اس نے اذان کہہ دی تو فحسَن، اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، کیوں کہ ادخال اصبعین کوئی اصلی سنت نہیں ہے، لیکن صاحب عنایہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ فحسَن کا فاعل ترک ادخال نہیں ہے، اور نہ ہی تارک ہے، بل کہ اس کا فاعل اذان ہے، یعنی ادخال اصبع کے ساتھ اذان کہنا احسن ہے اور بدون ادخال کے حسن ہے۔

اور ترک وغیرہ کو اس کا فاعل اس لیے نہیں قرار دیا جاسکتا کہ اگرچہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی حدیث میں ادخال اصبع کا ذکر نہیں ہے، مگر چونکہ آپ ﷺ نے حضرت بلال کو اس کا حکم دیا تھا، اس لیے یہ عمل سر اور آنکھوں پر بٹھایا جائے گا اور کسی بھی حال میں اس کا ترک حسن نہیں ہوگا۔ (عنایہ ۲۳۹/۱)

﴿والتَّوْبُ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَسَنٌ، لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَعَفْلَةٍ، وَكُرَّةٍ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ﴾ وَمَعْنَاهُ الْعُودُ إِلَى الْإِعْلَامِ وَهُوَ عَلَى حَسْبِ مَا تَعَارَفُوهُ. وَهَذَا تَوْبُوبٌ أَحَدُهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ لِتَغْيِيرِ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَخَصُّوا الْفَجْرَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالْمُتَأَخِّرُونَ اسْتَحْسِنُوهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِظُهُورِ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَا، قَالَ أَبُو يُوْسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُؤَدِّنُ لِلْأَمِيرِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَاسْتَبَعْدَهُ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّ النَّاسَ سَوَاسِيَةً فِي أَمْرِ الْجَمَاعَةِ، وَأَبُو يُوْسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ لِزِيَادَةِ اسْتِعَالِهِمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا لَا تَفُوتُهُمُ الْجَمَاعَةُ، وَعَلَى هَذَا الْقَاضِي وَالْمُفْتِي .

**ترجمہ:** اور فجر میں تہویب کرنا یعنی اذان و اقامت کے درمیان دو مرتبہ حئی علی الصلاۃ اور حئی علی الفلاح کہنا بہتر ہے، کیوں کہ وہ سونے کا اور غفلت کا وقت ہے۔ اور باقی تمام نمازوں میں تہویب مکروہ ہے۔ اور تہویب کے معنی ہیں دوبارہ اطلاع دینا۔ اور تہویب لوگوں کے عرف کے مطابق ہے۔ اور یہ وہ تہویب ہے جسے عہد صحابہ کے بعد لوگوں کے احوال بدل جانے کی وجہ سے علمائے کوفہ نے ایجاد کیا ہے۔ اور فجر کی نماز کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔

اور دینی امور میں سستی ظاہر ہونے کی وجہ سے متأخرین نے تمام نمازوں میں تہویب کو مستحسن قرار دیا ہے۔ امام ابو یوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ مؤذن تمام نمازوں میں امیر سے یوں کہے السلام عليك ايها الامير ورحمة الله وبركاته، حئی علی الصلاۃ حئی علی الفلاح، الصلاۃ یرحمک اللہ۔ لیکن امام محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے اسے مستبعد سمجھا ہے، کیوں کہ جماعت کے سلسلے میں سارے لوگ برابر ہیں۔

اور امام ابو یوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے امراء کو اس تہویب کے ساتھ خاص کیا ہے، کیوں کہ وہ لوگ مسلمانوں کے معاملات میں بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں (اس لیے ان کے حق میں تہویب مستحسن ہے) تاکہ ان کی جماعت نہ فوت ہو جائے، اور اسی حکم پر قاضی اور مفتی بھی ہیں۔

## اللغات:

﴿تَوْبُوبٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ دہرانا، دوسری بار کرنا۔ ﴿أَحَدْتُ﴾ باب افعال؛ بنانا، گھڑنا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ ﴿اسْتَحْسِنُوا﴾ استحسن يستحسن، باب استفعال؛ اچھا سمجھنا، بہتر خیال کرنا۔ ﴿اسْتَبَعْدَهُ﴾ باب استفعال؛ بعید سمجھنا۔ ﴿سَوَاسِيَةً﴾ اسم جمع، واحد سوا؛ برابر۔ ﴿تَوَانِي﴾ اسم مصدر، باب تفاعل؛ سستی کرنا، کم کوش ہونا۔

## تثویب؛ تعریف اور حکم:

صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ **تثویب** کے لغوی معنی ہیں رجوع کرنا، واپس ہونا، کسی کام کو دوبارہ کرنا، اور **تثویب** کے اصطلاحی معنی ہیں ”العود إلى الإعلام بعد الإعلام“ ایک مرتبہ اطلاع دے کر دوبارہ اطلاع دینا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اصل تثویب تو وہ ہے جو فجر کی اذان میں **حیّ علی الفلاح** کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سے ادا کی جاتی ہے اور جس تثویب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنظر استحسان دیکھ کر حضرت بلالؓ سے فرمایا تھا کہ ”اجعله فی اذانک“ اسے تم اپنی اذان میں داخل اور شامل کرلو، یہ تثویب عہد نبوی سے لے کر دور صحابہ کے اختتام تک جاری رہی اور صرف فجر کی نماز میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، کیوں کہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، لوگ نمازوں کے حریص اور دل دادہ تھے اور بیداری کی حالت میں عمداً نماز میں کوتاہی کا تصور بھی ان کی ذات سے محال تھا۔

لیکن جیسے جیسے خیر القرون سے بعد بڑھتا گیا، لوگوں میں دینی رجحان گھٹتا اور کم ہوتا چلا گیا اور اس قلت کا احساس سب سے پہلے علوم و فنون کے مرکزی شہر کوفہ کے علماء کو ہوا، چنانچہ ان حضرات نے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اذان اور اقامت کے دوران دو دو بار **حیّ علی الصلاۃ** اور **حیّ علی الفلاح** کے کلمات سے اعلام بعد الاعلام کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا اور یہ تثویب محدث معرض وجود میں آئی، چنانچہ دیگر ممالک کے علماء و ائمہ نے فقہائے کوفہ کی اس بدعت حسنہ کو سراہا اور مارا **ال المسلمون حسنا فهو عند الله حسن** کی روشنی میں اسے ہر طرح کی تائید و توثیق حاصل ہو گئی۔

پھر علمائے کوفہ نے بھی اس تثویب کو غفلت اور نیند کے پیش نظر صرف فجر کی نماز کے ساتھ خاص رکھا اور بہت زمانے تک صرف فجر ہی میں تثویب چلتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر حالات میں تغیر پیدا ہوا اور معاشرہ اس قدر خراب ہو گیا کہ لوگ بحالت بیداری بھی نمازوں سے کنارہ کشی اور دینی امور میں سستی کرنے لگے، جس کے پیش نظر علمائے متاخرین نے تمام نمازوں میں تثویب کو مستحسن قرار دے دیا، اور لوگوں کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر یہ حکم جاری کیا کہ تثویب کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے، بل کہ ہر علاقے والے اپنے یہاں کے عرف پر عمل کریں اور جس لفظ سے تثویب کے معنی حاصل ہو جائیں وہ اسی کو اختیار کریں اور اس سے تثویب کا کام انجام دیں۔

جب متاخرین نے تثویب کو اس قدر عام کر دیا تو انھی متاخرین میں سے دوسری صدی ہجری کے نامور فقیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور بالغ نظر قاضی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امراء اور قاضیوں و مفتیوں کے لیے بھی تثویب کا دروازہ کھول دیا اور یہ حکم جاری فرمایا کہ اگر مؤذن ہر نماز میں ان حضرات کے سامنے **آکر السلام علیک ورحمة اللہ وبرکاتہ الخ** کے کلمات کہے تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ یہ حضرات مسلمانوں کے مسائل و معاملات میں اس قدر منہمک اور مشغول رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی اس میں الجھ کر ان کی جماعت فوت ہو جائے، لہذا ان کے حق میں بھی تثویب کی ضرورت ہے، اس لیے میرے نزدیک ان کے لیے تثویب میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خارج از امکان قرار دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ بھائی جماعت اور نماز دین کا کام ہے اور اس کام میں سب لوگ برابر ہیں، لہذا امراء اور قضاة وغیرہ کے لیے الگ سے تثویب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

صاحب فتح القدير علامہ ابن الہمام نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد بیس آیات پڑھنے کے بعد ٹھہرنے کے بعد تھویب کرے، اس کے بعد پھر بیس آیات پڑھنے کی مقدار ٹھہرے اور پھر اقامت کہے۔ (فتح القدير ۲۵۰/۱)

﴿وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ﴾ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ يَجْلِسُ فِي الْمَغْرِبِ أَيْضًا جَلْسَةً خَفِيفَةً، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفُضْلِ، إِذِ الْوَصْلُ مَكْرُوهٌ، وَلَا يَقَعُ الْفُضْلُ بِالسَّكَنَةِ لِوُجُودِهَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ فَيَفْضِلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّأخِيرَ مَكْرُوهٌ فَيَكْتَفِي بِأَدْنَى الْفُضْلِ احْتِرَازًا عَنْهُ، وَالْمَكَانُ فِي مَسْأَلَتِنَا مُخْتَلِفٌ، وَكَذَا النِّعْمَةُ يَقَعُ الْفُضْلُ بِالسَّكَنَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الْخُطْبَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْضِلُ بِرُكْعَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَالْفُرْقُ قَدْ ذَكَرْنَا، قَالَ يَعْقُوبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُؤَدِّنُ فِي الْمَغْرِبِ وَيُقِيمُ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَهَذَا يُفِيدُ مَا قُلْنَا، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ كَوْنُ الْمُؤَدِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُؤَدِّنُ لَكُمْ خِيَارَكُمْ.

**ترجمہ:** اور مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھ جائے، سوائے مغرب کے، اور یہ حکم حضرت امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مغرب میں بھی تھوڑا سا بیٹھ جائے، کیوں کہ فصل ضروری ہے، اور وصل مکروہ ہے۔ اور سکتے کرنے سے فصل نہیں ہوتا، کیوں کہ سکتے تو کلمات اذان کے مابین بھی پایا جاتا ہے، لہذا بیٹھ کر فصل کرے جیسے دونوں خطبوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی دلیل یہ ہے کہ (مغرب میں) تاخیر کرنا مکروہ ہے، لہذا تاخیر سے بچتے ہوئے معمولی سے فصل پر اکتفاء کر لے۔

اور ہمارے مسئلے میں مکان اور آواز دونوں مختلف ہیں، لہذا سکتے سے فصل ہو جائے گا، جب کہ خطبہ ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ دوسری نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے دو رکعتوں سے فصل کرے۔ اور فرق ہم بیان کر چکے ہیں۔ یعقوب (امام ابو یوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کو دیکھا کہ وہ مغرب میں اذان و اقامت کہتے تھے اور اذان و اقامت کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے۔ اور یہ قول ہمارے قول کی تائید کرتا ہے اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ مؤذن کا عالم بالنتہا ہونا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد گرامی ہے ”تمہارے لیے تم میں کا بہترین شخص اذان دے“۔

## اللغات:

﴿خَفِيفَةً﴾ ہلکا، تھوڑا۔ ﴿لَا بُدَّ﴾ ضروری ہوا کہ، ناگزیر ہوا کہ۔ ﴿وَصَلَّ﴾ بغیر فاصلے کے کرنا۔ ﴿نِعْمَةً﴾ آواز، لے۔ ﴿خِيَارٌ﴾ اسم جمع واحد خیر: بہتر، بھلا۔

## تخریج:

## اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھنے کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں اذان اور اقامت کے مابین وقفہ اور فصل کرنا مسنون ہے اور یہ فصل نمازوں کے ذریعے ہو تو بہتر ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ یعنی ہر اذان و اقامت کے مابین نماز ہے اور اس نماز سے سنن اور نوافل مراد ہیں، چنانچہ وہ نماز میں جن میں فرض سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں میں تو انھی سنن سے فصل کرنا اولیٰ ہے جیسے، فجر، ظہر اور عصر اور عشاء میں، اور چوں کہ مغرب کی نماز میں سنت نہیں پڑھی جاتی اور مغرب میں تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے مغرب میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت معمولی فصل ہوگا جب کہ حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اور نمازوں کی طرح مغرب بھی بیٹھ کر فصل کیا جائے گا، البتہ یہ فصل معمولی ہوگا، لیکن فصل بالجلسۃ ہوگا ضرور، جیسے دو خطبوں کے درمیان فصل بالجلسۃ (بیٹھ کر فصل کرنا) ہوتا ہے۔ کیوں کہ اذان و اقامت میں وصل کرنا تو مکروہ ہے۔

اور سکتے سے بچنے کے لیے فصل نہیں ہوگا، کیوں کہ سکتے تو کلمات اذان میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اصل کی کراہت سے بچنے کے لیے فصل کیا جائے گا، ہر چند کہ وہ خفیف ہو۔

حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا مکروہ ہے اور یہ بات طے ہے کہ جلسہ کرنے سے تاخیر ہوگی، اس لیے تاخیر سے بچنے ہوئے معمولی سا فصل کر لے، اور یہ معمولی فصل چوں کہ سکتے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اسی سکتے پر اکتفاء کر لیا جائے گا۔

والمكان في مسائلنا الخ صاحبین نے مسئلہ فصل کو خطبہ کے فصل پر قیاس کیا تھا، یہاں سے اسی قیاس کی تردید کی جا رہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اذان و اقامت والے فصل کو خطبہ والے فصل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اذان و اقامت میں موذن کی جگہ بھی الگ ہوتی ہے، آواز بھی الگ ہوتی ہے، اور اذان وغیرہ کہنے کی ہیئت بھی الگ ہوتی ہے، اس کے برخلاف خطبہ میں دونوں خطبے کی جگہ بھی ایک ہوتی ہے، خطیب کی ہیئت بھی ایک ہوتی ہے اور تقریباً خطیب کی آواز کا زبر و بم بھی یکساں ہی رہتا ہے، لہذا جب ان دونوں میں اتنا واضح فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کیسے درست ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ صحت قیاس کے لیے مقیاس اور مقیاس علیہ میں مطابقت ضروری ہے۔

وقال الشافعي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر نمازوں میں اذان و اقامت کے مابین نماز سے فصل کیا جاتا ہے، اسی طرح مغرب میں بھی دو رکعت نماز پڑھ کر کے فصل کیا جائے، مگر ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حضرت والا مغرب کی نماز کو دیگر نمازوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ دیگر نمازوں میں تاخیر سے کوئی اثر نہیں ہوتا، جب کہ مغرب کی نماز میں تاخیر سے کراہت پیدا ہو جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے، صاحب ہدایہ نے والفرق ما ذکرناہ سے اسی فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قال يعقوب الخ يعقوب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الامام رحمۃ اللہ علیہ کو مغرب کی اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے آپ اذان کے فوراً بعد اقامت میں مشغول ہو جاتے تھے اور فصل بالجلسۃ نہیں کرتے تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان میں جہاں ایک طرف مسلک امام عالی

مقام رضی اللہ عنہ کی تائید ہوتی ہے وہیں اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اذان دینے والا شرع کا پابند ہو اور قرآن و حدیث کے مسائل و معلومات سے اچھی طرح باخبر بھی ہو۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے ”ویؤذن لکم خیار لکم“۔

﴿ وَيُؤذِّنُ لِلْفَاتِنَةِ وَيَقِيمُ ﴾ ① لِأَنَّ النَّبِيَّ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ، ﴿فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتُ أَذْنٍ لِلأُولَى وَأَقَامَ﴾ لِمَا رَوَيْنَا، وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي إِنْ شَاءَ أَذْنٌ وَأَقَامَ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسَبِ الْإِدَاءِ، ﴿وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ﴾ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ وَهُمْ حُضُورٌ، قَالَ رضي الله عنه وَعَنْ مُحَمَّدٍ رضي الله عنه أَنَّهُ يَقَامُ لِمَا بَعْدَهَا، قَالُوا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا.

**ترجمہ:** اور فوت شدہ نماز کے لیے اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس کی صبح میں اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی قضاء فرمائی تھی۔

اور آپ کا عمل اقامت پر اکتفاء کرنے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے خلاف حجت ہے۔ پھر اگر کسی شخص کی کئی نمازیں فوت ہو گئی ہوں تو وہ پہلی نماز کے لیے اذان و اقامت دونوں کہے، تاکہ قضاء اداء کے طریقے پر واقع ہو، اور اگر چاہے تو صرف اقامت پر اکتفاء کرے، کیوں کہ اذان لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہاں سب کے سب حاضر ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلی نماز کے بعد بقیہ نمازوں کے لیے صرف اقامت کہی جائے گی، حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر کہتا ہے یہ سب کا قول ہو۔

## اللغات:

﴿تَعْرِيسٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعیل؛ رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالنا۔ ﴿مُخَيَّرٌ﴾ اسم مفعول، خیر یخیر تخیراً، باب تفعیل؛ اختیار دینا، اختیار دیا گیا، مختار۔ ﴿اسْتِحْضَارٌ﴾ اسم مصدر، باب استفعال؛ سامنے لانا، جمع کرنا، حاضر کرنا۔

## تخریج:

① أخرجه ابوداؤد في كتاب الصلوة باب من نام عن صلوة حديث رقم ۳۳۶.

## قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم اور اس کی تفصیل:

اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی یا کسی قوم اور جماعت کی کوئی نماز قضا ہو جائے اور وہ اس کی قضا کرنا چاہیں تو ہمارے یہاں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ نماز کی قضاء

کریں، جب کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر صرف اقامت پر اکتفاء کر لیں تو بھی کافی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَاةٍ فَاقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کا حکم دیا، انہوں نے تکبیر کہی، اور آپ نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس حدیث میں صرف اقامت کا ذکر ہے اور اذان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ اذان کے بغیر بھی صرف اقامت پر اکتفاء کر کے قضاء نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

ہماری دلیل ابو داؤد شریف میں مذکور یہ حدیث ہے أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَاةٍ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصُّبْحِ وَصَلُّوْهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ یعنی جب آپ اور آپ کے صحابہ سے فجر کی نماز قضاء ہوگئی تھی تو آپ نے بیدار ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان و اقامت دونوں کا حکم دیا تھا اور ارتفاع شمس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز قضاء فرمائی تھی، یہ حدیث واقعہ لیلۃ التعلیسی سے متعلق ہے اور اس میں اس بات کی مکمل صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و اقامت دونوں کے ساتھ نماز کی قضاء کی تھی، لہذا ہمارے یہاں اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ قضاء کی جائے گی۔

رہی وہ حدیث جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں اور ہماری پیش کردہ حدیث زیادتی کے لیے مثبت ہے، جب کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث زیادتی کے لیے نافی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب مثبت اور نافی کا اجتماع ہو جائے تو مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے ”الإثبات مقدم علی النفی“ اور یہاں بھی چون کہ ہماری پیش کردہ روایت مثبت ہے، اس لیے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اقامت پر اکتفاء کرنے میں حجت ہوگی اور ان کی پیش کردہ روایت پر غالب ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی چند نمازیں فوت ہو گئیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی قضاء کرتے وقت پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے اور باقی نمازوں میں اسے اختیار ہے، چاہے تو اذان و اقامت دونوں کہے، تاکہ قضاء ادا کے مطابق اور موافق ہو جائے۔ اور چاہے تو صرف اقامت پر اکتفاء کر لے، کیوں کہ اذان لوگوں کو بلانے اور انہیں اطلاع دینے کے لیے کہی جاتی ہے اور یہاں اگر وہ شخص تنہا ہے تو خود حاضر ہے اور اگر بہت سارے ہوں تب بھی سب حاضر ہوں گے، اس لیے اذان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی۔

روایت اصول کے علاوہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ پہلی نماز کو تو اذان و اقامت دونوں کے ساتھ قضاء کرے، لیکن بعد والی نمازوں میں اسے اختیار ہوگا۔ اگر چاہے تو دونوں کہے اور اگر چاہے تو صرف اقامت پر اکتفاء کر لے، حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے یہی سارے فقہائے احناف کی رائے ہو جس میں حضرات شیخین بھی شریک ہوں۔

﴿وَيَسْغِيْ اَنْ يُؤَدِّنَ وَيُقِيْمَ عَلٰى طَهْرٍ فَاِنْ اُذِّنَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ﴾ جَاَزٌ، لِاَنَّهٗ ذَكَرَ وَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الْوُضُوْءُ فِيْهِ اسْتِحْبَابًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ .

**ترجمہ:** اور مناسب یہ ہے کہ بلا وضو ہو کر اذان و اقامت کہے، لیکن اگر کسی نے بے وضو بھی اذان دیدی تو جائز ہے، کیوں کہ یہ ذکر ہے، نماز نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھنے کی طرح اس میں بھی وضو مستحب ہوگا۔

### اذان و اقامت میں وضو کی حیثیت:

صورت مسئلہ تو واضح ہے کہ اذان و اقامت دونوں کو بلا وضو کہنا مستحب اور مستحسن ہے، لیکن اگر کوئی شخص بلا وضو بھی اذان کہہ دے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اذان ذکر ہے اور ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے، اور اذان نماز ہے نہیں، اس لیے اس میں وضو ضروری تو نہیں ہوگا، البتہ جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اسی طرح اذان دینے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہوگا۔

﴿وَيُكْرَهُ أَنْ يَقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ﴾ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفُضْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ، وَيُرْوَى أَنَّهُ لَا تَكْرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا، لِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَذَانِينَ، وَيُرْوَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا، لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًا إِلَى مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ.

**ترجمہ:** اور بے وضو اقامت کہنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں اذان و اقامت کے مابین فصل لازم آتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اقامت بھی (بے وضو) مکروہ نہیں ہے، کیوں کہ اقامت دو اذانوں میں سے ایک ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اذان بھی (بلا وضو) مکروہ ہے، اس لیے کہ مؤذن ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے جسے وہ خود قبول نہیں کرتا۔

### توضیح:

مسئلہ یہ ہے کہ بلا وضو اذان کہنا تو جائز ہے، لیکن ظاہر الروایۃ کے مطابق بلا وضو تکبیر کہنا مکروہ ہے، کیوں کہ تکبیر کے معاً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، اب اگر تکبیر ہی بے وضو رہے گا تو ظاہر ہے کہ اقامت اور نماز میں فصل کرنا پڑے گا، حالانکہ اقامت نماز سے متصل ہو کر شروع ہے اور یہی معمول بھی ہے، اس لیے بے وضو ہو کر اقامت کہنا مکروہ ہے۔

ویروی الخ امام کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اذان کی طرح اقامت بھی بلا وضو جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیوں کہ وہ بھی ایک طرح سے اذان ہی ہے اور اذان بلا وضو جائز ہے، لہذا اقامت بھی جائز ہوگی۔ (مگر علت اتصال ان کے خلاف حجت ہے)۔

ویروی الخ امام کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسری روایت یہ منقول ہے کہ بلا وضو اذان دینا بھی مکروہ ہے، کیوں کہ اذان دینے والا لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتا ہے اور جب خود مؤذن صاحب ہی عبادت کے لیے تیار نہیں رہیں گے تو مدعوین کا کیا حال ہوگا، اس لیے بلا وضو اذان دینا بھی مکروہ ہے۔

﴿وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ﴾ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَوَجْهُ الْفُرْقِ عَلَى إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ هُوَ أَنَّ لِلْأَذَانِ شِبْهًا بِالصَّلَاةِ فَيَشْتَرِطُ الطَّهَارَةَ عَنِ أَغْلَظِ الْحَدَثَيْنِ دُونَ أَحْفَهَمَا عَمَلًا بِالشُّبْهَيْنِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِذَا



أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَقَامَ لَا يُعِيدُ، وَالْجُنْبُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأُهُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخِفَّةِ الْحَدِيثِ، وَأَمَّا الثَّانِي فِصْفِي الْإِعَادَةَ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ رَوَاتِنِ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُعَادَ الْأَذَانَ دُونَ الْإِقَامَةِ، لِأَنَّ تَكَرَّرَ الْأَذَانَ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ، وَقَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأُهُ يَعْنِي الصَّلَاةَ، لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ بَدُونِ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةِ.

**ترجمہ:** اور مکروہ ہے کہ کوئی شخص جنابت کی حالت میں اذان دے، ایک ہی روایت ہے، اور دو روایتوں میں سے ایک روایت پر وجہ فرق یہ ہے کہ اذان نماز کے مشابہ ہے، لہذا دو حدیثوں میں سے اغلظ حدیث سے طہارت شرط ہوگی، نہ کہ اہت حدیث سے دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی شخص نے بے وضو اذان و اقامت کہی تو اعادہ نہ کرے، لیکن اگر مؤذن جنبی ہو تو میرے نزدیک اعادہ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر اعادہ نہ بھی کیا تو بھی نماز جائز ہے۔

رہا اول تو وہ حدیث کے معمولی ہونے کی وجہ سے ہے اور جہاں تک دوسرے قول کا سوال ہے تو جنابت کی وجہ سے اعادہ کرنے میں دو روایتیں ہیں اور اشبہہ یہ ہے کہ صرف اذان کا اعادہ کیا جائے نہ کہ اقامت کا، کیوں کہ اذان میں تو تکرار مشروع ہے، مگر اقامت میں نہیں ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول **إِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأُهُ** سے نماز مراد ہے۔ اس لیے کہ اذان و اقامت کے بغیر بھی نماز جائز ہے۔

## اللُّغَاتُ:

﴿أَغْلَظُ﴾ زیادہ موٹا، زیادہ بھاری، زیادہ گاڑھا۔ ﴿شِبْهٌ﴾ مشابہہ، مثل۔

## حالت جنابت میں اذان و اقامت کا حکم:

فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے اور اس سلسلے میں صرف یہی ایک کراہت کی روایت ہے، غیر کراہت کی دوسری کوئی روایت نہیں ہے۔ اور جو اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ محدث کی اذان مکروہ نہیں ہے، اس روایت میں اور یہاں بیان کردہ اذان جنبی کی کراہت والی روایت میں وجہ فرق یہ ہے کہ اذان نماز کے مشابہ ہے بایں معنی کہ جس طرح نماز تکبیر سے شروع کی جاتی ہے، اس میں استقبال قبلہ ہوتا ہے اور مرتب طور پر اس کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اسی طرح اذان بھی تکبیر سے شروع ہوتی ہے، اس میں بھی استقبال قبلہ ہوتا ہے اور اس کے کلمات بھی مرتب ادا کیے جاتے ہیں، لیکن اذان صرف ظاہراً نماز کے مشابہ ہے، حقیقت میں نماز نہیں ہے، لہذا یہ مشابہت منجہ ہے، اس لیے مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے تو حدیث اور جنابت دونوں کے ساتھ اذان درست نہیں ہونی چاہیے، بل کہ مکروہ ہونی چاہیے اور عدم مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے حدیث اور جنابت دونوں صورتوں میں اذان صحیح اور کراہت سے خالی ہونی چاہیے، اس لیے دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بحالت جنابت اذان دینا مکروہ ہے، کیوں کہ اذان من وجہ نماز کے مشابہ ہے اور بحالت حدیث اذان دینا درست ہے، کیوں کہ اذان حقیقتاً نماز کے مشابہ نہیں ہے۔ (عناہ ۱/۲۵۸)

جامع صغیر میں امام محمد رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو اذان و اقامت کہے تو اس کا اعادہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی جنبی اذان دے تو میرے نزدیک اس کا اعادہ کر لینا زیادہ بہتر ہے، تاہم اگر اعادہ نہ بھی کیا گیا تو بھی اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پہلی صورت کی دلیل یہ ہے کہ حدیث جنابت کے بالمقابل خیف ہے، اس لیے اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں برتی جائے گی۔ اور دوسری صورت (یعنی جب جنبی اذان دے) میں اعادہ سے متعلق دو روایتیں ہیں، ظاہر الروایہ میں ہے کہ اعادہ مستحب ہے، اور امام کرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعادہ واجب ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کا اعادہ کر لیا جائے، کیوں کہ اذان کا اعادہ تو مشروع بھی ہے، جب کہ اقامت کا اعادہ مشروع بھی نہیں ہے، اور مسئلہ صرف جنبی کی اذان کا ہے، لہذا اس کا اعادہ کر لینا مستحسن ہے اور فقہ حنفی کے زیادہ مشابہ بھی ہے، اس لیے کہ جمعہ میں دو مرتبہ اذان دینا آج بھی مشروع ہے۔

وقولہ النخ فرماتے ہیں کہ امام محمد رضی اللہ عنہ نے جو ان لم یعد أجزاء کہا ہے اس میں اجزاء سے نماز مراد ہے، کیوں کہ جب سرے سے اذان و اقامت کے بغیر نماز جائز ہے، تو اعادہ کے بغیر تو بدرجہ اولیٰ نماز جائز اور صحیح ہوگی۔

﴿قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُوَدَّنُ﴾ مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَادَ لِیَقَعَ عَلَی وَجْهِ السُّنَّةِ .

**ترجمہ:** فرماتے ہیں کہ یہی حکم اس وقت ہے جب عورت اذان دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی دی ہوئی اذان کا اعادہ بھی مستحب ہے، تاکہ اذان سنت کے مطابق واقع ہو جائے۔

### عورت کی اذان کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جنبی شخص کی دی ہوئی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت اذان دے تو اس کا اعادہ کرنا بھی مستحب ہے، کیوں کہ اذان دینا مردوں کا کام ہے، نہ کہ عورتوں کا، اس لیے عورت کی دی ہوئی اذان کا اعادہ کر لیا جائے تاکہ سنت کے مطابق اذان ادا ہو جائے۔

صاحب عنایہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بڑی عمدہ بات تحریر کی ہے جس کا تذکرہ نہایت اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورت کی اذان بدعت ہے، کیوں کہ عورت اگر اذان دے گی تو اس کی دو صورتیں ہیں (۱) یا تو وہ بلند آواز سے اذان دے گی (۲) یا پھر پست آواز سے اذان دے گی، اور دونوں صورتیں غیر مفید ہیں، کیوں کہ اگر عورت بلند آواز سے اذان دے گی تو فعل حرام کی مرتکب ہوگی، کیوں کہ فقہائے کرام نے عورت کے جسم کی طرح اس کی آواز کو بھی عورت کہا ہے اور اسے بھی پست رکھ کر چھپانے کی تاکید و تلقین کی ہے۔ اور اگر عورت پست آواز سے اذان دے گی تو اذان کا مقصود یعنی اعلام فوت ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت اذان ہی نہ دے۔

اور پھر یہ بھی تو ہے کہ اذان جماعت کے لیے دی جاتی ہے اور جب عورتوں پر جماعت ہی واجب نہیں ہے تو پھر اذان کہاں سے ثابت ہوگی۔ صاحب عنایہ نے عورتوں کی جماعت کو منسوخ قرار دیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھنا بھی چاہیں تو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھیں، اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امامت سے استدلال بھی کیا ہے،

حضرت راطہ کہتی ہیں: کنا جماعة فأمّتنا عائشة رضی اللہ عنہا بلا اذان ولا إقامة۔ (عنایہ ۲۶۰/۱)

﴿وَلَا يُؤَدِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَفَيْهَا، وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ﴾ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْبِاعْلَامِ، وَقَبْلَ الْوَقْتِ تَجْهِيلٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رضی اللہ عنہ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رضی اللہ عنہ يَجُوزُ لِلْفَجْرِ فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ لِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَالْحُجَّةُ عَلَى الْكُلِّ قَوْلُهُ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَلَالٍ رضی اللہ عنہ لَا تُؤَدِّنُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا.

**ترجمہ:** اور کسی بھی نماز کے لیے اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہ دی جائے۔ اور (اگر دے دی گئی تو) وقت کے اندر اس کا اعادہ کیا جائے، کیوں کہ اذان اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے اور وقت سے پہلے لوگوں کو جہالت میں ڈالنا ہے۔

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہی اور یہی امام شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ رات کے نصف اخیر میں فجر کے لیے اذان دینا جائز ہے، اس لیے کہ اہل حرمین سے توارث کے ساتھ یہ عمل منقول ہے، اور سب کے خلاف حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حجت ہے کہ تم اس وقت تک اذان نہ دو یہاں تک کہ تمہارے لیے اس طرح فجر واضح نہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑائی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔

## اللَّغَاتُ

﴿عَرْضٌ﴾ چوڑائی۔ ﴿مَدَّ﴾ باب نصر؛ پھیلانا۔

## تَخْرِيجُ

① اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الصلوٰۃ باب فی الاذان قبل دخول الوقت حدیث رقم ۵۴۳۔

## اذان دینے کے لیے موزوں وغیر موزوں وقت اور اس کے احکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی نماز کے لیے اذان دینا درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے دخول وقت سے پہلے اذان دیدی تو وقت کے اندر اس کا اعادہ کیا جائے گا، کیوں کہ اذان لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر دی جاتی ہے اور قبل از وقت اذان دینے میں لوگوں کو جہالت میں ڈالنا اور آج کی زبان میں بے وقوف بنانا ہے، اس لیے وقت سے پہلے دی ہوئی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، خواہ کسی بھی نماز کے لیے دی جائے۔

اس کے برخلاف امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے نصف اخیر سے فجر کے لیے اذان دینا درست ہے اور اس اذان کا اعتبار بھی ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آرہی ہے کہ وہاں فجر کے لیے رات کے نصف اخیر سے اذان شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اسی اذان کو فجر کی اذان سمجھتے اور خیال کرتے ہیں اور

بہت دنوں سے یہی معمول ہے، لہذا فجر میں تو نصف اخیر کے بعد سے اذان دی جاسکتی ہے، اور اس کی معتبریت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔

والحجة علی الكل صاحب ہدایہ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کی پیش کردہ دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے خلاف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حجت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک صبح صادق خوب روشن نہ ہو جائے اس وقت تک اذان نہ دیا کرو اور آپ نے جو چوڑائی میں اپنے ہاتھ پھیلائے تھے، اس سے صبح صادق کے خوب واضح اور روشن ہونے کی طرف اشارہ تھا، یہ حدیث اس باب میں نہایت مفصل اور واضح ہے اور اس امر کی بین دلیل ہے کہ قبل از وقت فجر کے لیے بھی دی ہوئی اذان کا اعتبار نہیں ہے۔

رہا توارث اہل حریم کا مسئلہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حریم شریفین میں نصف اخیر کے بعد جو اذان دی جاتی ہے وہ فجر کے لیے نہیں ہوتی، بل کہ تہجد کے لیے ہوتی ہے، اور زمانہ نبوت میں اس طرح کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی دیا کرتے تھے۔ اور اس اذان کے تہجد کے لیے ہونے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ”ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم“ یعنی حضرت بلال رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا ان کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو، بل کہ اس وقت تک سحری کھاتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دیں“ اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آئیں (۱) حضرت بلال رات میں اذان دیتے تھے (۲) ان کی اذان کے بعد بھی لوگوں کو سحری کھانے کا حکم دیا گیا (۳) ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی اذان دیتے تھے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت بلال کی اذان تہجد کے لیے ہوتی تھی، اگر یہ اذان نماز فجر کے لیے ہوتی تو اس کے بعد نہ تو سحری کھانے کی اجازت دی جاتی اور نہ ہی حضرت ابن ام مکتوم کو دوبارہ اذان دینا پڑتا، کیوں کہ ایک ہی وقت کے لیے دو مرتبہ اذان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

﴿وَالْمَسَافِرُ يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ﴾ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رضی اللہ عنہ إِذَا سَافَرْتُمْ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ﴿فَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا يُكْرَهُ﴾ وَلَوْ اِكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ جَارًا، لِأَنَّ الْأَذَانَ لِاسْتِحْضَارِ الْعَابِدِينَ، وَالرَّفَقَةَ حَاضِرُونَ، وَالْإِقَامَةَ لِإِعْلَامِ الْإِفْتِتَاحِ وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ، ﴿فَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي الْمَصْرِ يُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ﴾ لِيَكُونَ الْأَذَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَارًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِينَا.

**ترجمہ:** اور مسافر اذان و اقامت دونوں کہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوملیکہ کے دونوں بیٹوں سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم دونوں سفر کرو تو اذان بھی کہو اور اقامت بھی۔ چنانچہ اگر کسی نے دونوں کو ترک کر دیا تو مکروہ ہے۔ اور اگر صرف اقامت پر اکتفاء

کیا تو جائز ہے، کیوں کہ اذان غیر موجود لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ (یہاں) سفر کے سارے ساتھی حاضر ہیں۔ اور تکبیر نماز شروع ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے اور وہ سب اس کے حاجت مند ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص اپنے شہر کے گھر میں نماز پڑھے تو وہ اذان و اقامت کے ساتھ پڑھے، تاکہ یہ اداء جماعت کی ہیئت پر واقع ہو، لیکن اگر اذان و اقامت کو ترک کر دیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود کا فرمان یہ ہے کہ محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔

## اللغات:

﴿رَقْفَةً﴾ شرکائے سفر، ساتھی، قافلے والے۔ ﴿اِفْتِنَاحٌ﴾ اسم مصدر، باب افتعال؛ شروع کرنا، ابتداء کرنا۔  
﴿مُهَيِّنَةٌ﴾ شکل، صورت۔

## تخریج:

① اخرجہ بخاری فی کتاب الاذان باب الاذان للمسافرین حدیث رقم ۶۳۰۔

## مسافر کے لیے اذان اور اقامت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے دوران جب مسافرین نماز پڑھنے لگیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اذان و اقامت دونوں کے ساتھ نماز پڑھیں، کیوں کہ آپ ﷺ نے ابو ملیکہ کے دو بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم سفر میں رہو تو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بحالت سفر بھی اذان و اقامت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، کیوں کہ اذان کا مقصد صرف اعلام ہی نہیں ہے، بل کہ صاحب فتح القدر کی صراحت کے مطابق اگر مسافر صحراء اور جنگل میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس سے اللہ کی زمین میں اس کے نام اور اس کے دین کا بول بالا ہوگا اور مؤذن ان تمام لوگوں کو اللہ کی یاد دلائے گا جو اس کی نظروں سے اوجھل ہیں، مثلاً جنات اور دیگر مخلوقات۔ اس لیے بھی بحالت سفر اذان و اقامت کا اہتمام ضروری ہے۔ (فتح القدر ۲۶۱/۱)

اور اذان و اقامت دونوں کو ترک کر دینا مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث میں انہیں بجالانے کا مکلف بنایا گیا ہے، اس لیے دونوں کو ترک نہ کیا جائے، البتہ اگر کسی شخص نے صرف اقامت پر اکتفاء کر لیا تو یہ جائز ہے، کیوں کہ اذان غائب لوگوں کو بلانے اور جمع کرنے کے مقصد سے دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بحالت سفر تمام رفقاء ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، اس لیے بلانے اور جمع کرنے کے لیے کسی خاص اطلاع کی ضرورت نہیں ہے۔

البتہ اقامت چوں کہ نماز شروع کرنے کی اطلاع کے لیے کہی جاتی ہے، اس لیے حاضرین کے حق میں بھی اس کی ضرورت متحقق ہے، لہذا ان لوگوں کے حق میں اقامت کی ضرورت تو ہوگی، مگر اذان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کسی شخص نے اگر صرف اقامت پر اکتفاء کر لیا تو بھی جائز ہے۔

فان صلتي في بيته الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہر میں رہتا ہو اور وہ اپنے مکان میں نماز پڑھنا چاہے تو اسے

چاہیے کہ اذان و اقامت دونوں کے ساتھ نماز پڑھے، خواہ اکیسے ہو یا کئی لوگ ہوں، تا کہ اس کی یہ نماز جماعت کی نماز کے مشابہ ہو جائے جو اذان و اقامت دونوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ شخص اذان و اقامت دونوں کو ترک کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جاسکتا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ حضرت علقمہ اور حضرت اسودؓ کو اذان و اقامت کے بغیر ہی نماز پڑھائی، جب ان سے پوچھا گیا اَلَا تُوْذَنُ وَتَقِيْمُ کہ بھائی آپ نے اذان و اقامت کیوں نہیں کہی، اس پر انھوں نے فرمایا اَذَانَ الْحَيِّ يَكْفِينَا کہ محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔

صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عقلی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مؤذن اذان و اقامت میں اہل محلہ کا نائب ہوتا ہے، لہذا محلہ میں بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھنے والا حکماً اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے۔ (عنایہ ۲۶۲/۱)



## بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا

یہ باب نماز کی ان شرطوں کے بیان میں ہے جو نماز سے مقدم ہیں

صاحب کتاب نے اس سے پہلے نماز کے اوقات اور پھر اوقات کی علامات یعنی اذان اور اس کے احکامات کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے نماز کی شرائط کو بیان کر رہے ہیں، واضح رہے کہ شروط شرط کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں علامت، اور اصطلاح شرع میں شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہو، لیکن وہ چیز اس میں داخل نہ ہو۔ مایتوقف علیہ وجود الشیء ولم یکن داخل فیہ۔

﴿يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يُقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنْجَاسِ﴾ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (سورة المدثر : ٤)، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (سورة مائدہ : ٦)، ﴿وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (سورة الاعراف : ٦١)، أَيِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَقَالَ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ، أَيِ الْبَالِغَةِ.

**ترجمہ:** نماز پڑھنے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ طہارت کو احداث اور انجاس پر مقدم کرے اس دلیل کے مطابق جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، دوسری جگہ ارشاد ہے اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاکی حاصل کر لو۔

اور مصلیٰ پر اپنی عورت کو چھپانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے ”تم لوگ ہر نماز کے وقت زیب وزینت اختیار کرو، یعنی وہ چیز لے لو جو ہر نماز کے وقت تمہاری عورت کو چھپالے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اوڑھنی کے بغیر حائضہ کی نماز درست نہیں ہے۔ اور حائضہ سے مراد بالغہ عورت ہے۔

### اللُّغَاتُ:

﴿أَحْدَاثٌ﴾ اسم جمع، واحد حدث؛ بے وضو یا بے غسل ہونا۔ ﴿أَنْجَاسٌ﴾ اسم جمع، واحد نجس؛ ناپاکیاں، گندگیاں۔ ﴿عَوْرَةٌ﴾ ستر، شرم کی جگہ، چھپانے کی جگہ۔ ﴿يُوَارِي﴾ باب مفاعلة؛ چھپانا، ڈھانکنا۔ ﴿خِمَارٌ﴾ اوڑھنی، دوپٹہ۔

## تخریج:

① اخرجه ابوداؤد فی کتاب الصلوٰۃ باب المرأة تصلى بلاخمار حدیث ۶۴۱.

## نماز سے پہلے کی شرطیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مصّلیٰ پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے ہر طرح کی نجاستوں اور حدّثوں سے پاکی اور طہارت حاصل کرے، تاکہ جب وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو تو ہر طرح سے پاک صاف ہو، اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا۔ یہ اور اس طرح کی کئی آیتوں میں طہارت کا حکم دیا گیا ہے جس کا بجالانا ہر نمازی کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بحث اس سے پہلے آچکی ہے، مگر چونکہ یہاں شرائط کا بیان ہے اور تقدیم طہارت بھی شرط ہے، بلکہ اہم الشرائط ہے، اس لیے اسے یہاں دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ شروط کی صف میں اس کا بھی شمار ہو جائے۔

ویستر عورتہ یہ جملہ اَنْ يَقْدُمَ الطَّهَارَةَ پَرِ عَظْفٍ ہے اور مصّلیٰ کے لیے دوسری شرط ہے، یعنی مصّلیٰ پر اپنی عورت کا چھپانا بھی لازم اور ضروری ہے، عورت سے مراد بدن کے وہ حصے ہیں جن کا چھپانا فرض اور ضروری ہے اور جن کا کھولنا اور کھلنا باعث عار ہے، حدیث پاک میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو عورت قرار دیا گیا ہے، حدیث آرہی ہے۔ ستر عورت کے شرط اور لازم ہونے پر قرآن کریم کی یہ آیت متدل ہے ”خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ“ اور اس آیت سے وجہ استدلال اس طرح ہے کہ آیت میں زینت سے مراد مایواری عورت تکم ہے یعنی وہ چیز جو تمھاری عورت کو چھپالے، کیوں کہ عورت کا کھلنا باعث عار اور شرم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا چھپانا یقیناً باعث زینت ہوگا، اور عند کل مسجد سے عند کل صلاۃ مراد ہے اور یہاں محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے۔ اور آیت پاک کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت ستر عورت حاصل کر لیا کرو۔

اس کی دوسری دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ اس حدیث میں حائضہ سے بالغ مراد ہے، کیوں کہ بلوغت کے بعد ہی حیض آتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز اور ہنسی کے بغیر قبول نہیں فرماتے، اور بالغ کے حق میں سر عورت ہے، اور اس کا چھپانا ضروری ہے، لہذا جو چیز مرد کے حق میں عورت ہوگی اس کا چھپانا بھی شرط اور ضروری ہوگا۔

﴿وَعَوْرَةَ الرَّجُلِ مَا تَحْتِ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ﴾ لِقَوْلِهِ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَيُرْوَى مَا دُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ السَّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لَهُ أَيْضًا، وَكَلِمَةٌ إِلَى نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةٍ مَعَ عَمَلًا بِكَلِمَةٍ حَتَّى، وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ، ② ﴿وَبَدَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا﴾ لِقَوْلِهِ ③ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مُسْتَوْرَةٌ، وَاسْتِنَاءُ الْعُضْوَيْنِ لِلِابْتِلَاءِ يَابَدَانِيهِمَا، قَالَ وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَيَّ أَنَّ الْقَدَمَ



عَوْرَةٌ، وَيُرْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، وَهُوَ الْأَصْحَحُ .

**ترجمہ:** اور مرد کی عورت اس کی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”مرد کی عورت اس کی ناف اور گھٹنے کے بیچ میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ناف کے نیچے سے یہاں تک کہ اس کے گھٹنے کو تجاوز کر جائے، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ناف عورت میں سے نہیں ہے، برخلاف اس کے جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور گھٹنا عورت میں سے ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہم کلمہ الی کو کلمہ مع پر محمول کرتے ہیں کلمہ حتیٰ پر عمل کرتے ہوئے اور آپ ﷺ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ الرکبة من العورة۔

اور آزاد عورت کا پورا بدن واجب الستر ہے۔ اس کے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”عورت چھپا کر رکھی جانے والی چیز ہے“ اور دونوں عضو کا استثناء ان کے ظاہر کرنے کے ابتداء کی وجہ سے ہے۔ صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی صراحت ہے کہ عورت کا قدم بھی عورت ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ قدم عورت نہیں ہے اور یہیں زیادہ صحت ہے۔

## اللغات:

﴿سُرَّةٌ﴾ ناف۔ ﴿رُكْبَةٌ﴾ گھٹنا۔ ﴿كَفٌّ﴾ ہتھیل۔ ﴿مَسْتَوْرَةٌ﴾ چھپی ہوئی، پوشیدہ۔ ﴿اِبْتِداءٌ﴾ اسم مصدر، باب افتعال: آزمائش میں ہونا، مبتلا ہونا۔ ﴿اِبْتِداءٌ﴾ اسم مصدر، باب افعال: ظاہر کرنا، نمایاں کرنا۔

## تخریج:

- ① اخرجہ دارقطنی فی کتاب الصلوٰۃ باب الامر بتعليم الصلوات حدیث رقم ۸۷۶.
- ② اخرجہ دارقطنی فی کتاب الصلوٰۃ باب الامر بتعليم الصلوٰۃ حدیث رقم ۸۷۸.
- ③ اخرجہ ترمذی فی کتاب الرضاع باب استشراف الشيطان المرأة اذا خرجت حدیث رقم ۱۱۷۳.

## عورت اور مرد کے ستر کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرد کی عورت یعنی مرد کے لیے واجب الستر جسم کی تحدید یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کا حصہ ہے، یعنی ناف اس میں داخل نہیں ہے، البتہ گھٹنا داخل ہے، جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اس کا الٹا ہے، یعنی وہ ناف کو عورت میں داخل کرتے ہیں اور گھٹنے کو عورت سے خارج مانتے ہیں۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے یعنی عورة الرجل ما تحت السرة الی الرکبة اور اس حدیث سے وجہ استدلال باہیں معنی ہے کہ حدیث پاک میں صاف لفظوں میں ما تحت السرة کو عورت قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر اتنی واضح صراحت کے بعد بھی سرة کو عورت سے خارج نہیں مانیں گے تو یہ حدیث کے ساتھ زیادتی ہوگی جو درست نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری روایت میں مادون سرتہ حتیٰ تجاوز رکبتہ کے کلمات وارد ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ مرد کی ناف عورت میں داخل نہیں ہے، البتہ اس کا گھٹنا اس میں داخل اور شامل ہے۔

رہا یہ سوال کہ پہلی حدیث میں جو الی رکبتہ کے کلمات آئے اس میں کلمہ 'الی' غایت کے لیے ہے اور غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی، لہذا اس سے رکبۃ کو عورت میں داخل کرنا تو صحیح نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو کلمہ 'الی' وارد ہے وہ مع کے معنی میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے قول 'وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ' میں 'الی' مع کے معنی میں ہے اور یہاں 'الی' کو مع کے معنی میں لینے کی ایک دوسری علت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر الرکبۃ من العودۃ فرمایا ہے جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ گھٹنہ عورت میں داخل ہے اور بحالت نماز اس کا چھپانا شرط اور ضروری ہے۔

وبدن الحرة الخ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کا چہرہ اور اس کی دونوں ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پورا جسم عورت ہے اور ان دونوں اعضاء کے علاوہ بقیہ حصہ بدن کا چھپانا ضروری ہے اور اس پر آپ ﷺ کا یہ فرمان دلیل ہے المرأة عورة مستورة، اس حدیث کے پیش نظر تو عورت کے جسم کا ہر ہر جزء واجب الستر ہونا چاہیے، مگر چوں کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو اس قدر کثرت سے ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں ابتلاء سا ہو گیا ہے، کیوں کہ لین دین اور معرفت و شناخت کے حوالے سے ان کا کھولنا انتہائی ناگزیر ہے، لہذا ابتلاء اور عمومِ بلوئی کے پیش نظر ان دونوں اعضاء کا استثناء کر دیا گیا ہے، لیکن بقیہ جسم کو المرأة الخ کے مطلق ہونے کی وجہ سے واجب الستر قرار دیا گیا ہے۔

وهذا تنصيص الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں چوں کہ وجہ اور کفین ہی کا استثناء کیا گیا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے قدم بھی عورت ہیں، حالانکہ اصح قول یہ ہے کہ عورت کے قدم عورت نہیں ہیں اور ان کا چھپانا بھی ضروری نہیں ہے، کیوں کہ ہمہ وقت عورت موزے میں ملبوس نہیں رہتی اور اس کے حق میں بھی چلنے اور باہر نکلنے کی ضرورت ہے، لہذا وجہ وغیرہ کی طرح ابتلاء کی وجہ سے قدم بھی خارج عن العودۃ ہیں، اور ان کا عورت نہ ہونا عقلاً بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ اس طرح کہ عورت کے اکثر اعضاء جسم کو عورت قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ انھیں دیکھنے اور بغور ان کا مطالعہ کرنے سے آدمی کی شہوت میں بیجان پیدا ہوتا ہے اور یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی پھسل نہ جائے، اور یہ خطرہ چہرے میں زیادہ ہے۔

لیکن ابتلاء کی وجہ سے چہرے کو عورت سے خارج کر دیا گیا ہے، لہذا جب خطرہ خوف کی کثرت کے باوجود چہرے کو عورت سے خارج کر دیا گیا تو قدم کو تو بدرجہ اولیٰ خارج کیا جائے گا، کیوں کہ چہرے کے بالمقابل قدم کا معاملہ بالکل صفر ہے، قدم کو دیکھ کر تو بدمعاشوں اور اوباشوں کے قدم بھی نہیں پھسلتے۔

﴿فَإِنْ صَلَّتْ وَرَبُّعٌ سَاقَهَا مَكْشُوفٌ أَوْ ثُلُثُهَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ﴾ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَحْمَدٍ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرَّبُّعِ لَا تُعِيدُ، وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُعِيدُ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوصَفُ بِالْكَثْرَةِ إِذَا كَانَ مَا يُقَابَلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ، إِذْهُمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ، وَفِي النِّصْفِ عَنْهُ رَوَايَتَانِ، فَاعْتَبَرَ الْخُرُوجَ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ أَوْ عَدَمَ الدَّخُولِ فِي ضِدِّهِ، وَلَهُمَا أَنْ الرَّبُّعَ يُحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ، وَمَنْ رَأَى وَجْهَ غَيْرِهِ يُحْكَمُ بِرُؤْيَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ.

**ترجمہ:** چنانچہ اگر عورت نے اس حال میں نماز پڑھا کہ اس کی چوتھائی یا تہائی پنڈلی کھلی ہے تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نماز کا اعادہ کرے گی اور اگر چوتھائی سے کم (کھلی) ہو تو اعادہ نہیں کرے گی۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نصف پنڈلی سے کم کھلی ہے تو اعادہ نہیں کرے گی، کیوں کہ کسی چیز کو اسی وقت کثرت سے متصف کیا جاتا ہے جب اس کا مقابل اُس سے کم ہو، اس لیے کہ یہ دونوں اسمائے مقابلہ میں سے ہیں۔ اور نصف کے سلسلے میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے دو روایتیں ہیں، چنانچہ انھوں نے قلت کی حد سے نکلنے یا اس کی ضد میں داخل نہ ہونے کا اعتبار کیا ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ چوتھائی حصہ پورے کی حکایت کرتا ہے جیسے کہ سر کے مسح میں اور بحالت احرام حلق کرانے میں۔ اور جس شخص نے دوسرے کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دیکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا اگرچہ اس نے چاروں کناروں میں سے صرف ایک ہی کنارہ دیکھا ہو۔

## اللغات:

﴿رُبْعٌ﴾ چوتھائی۔ ﴿سَاقٍ﴾ پنڈلی۔ ﴿ثُلُثٌ﴾ تہائی۔ ﴿حَلْقٍ﴾ اسم مصدر، باب ضرب؛ مونث نا۔

## جسم کا کچھ حصہ کھلا ہونے کی صورت میں نماز کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اس حال میں نماز پڑھا کہ اس کی پنڈلی کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا تھا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے اور اگر چوتھائی سے کم حصہ کھلا ہوا تو اس صورت میں اعادہ واجب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔

حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی پنڈلی سے نصف حصہ سے کم کھلا ہو تو نماز جائز ہے اور اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر نصف حصہ کھلا ہو تو اس صورت میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے دو روایتیں منقول ہیں (۱) نصف حصہ کھلا ہو تب بھی نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے۔

نصف سے کم کھلا ہونے کی صورت میں عدم اعادہ صلاۃ کے متعلق امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ اس مسئلے میں قلت و کثرت اصل اور مدار ہیں اور قلت و کثرت دونوں اسمائے مقابلہ میں سے ہیں، اور اسمائے مقابلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اسی وقت کثیر کہا جائے گا جب اس کے مقابل کی چیز اس سے کم ہو اور نصف یا نصف سے کم اپنے مقابل کے مقابلے میں کثیر نہیں ہے، اس لیے نہ تو نصف سے کم کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی اور نہ ہی ایک روایت کے مطابق نصف کی صورت میں واجب الاعادہ ہوگی۔ کیوں کہ یا تو پوری پنڈلی کھلنے اور ظاہر ہونے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے یا پھر اکثر حصہ کھلنے سے، اور نصف یا اقل من النصف اکثر نہیں ہیں، لہذا اس حد تک کھلنے سے اعادہ صلاۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اور دوسری روایت کے مطابق نصف حصہ کھل جانے سے اعادہ صلاۃ کی دلیل یہ ہے کہ جب نصف حصہ کھل گیا تو اب وہ قلیل نہیں رہا، بل کہ قلت کی حد سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ جب نصف کھل گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کا مقابل اس سے زیادہ نہیں ہے، بل کہ اس کے مساوی ہے، اس لیے کھلا ہوا نصف قلت کی حد سے نکل کر کثرت میں داخل ہو گیا اور اکثر حصہ کھلنے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔

حضرات طرفین رضی اللہ عنہم کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح نصف یا اس سے زائد کوکل کے قائم مقام مانا جاتا ہے، اسی طرح بہت سے احکام میں رابع اور چوتھائی کو بھی کل کے قائم مقام مانا گیا ہے، مثلاً مسح راس کو لے لیجیے اس میں بھی ربع سر کے مسح کوکل سر کے مسح کے قائم مقام مانا گیا ہے، اسی طرح بحالت احرام چوتھائی سر کا حلق بھی پورے سر کے حلق کے قائم مقام ہے، نیز عرف اور محاورہ میں بھی ربع کوکل کا درجہ حاصل ہے، چنانچہ اگر آپ نے کسی کے چہرے کا ایک حصہ دیکھا اور بقیہ تین حصے نہیں دیکھے تو بھی یہی کہا جائے گا کہ میں نے فلاں کے چہرے کو دیکھا ہے، دیکھیے یہاں بھی ربع کل کے قائم ہے، الحاصل جب شریعت اور عرف ہر جگہ ربع کل کے قائم مقام ہے تو پھر صورت مسئلہ میں بھی ربع کوکل کے قائم مانا جائے گا اور ربع پنڈلی کھلنے کی صورت میں بھی اعادہ صلاۃ کا حکم لگایا جائے گا۔

اور پھر چونکہ یہ عبادت و ریاضت اور حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر اس میں تو اور بھی زیادہ اہتمام سے ربع کوکل کا درجہ دیا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ الاحتیاط جازز فی حقوق اللہ تعالیٰ۔

وَالشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخْدُ كَذَلِكَ ۖ يَعْنِي عَلَى هَذَا الْاِخْتِلَافِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَضْوٌ عَلَى حِدَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنَّمَا وُضِعَ عَسَلُهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ، وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ عَلَى هَذَا الْاِخْتِلَافِ، وَالذَّكْرُ يُعْتَبَرُ بِإِنْفِرَادِهِ، وَكَذَا الْأُنثِيَانِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُونَ الصَّمِّ.

**ترجمہ:** بال، پیٹ اور ان کا بھی یہی حکم ہے، یعنی یہ بھی اسی اختلاف پر ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک مستقل ایک عضو ہے۔ اور بالوں سے وہ بال مراد ہیں جو سر سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں، یہی صحیح ہے۔ البتہ غسل جنابت میں حرج کی وجہ سے بالوں کا دھونا ساقط کر دیا گیا ہے۔ اور عورت غلیظہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔ اور ذکر کا تنہا اعتبار ہے، نیز خصیتیں کا بھی الگ اعتبار ہے اور یہی صحیح ہے، نہ کہ ان کا ضم اور ملنا۔

## اللغات:

﴿بَطْنٌ﴾ اندرونی، مراد پیٹ۔ ﴿فَخْدٌ﴾ ران۔ ﴿أُنثِيَانِ﴾ خصیتیں، کیورے، تشنیہ ہی ذکر کرنا۔

## آزاد عورت کے ستر میں اقوال کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے بال، اس کے پیٹ اور اس کی ران کا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے جو پنڈلی کے متعلق حضرات طرفین اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا ہے، یعنی طرفین کے یہاں چوتھائی حصہ کھل جانے سے نماز واجب الاعادہ ہے جب کہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے یہاں نصف یا اس سے زیادہ کھل جانے کی صورت میں ہی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ کیوں کہ جس طرح ساق ایک مستقل عضو ہے، اسی طرح پیٹ اور ران بھی الگ الگ اور مستقل عضو ہیں، لہذا ان میں بھی حضرات فقہائے احناف کا سابقہ اختلاف جاری ہوگا۔

والمراد به الخ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو شعر کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ بال ہیں جو سر سے نیچے کی

طرف لٹکے ہوئے ہوں، وہ بال مراد نہیں ہیں جو سر سے متصل اور سر کے اوپر رہتے ہیں۔

وإنما وضع الخ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر سر سے نیچے لٹکے ہوئے بال عورت بمعنی واجب الستر ہیں تو غسل میں ان کا دھونا ضروری ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت کے لیے غسل جنابت میں بدن کے ہر ہر جز کا حصہ دھونا ضروری ہے، لہذا اگر یہ بال بھی واجب الستر ہیں تو جزء مرأت ہونے کی وجہ سے غسل جنابت میں ان کا غسل ضروری ہونا چاہیے، حالاں کہ اگر یہ بال گوندھے ہوئے جوڑے کی شکل میں ہوں تو ان بالوں کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت کے لٹکے ہوئے بال اس کے جسم کا حصہ اور جزء ہیں اور اس اعتبار سے غسل جنابت میں ان کا غسل ہونا چاہیے، مگر چون کہ بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں ان کو کھولنے اور پھر کھول کر دھونے میں حرج ہے، اس لیے حرج کے پیش نظر ان کا غسل ساقط کر دیا گیا ہے، ولأن الحرج مدفوع في الشرع۔

والعورة الغليظة الخ فرماتے ہیں کہ عورت غلیظہ یعنی قبل اور دربر کا انکشاف و ظہور بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات طرفین کے یہاں مختلف فیہ ہے، اسی طرح مرد کا عضو تناسل اور اس کے خصیتین بھی مستقل اور الگ الگ عضو ہیں اور ان تمام میں حضرات طرفین اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہی ریح اور نصف کا اختلاف ہے، کہ طرفین کے یہاں ریح کا انکشاف موجب اعادہ ہے، جب کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نصف یا اس سے زائد کھلنے کی صورت میں ہی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔

صاحب ہدایہ نے ہو الصحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا ہے جس میں ذکر اور خصیتین کے مجموعے کو ایک عضو قرار دے کر اس میں سے ریح کے انکشاف کو موجب اعادہ بتلایا گیا ہے... صاحب عنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام کے حوالے سے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ ریح اور نصف وغیرہ کا اختلاف ہمارے یہاں ہے، ورنہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جس طرح نجاست میں قلیل و کثیر سب برابر ہیں اور مطلق نجاست مانع نماز ہے، اسی طرح اعضائے مستورہ میں سے مطلق انکشاف ان کے یہاں موجب اعادہ ہے اور ریح یا نصف وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ (عنایہ ۲۶۹/۱)

﴿وَمَا كَانَ عَوْرَةٌ مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْأُمَّةِ، وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ﴾ لِقَوْلِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ أَلْقَى عَنكَ الْخِمَارَ يَا دَقَّارُ أَنْتَ سَبَّيْنِ بِالْحَرَائِرِ، وَلَأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ مَهْنَتِهَا عَادَةً فَاعْتَبِرْ حَالَهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الرِّجَالِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ.

**ترجمہ:** اور جو چیز مرد کے لیے عورت ہے وہی باندی کے لیے بھی عورت ہے، نیز باندی کا پیٹ اور اس کی پیٹھ بھی عورت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بدن کا کوئی حصہ عورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے (ایک باندی سے) اے کمین اپنے اوپر سے اوزھنی کو ہٹا دے، کیا تو آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے، اور اس لیے بھی کہ عام طور پر باندی اپنے کام کاج کے کپڑوں میں ہی اپنے مولیٰ کی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، لہذا دفع حرج کے پیش نظر تمام مردوں کے حق میں باندی کے

حال کو ذوات المحارم پر قیاس کر لیا گیا۔

## اللغات:

﴿دَقَّارٌ﴾ کینٹی۔ ﴿حَوَائِرُ﴾ اسم جمع، واحد حرة؛ آزاد عورت۔ ﴿مِهْنَةٌ﴾ محنت مزدوری، پیشے کے دوران کے کپڑے۔

## باندی کا ستر:

فرماتے ہیں کہ مادون السرة سے گھٹنوں تک کا حصہ جس طرح مرد کے لیے واجب الستر ہے، اسی طرح باندیوں کے حق میں بھی جسم کا یہ حصہ واجب الستر ہے، نیز اس کے علاوہ باندیوں کا پیٹ اور ان کی پشت بھی واجب الستر ہے، کیوں کہ یہ چیزیں بھی محل شہوت ہیں اور انھیں دیکھنے سے بھی شہوت میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، البتہ ان کے علاوہ باندی کے جسم کا کوئی بھی حصہ عورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک باندی کو دیکھا وہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کینٹی دوپٹہ اتار کر پھینک دے، کیا تو آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے (اتار اسے، تیرے لیے یہ زیب نہیں ہے، کیوں کہ تجھ میں اور آزاد عورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شارح غفی عنہ)۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ عموماً آقا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور عام طور پر باندی اپنے کام کاج کے کپڑوں میں ہی مارکیٹ اور بازار وغیرہ کا چکر لگاتی ہے، اس لیے اگر ان کے حق میں آزاد عورتوں کی طرح پردہ وغیرہ کو لازم قرار دے دیا جائے تو اس سے حرج ہوگا، لہذا دفع حرج کے پیش نظر باندیوں کو تمام مردوں کے حق میں ذوات محارم یعنی محرم عورتوں پر قیاس کیا گیا ہے اور جس طرح انسان کے لیے اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے شرعی پردہ واجب ہے اتنا ہی باندی سے بھی ہے، اس کے علاوہ میں وہ محرمات کے درجے میں ہے۔

﴿قَالَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ﴾ وَهَذَا عَلَى وَجْهِينِ، إِنْ كَانَ رُبْعُ الْقُوبِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ طَاهِرًا يُصَلِّي فِيهِ، وَلَوْ صَلَّى عُرْيَانًا لَا يُجْزِيهِ، لِأَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرَّبْعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ تَرْكُ قَرْضٍ وَاحِدٍ، وَفِي الصَّلَاةِ عُرْيَانًا تَرْكُ الْفُرُوضِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعٌ جَوَازِ الصَّلَاةِ حَالَةَ الْإِخْتِيَارِ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ، وَتَرْكُ الشَّيْءِ إِلَى خَلْفٍ لَا يَكُونُ تَرْكًا، وَالْأَفْضَلِيَّةُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السُّتْرِ بِالصَّلَاةِ وَاخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مصلی کوئی ایسی چیز نہ پائے جس سے نجاست کو زائل کرے تو نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے اور

اس کا اعادہ بھی نہ کرے۔ اور یہ مسئلہ دو صورتوں پر ہے (۱) اگر چوتھائی کپڑا یا اس سے زیادہ پاک ہو تو اسی کپڑے میں نماز پڑھے، اور اگر اس نے ننگے نماز پڑھ لی تو وہ جائز نہیں ہوگی، کیوں کہ شئی کا چوتھائی حصہ کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ (۲) اور اگر پاک حصہ چوتھائی سے کم ہو تو بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہی حکم ہے اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک ہے۔ کیوں کہ اس کپڑے میں نماز پڑھنے سے ایک ہی فرض کو چھوڑنا ہے جب کہ ننگے نماز پڑھنے سے بہت سارے فرض کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ اور حضرات شیخین کے یہاں اس شخص کو اختیار ہوگا چاہے تو ننگے نماز پڑھے اور چاہے تو اس کپڑے میں نماز پڑھے اور یہی افضل ہے، کیوں کہ ان میں سے ہر ایک بحالت اختیار جواز صلاۃ سے مانع ہے اور مقدار کے حق میں دونوں برابر ہیں، لہذا نماز کے حق میں بھی دونوں مساوی ہوں گے، اور کسی چیز کا بدل کی طرف ترک، ترک نہیں کہلاتا۔ اور افضلیت اس وجہ سے ہے کہ ستر نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے جب کہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے۔

## اللغات:

﴿عُرْيَانٌ﴾ برہنہ، ننگا۔

## ایسے آدمی کے لیے نماز کا حکم جو نجاست سے آلودہ ہو لیکن نجاست دور کرنے پر قادر نہ ہو:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نجاست لگا ہوا کپڑا ہو اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی دوسرا کپڑا ہو اور نہ ہی پانی وغیرہ ہو کہ جس سے وہ کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو دور کر سکے اور اسے نماز پڑھنی ہے؟ بتائیے وہ کیا کرے؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں جن میں سے ایک متفق علیہ ہے اور دوسری مختلف فیہ ہے (۱) وہ صورت جو متفق علیہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو کپڑا ہے اس میں نجاست کہاں تک لگی ہوئی ہے، اگر نجاست لگنے کے بعد بھی کپڑے کا چوتھائی حصہ پاک ہو تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اسی کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے، ننگے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس کے پاس چوتھائی کپڑا پاک ہے اور بہت سے مقامات پر چوتھائی کو کل کے قائم مقام مانا گیا ہے، لہذا یہاں بھی اسے کل کے قائم مقام مانیں گے اور یوں خیال کریں گے کہ اس کا پورا کپڑا پاک ہے، لہذا وہ اسی میں نماز پڑھے، کیوں کہ پاک کپڑے کے ہوتے ہوئے ننگے ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

(۲) دوسری صورت جو مختلف فیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا کپڑا چوتھائی حصے سے کم پاک ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس صورت میں بھی وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھے، اس کے لیے اب بھی ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔ اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ (بنایہ)

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ شخص وہی کپڑا پہن کر نماز پڑھے اور اس صورت میں کپڑے کی طہارت جو فرض ہے اس کا ترک لازم آتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص برہنہ ہو کر نماز پڑھے اور اس صورت میں اولاً تو ستر عورت ذالے فرض کا ترک لازم آتا ہے، پھر چون کہ برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا، لہذا قیام، رکوع اور سجدے ہر ایک فرض کا ترک کرنا لازم آئے گا اور یہ بات تو ایک اندھا اور کم پڑھا لکھا انسان بھی جانتا ہے کہ ایک

فرض کا ترک کرنا بہت سارے فرائض کو ترک کرنے سے بہتر ہے، اس لیے ہمارے یہاں ربع سے کم کپڑا پاک ہونے کی صورت میں بھی برہنہ ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بل کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔

اور پھر شریعت نے یہ ضابطہ بھی تو مقرر کر رکھا ہے کہ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما یعنی جب ایک ہی مسئلے میں دو خرابیاں جمع ہو جائیں تو ان میں سے جو اخف ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا اور یہاں بھی چون کہ فرض واحد یعنی طہارت ثوب کا ترک اخف ہے، لہذا اسی کو اختیار کیا جائے گا۔

اس دوسری صورت میں حضرات شیخین کے یہاں اس شخص کو اختیار ہے، چاہے تو برہنہ ہو کر نماز پڑھے اور چاہے تو اسی کپڑے میں پڑھے دونوں صورتوں میں اس کی نماز جائز ہے۔

حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ یہاں واقعی دو خرابیاں جمع ہیں اور یہ دونوں منع صلاۃ اور مقدار دونوں چیزوں میں برابر ہیں، منع صلاۃ میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی اور پاک کپڑا ہو یا نجاست کو زائل کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں نہ تو کشف عورت کے ساتھ نماز جائز ہے اور نہ ہی نجاست کے ساتھ۔ اور مقدار میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کشف عورت میں کشف قلیل معاف ہے، اسی طرح نجاست میں بھی قلیل معاف ہے اور دونوں کا کثیر معاف نہیں ہے، لہذا جب منع اور مقدار میں دونوں برابر ہیں تو حکم صلاۃ میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور یہ شخص چاہے برہنہ ہو کر نماز پڑھے یا اسی کپڑے میں پڑھے بہر صورت اس کی نماز ہو جائے گی۔

وتترك الشيء الخ یہاں سے امام محمد رضی اللہ عنہ کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا آپ کا یہ کہنا کہ ترک فرض ترک فروض سے بہتر ہے، تو یہ ہمیں تسلیم تو ہے، لیکن اسی جگہ تسلیم ہے جہاں ترک کا نائب اور بدل موجود نہ ہو اور صورت مسئلے میں چون کہ ترک کا نائب اور بدل موجود ہے، چنانچہ برہنہ ہو کر نماز پڑھنے والا اگر قیام وغیرہ کو ترک کرتا ہے تو اس کے نائب یعنی ایماہ اور اشارے پر عمل کرتا ہے، اس لیے یہاں بھی صرف ایک ہی فرض کا ترک ہے نہ کہ بہت سارے فرائض کا۔

رہا یہ مسئلہ کہ اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا کیوں افضل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر کی فضیلت طہارت کی فضیلت سے اقویٰ ہے، کیوں کہ ستر نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں کو شامل ہے جب کہ طہارت صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اقویٰ کی رعایت کی جائے گی اور اس کے مقابلے میں قویٰ کو ترک کر دیا جائے گا۔

﴿وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هَكَذَا﴾ فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ صَلَّى قَانِمًا أَجْرَاهُ ﴿لَآنَ فِي الْقُعُودِ سِتْرُ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ وَفِي الْقِيَامِ آدَاءُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ فَيَمِيلُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ﴾، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ ﴿لَآنَ السِّتْرُ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ وَحَقِّ النَّاسِ، وَلَآئِنَّهُ لَا خَلْفَ لَهُ وَالْإِيْمَاءُ خَلْفٌ عَنِ الْأَرْكَانِ﴾

ترجمہ: اور جو شخص کپڑا نہ پائے وہ برہنہ ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھے اور اشارے سے رکوع سجدے کرے، اس لیے کہ اصحاب رسول



علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ بیٹھنے میں عورت غلیظہ کو چھپانا ہے تو کھڑے ہونے میں ان ارکان کو ادا کرنا ہے، لہذا دونوں میں سے جس طرف چاہے مائل ہو جائے، البتہ پہلی صورت افضل ہے، کیوں کہ ستر حق الصلاۃ اور حق الناس دونوں کی وجہ سے ثابت ہے، اور اس لیے کہ ستر کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، جب کہ اشارہ ارکان کا خلیفہ ہے۔

## اللغات:

يَوْمِي: اوما يَوْمِي، باب افعال؛ اشارہ کرنا۔ ﴿يَمِيلُ﴾ مائل ہونا، اختیار کرنا۔

## برہنہ آدمی کی نماز کے طریقے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بالکل کپڑا ہی نہ ہو یعنی نہ تو پاک کپڑے ہوں اور نہ ہی ناپاک، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ برہنہ ہونے کی حالت میں ہی بیٹھ کر نماز پڑھے اور اشارے سے رکوع اور سجدے کرے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثاروں نے ایسا ہی کیا تھا جب ان حضرات کے پاس کپڑے ہم دست نہ تھے، صاحب عنایہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے ان اصحاب رسول اللہ ﷺ ركبوا في سفينة فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودا یعنی ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے کشتی کا سفر کیا لیکن کشتی ٹوٹ گئی، صحابہ کرام دریا سے برہنہ ہو کر باہر نکلے اور اسی حالت میں بیٹھ کر نماز ادا کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورت حال میں برہنہ ہو کر نماز پڑھی جاسکتی ہے، کیوں کہ یہ قول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور کسی اور سے اس کے خلاف کوئی اور واقعہ منقول نہیں ہے، اس لیے یہ قول اجماع کے درجے میں ہے اور اجماع اصول شرع میں سے ایک اصل ہے جو شرعی حجت ہے اور واجب العمل ہے۔ (عنایہ ۱/۲۷۱)

فان صلی قانما الخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا تو یہ بھی جائز اور صحیح ہے، کیوں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اگر عورت غلیظہ یعنی شرم گاہ کا ستر ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ارکان نماز یعنی رکوع اور سجدوں کی ادائیگی اور بجا آوری ہے، اس لیے جس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی بہ نسبت فضیلت زیادہ ہے، کیوں کہ پردہ کرنا نماز کا بھی حق ہے اور لوگوں کا بھی حق ہے، جب کہ طہارت حاصل کرنا صرف نماز کا حق ہے اور پھر ترک ستر کا کوئی خلیفہ نہیں ہے جب کہ ترک ارکان کا خلیفہ اور بدل ایما کی شکل میں موجود ہے، اس لیے ترک ستر کے بالمقابل ترک ارکان زیادہ قوی ہوگا، کیوں کہ ترك الی خلف ترك لا الی خلف کے بالمقابل اولیٰ ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بہ نسبت افضل اور برتر اور بہتر ہے۔

قَالَ وَيَتَوَي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ ﴿ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ ① عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلَآنَ إِبْتِدَاءَ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَلَا يَقَعُ التَّمْيِيزُ إِلَّا

بِالنِّيَّةِ، وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى التَّكْبِيرِ كَالْقَائِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوَجِّدْ مَا يَقْطَعُهُ وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالْمُتَأَخَّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ، لِأَنَّ مَا مَضَى لَا يَقَعُ عِبَادَةٌ لِعَدَمِ النِّيَّةِ، وَفِي الصَّوْمِ جُوزَتْ لِلصَّرُورَةِ، وَالنِّيَّةُ فِي الْإِرَادَةِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي، أَمَا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرٌ بِهِ، وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ نَفْلًا يَكْفِيهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ سُنَّةً فِي الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَتْ فَرَضًا فَلَا بَدَّ مِنْ تَعْيِينِ فَرَضٍ كَالظُّهْرِ مَثَلًا لِاخْتِلَافِ الْفُرُوضِ، ﴿وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِبًا بِغَيْرِهِ يُنَوِي الصَّلَاةَ وَمُتَابِعَتَهُ﴾ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ الصَّلَاةِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا بَدَّ مِنَ التِّزَامِ .

**ترجمہ:** اور وہ نماز جس میں مصلی داخل ہو رہا ہے اس کی اس طرح نیت کرے کہ نماز اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کسی کام سے فصل نہ کرے، اور اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اصل ہے ”کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“ اور اس لیے بھی کہ نماز کی ابتداء قیام سے ہوتی ہے اور قیام عادت اور عبادت کے مابین متردد ہے، اور تمیز صرف نیت سے ہو سکتی گی۔ اور تکبیر سے پہلے کی جانے والی نیت بوقت تکبیر ہونے والی نیت کی طرح ہے بشرطیکہ (درمیان میں) کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے جو نیت کو توڑ دے، اور وہ ایسا عمل ہے جو نماز کے لائق نہیں ہے۔

اور اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو تکبیر کے بعد کی گئی ہو، اس لیے کہ نیت سے پہلے گزرا ہوا عمل نیت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ میں ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے۔

اور نیت ارادہ کا نام ہے، اور نیت کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے جانے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ رہا زبان سے ذکر کرنا تو اس کا کوئی (خاص) اعتبار نہیں ہے، البتہ عزم قلبی کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے یہ مستحسن ہے۔

پھر اگر نفل نماز ہو تو مطلق نیت کافی ہے اور صحیح قول کے مطابق یہی حکم ہے جب سنت نماز ہو، لیکن اگر فرض نماز ہو تو فرض کی تعیین کرنا ضروری ہے جیسے ظہر، کیوں کہ فرض کئی ایک ہیں۔ اور اگر مصلی دوسرے کی اقتداء کر رہا ہو تو وہ نماز کی نیت بھی کرے اور دوسرے شخص کی متابعت کی نیت بھی کرے، کیوں کہ مقتدی کو امام کی طرف سے نماز کا فساد لازم آتا ہے، لہذا اس کی متابعت کا التزام کرنا ضروری ہے۔

## اللُّغَاتُ:

﴿مُتَرَدِّدٌ﴾ غیر یقینی، دائر، محتمل۔ ﴿یَلِيقُ﴾ باب ضرب؛ مطابق ہونا، شایان ہونا، لائق ہونا۔ ﴿عَزِيمَةٌ﴾ پختہ ارادہ،

عزم۔

## تخریج:

## نماز میں نیت کی حیثیت، محل اور اس کا طریقہ:

صاحب کتاب نماز کی شرائط اور دیگر تفصیلات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے نیت اور اس کے متعلقات کو بیان کر رہے ہیں، چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصلیٰ جس نماز میں داخل ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کی نیت کرے، اور یہ نیت اس طرح کرے کہ تکبیر تحریمہ سے متصل ہو اور نیت اور تکبیر تحریمہ کے مابین کسی چیز کا کوئی فصل نہ ہو۔ نیت کے شرط اور ضروری ہونے کے سلسلے میں آپ ﷺ کا یہ فرمان اصل اور مستدل ہے انما الأعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور چوں کہ نماز بھی ایک عمل ہے (بلکہ ام الاعمال ہے) اس لیے اس کا بھی مدار نیت پر ہوگا، اگر نیت ہوگی تو یہ عمل معتبر ہوگا ورنہ نہیں۔

نیت کے شرط ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ نماز کی ابتداء قیام سے ہوتی ہے اور قیام عادت اور عبادت کے مابین متردد ہے، یعنی کبھی تو آدمی عادتاً کھڑا ہوتا ہے اور کبھی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لہذا عادت اور عبادت والے قیام کے مابین فرق اور امتیاز ضروری ہے اور یہ امتیاز صرف نیت سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے بھی نماز کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے۔

والمستقدم علی التکبیر الخ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نیت میں اصل تو یہی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے متصل ہو، تاکہ نیت کے بعد فوراً اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی جائے، لیکن اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی نیت کر لی اور اس کے کچھ وقفے کے بعد اس نے تحریمہ باندھا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ تحریمہ اور نیت کے مابین کوئی منافی صلاۃ عمل پایا گیا یا نہیں؟ اگر نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی منافی صلاۃ عمل مثلاً کھانا، پینا، بات چیت میں مشغول ہونا وغیرہ وغیرہ نہیں پایا گیا تو اس نیت کا اعتبار ہوگا اور دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر دونوں کے مابین کوئی منافی صلاۃ عمل واقع ہو جائے تو پھر پہلی والی نیت کا عدم ہو جائے اور بہ وقت تحریمہ نئی نیت کرنی ہوگی۔

اور اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرے تب تو مطلقاً اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور جب نیت ہی کا اعتبار نہیں ہوگا تو نماز کا کیا خاک اعتبار ہوگا۔ کیوں کہ جب کسی نے تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کی تو ظاہر ہے کہ نیت سے پہلے جو عمل کیا گیا وہ عدم نیت کی وجہ سے عبادت نہیں ہوگا اور چوں کہ عبادت میں بعد کے اعمال پہلے والے اعمال پر مبنی ہوتے ہیں، لہذا جب پہلے والے اعمال عبادت نہیں ہیں تو بعد والے اعمال بھی عبادت نہیں ہوں گے اور اس طرح پوری کی پوری نماز بیکار اور برباد ہو جائے گی۔

اس کے برخلاف روزے کا معاملہ ہے تو روزے میں اگر کوئی شخص بوقت سحری نیت نہ کر سکے اور صبح صادق کے بعد نیت کرے تو بھی اس کی نیت معتبر ہوگی اور اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیوں کہ سحری کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے اور اگر اسی وقت نیت کو لازم اور شرط قرار دے دیا جائے تو لوگ حرج اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے بر بنائے ضرورت اور دفع حرج کے پیش نظر روزے میں ابتداء صوم سے نیت کو لازم نہیں قرار دیا گیا، اس کے بالمقابل نماز کا مسئلہ ہے تو نماز بیداری اور مستعدی کی حالت میں ادا کی جاتی ہے، لہذا نماز میں اول وقت سے نیت کو شرط اور ضروری قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور پھر نماز معمولی وقت میں ادا کر لی جاتی ہے اور نماز میں عادتاً کھڑا ہونے سے مشابہت کا بھی احتمال ہے، اس لیے بھی نماز میں ابتداء ہی سے نیت شرط اور ضروری قرار دی گئی ہے۔ (شارح عقی عنہ)

والنیت ہی الخ فرماتے ہیں کہ قصد اور ارادے کا نام نیت ہے اور نیت کی شرط یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی نے نماز کی نیت کی تو وہ اپنے دل سے یہ جانتا ہو کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی اس سے پوچھ لے کہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے تو کسی توقف اور تردد کے بغیر اس کے لیے یہ آسانی جواب دینا ممکن ہو۔

رہا ذکر باللسان یعنی زبان سے نماز کی نیت کرنا تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر ذکر باللسان کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ عزم قلبی اور ذکر لسانی کا اجتماع ہو جائے اور نیت میں مزید قوت پیدا ہو جائے۔

ثم إن كانت الخ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر مصلیٰ نفل نماز پڑھ رہا ہے یا سنت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نفل اور سنت کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر وہ مطلق نماز کی نیت کرتا ہے تو بھی صحیح ہے، کیوں کہ نیت سے عادت اور عبادت میں تمیز ہو جاتی ہے اور اتنی تمیز ادائے نفل و سنت کے لیے کافی ہے، سنت کے سلسلے میں یہی صحیح قول ہے، اور صحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا گیا ہے جس میں سنت رسول کی قید لگانے اور بڑھانے کا ذکر ہے، مگر اس قول کے قائلین کو شاید یہ نہیں معلوم کہ جب بھی سنت مطلق بولی جائے گی تو اس سے اس کا فرد کامل یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہی کی سنت مراد ہوگی۔

یہ مسئلہ تو نفل اور سنت کا تھا، لیکن اگر وہ شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں (۱) تنہا پڑھ رہا ہے (۲) کسی کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے، اگر پہلی صورت ہے یعنی وہ شخص تنہا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جس فرض نماز کو ادا کر رہا ہے اس کی بھی تعیین کرے، مثلاً اگر وہ ظہر پڑھ رہا ہے تو ظہر کی تعیین کرے اور اگر عصر پڑھ رہا ہے تو اس کی تعیین کرے، کیوں کہ فرض نماز میں کئی ایک ہیں، اس لیے فرائض میں مطلق فرض کی نیت کافی نہیں ہوگی بل کہ نماز فرض کی تعیین ضروری ہوگی۔

اور اگر دوسری صورت ہے یعنی وہ شخص باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تعیین فرض کی نیت کے ساتھ ساتھ متابعت امام کی بھی نیت کرے، کیوں کہ امام کی اقتداء کر لینے کی صورت میں مقتدی کی پوری نماز امام کی نماز کے تابع ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر امام کی نماز فاسد ہوتی ہے تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے امام کی متابعت کی نیت کرنا مقتدی کے لیے شرط اور ضروری ہے۔

﴿قَالَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (سورة البقرة: ۱۴۴ - ۱۵۰)، ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَقَرُّضُهُ إِصَابَةً عَيْنِهَا، وَمَنْ كَانَ غَائِبًا فَقَرُّضُهُ إِصَابَةٌ جِهَتِهَا هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ.

**ترجمہ:** اور مصلیٰ استقبال قبلہ بھی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو، پھر وہ شخص جو مکہ میں ہے اس کا فرض یہ ہے کہ عین کعبہ کو پالے اور جو شخص مکہ سے باہر ہو اس کے لیے جہت کعبہ کو پانا فرض ہے یہی صحیح ہے، اس لیے کہ حسب طاقت ہی مکلف بنایا جاتا ہے۔

### استقبال قبلہ کا بیان:

فرماتے ہیں کہ مصلیٰ کے لیے ایک فرض اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کیوں کہ قرآن کریم نے نبی اکرم ﷺ کی چاہت کے مطابق فولوا و جوہکم شطوره کے فرمان سے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے

کا وجوبی حکم دے دیا ہے۔

البتہ اس حکم میں تفصیل یہ ہے کہ جو شخص مکہ میں موجود ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہت کعبہ اور سمت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ یہی آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کا معمول تھا کہ وہ لوگ کئی زندگی میں عین کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب کہ مدنی زندگی میں جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا معمول تھا، کیوں کہ مکہ مکرمہ سے باہر ہونے کی صورت میں بین کعبہ کا رخ کرنا ناممکن اور دشوار گزار ہے، اور قرآن کریم نے لایکلف اللہ نفساً إلاّ وسعہا کے فرمان سے اس دشواری کو ختم کر دیا ہے، اس لیے کہ جو شخص مکہ میں نہ ہو اس کے لیے سمت قبلہ کا رخ کرنا ہی کافی ہے۔

﴿وَمَنْ كَانَ خَائِفًا يَصَلِّيْ اِلَىٰ اَيِّ جِهَةٍ قَدَرًا لِّتَحَقِّقَ الْعُذْرَ فَاَشْبَهَ حَالَةَ الْاِسْتِبَاہِ﴾

**ترجمہ:** اور جو شخص خائف ہو وہ جس سمت بھی قادر ہو نماز پڑھ لے، کیوں کہ عذر متحقق ہے، لہذا یہ حالت اشتباہ کے مشابہ ہو گیا۔

### خوف کی حالت میں استقبال قبلہ کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ استقبال قبلہ شرط اور ضروری ہے، لیکن جس طرح عذر کی وجہ سے بہت ساری شرطیں معدوم ہو جاتی ہیں، اسی طرح عذر کی وجہ سے استقبال قبلہ کی شرط بھی معدوم اور ساقط ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر کسی شخص کو دشمن، یا درندے یا کسی اور چیز سے جانی یا مالی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے، بل کہ حکم یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے پر وہ قادر ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، کیوں کہ خوف کی وجہ سے اس کے حق میں بھی عذر متحقق ہے، لہذا عذر کی وجہ سے استقبال قبلہ کی شرط ساقط ہو جائے گی۔

اور یہ صورت حالت اشتباہ کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح قبلہ مشتبہ ہونے کی صورت میں تحری کو قدرت علی الاستقبال مان لیا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی مصلیٰ جس جہت پر قادر ہوگا وہی اس کے حق میں جہت قبلہ شمار ہوگی۔

﴿فَاِنْ اِسْتَبْتُّ عَلَيْهِ الْفِیْلَةَ وَ لَیْسَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ یَسْأَلُهُ عَنْهَا اِجْتَهَدَ﴾ لَانَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ① تَحَرَّوْا وَصَلُّوْا وَلَمْ یُنْکَرْ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ لَانَ الْعَمَلُ بِالذَّلِیْلِ الظَّاهِرِ وَ اِجِبْ عِنْدَ اِنْعَادَامِ دَلِیْلِ قُوَّةً، وَ الْاِسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحْرِیِّ﴾

**ترجمہ:** چنانچہ اگر مصلیٰ پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے وہ قبلہ کے متعلق پوچھ سکے تو مصلیٰ اجتہاد کرے، کیوں کہ صحابہ کرام نے تحری کر کے نماز پڑھی تھی اور آپ ﷺ نے ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ دلیل ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے جب اس سے بڑی کوئی دلیل نہ ہو۔ اور معلوم کرنا تحری سے بڑھ کر ہے۔

### اللغات:

﴿حَضْرَةٌ﴾ موجودی۔ ﴿تَحَرَّوْا﴾ تحری، یا تفرق، باب تفعل، محنت کرنا، جستجو کرنا۔ ﴿اِسْتِخْبَارٌ﴾ اسم مصدر،

باب استفعال؛ پوچھنا، خبر طلب کرنا۔

## تخریج:

① اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الاقامۃ الصلوٰۃ باب من یصلی لغير القبلة حدیث رقم ۱۰۲۰.

## جب قبلہ کے بارے میں پتہ نہ چل سکتا ہو تو ایسی صورت کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قبلہ کی جہت مشتبہ ہو جائے اور وہ یقینی طور پر سمت قبلہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر پائے اور نہ ہی اس کے آس پاس کوئی دوسرا آدمی ہو جس سے وہ قبلہ کی صحیح سمت کے متعلق معلوم کر سکے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ شخص تخری کر کے اور جس سمت اس کا ظن غالب واقع ہو، اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھ لے، کیوں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کے ساتھ اسی طرح کی صورت پیش آئی تھی تو ان حضرات نے بھی تخری کر کے نماز ادا کیا تھا، اور بعد میں جب آپ ﷺ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی جو اس بات کی دلیل بن گئی کہ اشتباہ کی صورت میں تخری کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے، بشرطیکہ معلوم کرنے اور سمت قبلہ کو دریافت کرنے کے سارے ذرائع مسدود و معدوم ہوں۔

لیکن اگر کسی بھی طرح قبلہ کی صحیح سمت معلوم کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں معلوم کرنا ضروری ہے، اور اگر بغیر معلوم کیے کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز واجب الاعدادہ ہے، کیوں کہ پوچھنا اور دریافت کرنا تخری سے بڑھ کر ہے۔

﴿فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى لَا يُعِيدُهَا﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعِيدُهَا إِذَا اسْتَدْبَرَ لِتَيْقُنِهِ بِالْخَطَأِ، وَنَحْنُ نَقُولُ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّيِّ، وَالتَّكْلِيفُ، مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ .

**ترجمہ:** پھر اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ شخص (ہمارے یہاں) نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر استدبار قبلہ کر کے نماز پڑھی تھی تو اعادہ کرے گا، کیوں کہ اسے غلطی کا یقین ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بس میں صرف تخری کی سمت متوجہ ہونا ہے اور (انسان کو) بقدر وسعت ہی مکلف بنایا گیا ہے۔

## اللغات:

﴿اسْتَدْبَرَ﴾ باب استفعال؛ پشت کرنا، پیٹھ کرنا۔ ﴿تَيْقُنٌ﴾ اسم مصدر، باب تفعّل؛ یقینی ہونا، قطعی ہونا۔

## اگر تخری کر کے غلط سمت میں نماز پڑھ لی تو پتہ چلنے کی صورت میں اعادہ کے حکم کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا اور اس نے تخری کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد معلوم ہوا کہ جس سمت اس نے نماز پڑھی ہے وہ قبلہ کی سمت نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کا اعادہ واجب ہے، کیوں کہ قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ بات یقینی طور پر واضح ہوگئی کہ اس نے جو تخری کی تھی وہ غلط تھی، اس لیے اس پر نماز کا اعادہ

واجب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب اس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا اور قبلہ کے متعلق بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو اب اس کے حق میں تحری کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لہذا جب اس نے تحری کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست ہوگئی ہر چند کہ اس نے قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھی ہو، کیوں کہ صورت مسئلہ میں تحری کرنا ہی اس کے بس میں تھا اور اس نے وہ کر لیا، اس لیے اب اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کی تحری استدبار قبلہ کو مستزم تھی، کیوں کہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ لا یكلف اللہ نفساً إلا وسعها۔

﴿وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ﴾ لِأَنَّ أَهْلَ قِبَاءٍ لَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ اسْتَدَارُوا كَهَيَاتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، وَاسْتَحْسَنَهَا ① النَّبِيُّ ﷺ، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَوْ جُوبِ الْعَمَلُ بِالْأَجْتِهَادِ فِيمَا يَسْتَقْبَلُ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَدَى قَبْلَهُ.

**ترجمہ:** اور اگر یہ بات نماز کے دوران معلوم ہو جائے تو وہ قبلہ کی طرف گھوم جائے، اس لیے کہ اہل قباء نے جب انتقال قبلہ کو سنا تو وہ لوگ نماز ہی میں جس ہیئت پر تھے گھوم گئے، اور نبی کریم ﷺ نے اسے پسند فرمایا تھا، اور ایسے ہی جب اس کی رائے کسی دوسری جہت کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ اس طرف گھوم جائے، کیوں کہ آئندہ نماز میں اس شخص پر اجتہاد کی رو سے عمل کرنا واجب ہے اس حصے کو توڑے بغیر جسے اس نے پہلے ادا کیا ہے۔

## اللُّغَاتُ:

﴿اسْتَدَارَ﴾ باب استفعال؛ گھومنا۔ ﴿تَحَوَّلَ﴾ اسم مصدر، باب تفعّل؛ گھوم جانا، پھر جانا۔ ﴿مُؤَدَى﴾ اسم مفعول؛ جس کو ادا کیا ہو۔

## تَخْرِيج:

① اخرجہ بخاری فی کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء فی القبلة حدیث رقم ۴۰۳.

## نماز کے دوران ہی سمت کا غلط ہونا معلوم ہونے کی صورت کا حکم:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی اسے قبلہ کی صحیح سمت معلوم ہوگئی تو وہ شخص قیام، قعود یا جس حالت میں بھی ہوتا خیر کے بغیر اسی حالت میں قبلہ کی طرف گھوم جائے، کیوں کہ جب اہل قباء کو دوران نماز یہ معلوم ہوا تھا کہ بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو وہ لوگ نماز ہی کی ہیئت میں مسجد حرام کی طرف گھوم گئے تھے، اور آپ ﷺ کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی تھی اور اہل قباء پر کسی طرح کی کوئی نکیر نہیں کی تھی۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نماز پوری ہونے سے پہلے سمت قبلہ کے حوالے سے اس کی رائے بدل گئی اور کسی دوسری سمت قبلہ ہونے پر اس کی رائے جم گئی تو اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز ہی میں گھوم

جائے اور جو دوسری رائے بنی ہے اسی کے مطابق نماز پوری کرے، کیوں کہ نماز کا جو حصہ وہ ادا کر چکا ہے اب اسے توڑنا نہیں ہے اور آئندہ حصہ نماز میں اسے اسی دوسری رائے کے مطابق عمل کرنا ہے، اس لیے اس پر ضروری ہے کہ بلا تاخیر وہ دوسری رائے پر عمل کرے۔

﴿وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَتَحَرَّى الْقِبْلَةَ وَصَلَّى إِلَى الْمَشْرِقِ وَتَحَرَّى مَنْ خَلْفَهُ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى جِهَةٍ وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ أَجْزَأُ لَهُمْ﴾ لَوْ جُودِ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّيِّ، وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرَ مَانِعَةٍ كَمَا فِي جَوْفِ الْكُعْبَةِ، وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إِمَامِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ إِمَامَةً عَلَى الْخَطَاءِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِمَامِ لِتَرْكِهِ فَرَضَ الْمَقَامَ.

**ترجمہ:** اور جس شخص نے اندھیری رات میں کسی قوم کی امامت کی اور تحریٰ تہلہ کر کے مشرق کی طرف نماز پڑھی اور امام کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سب نے بھی تحریٰ کی اور ان میں سے ہر ایک نے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور سب کے سب امام کے پیچھے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ امام نے کیا کیا تو ان کی نماز جائز ہے، کیوں کہ تحریٰ کی سمت توجہ موجود ہے۔ اور یہ مخالفت مانع نماز نہیں ہے، جیسے جوف کعبہ میں۔

اور مقتدیوں میں سے جس کو اپنے امام کا حال معلوم ہو گیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ اس کو اپنے امام کی غلطی کا اعتقاد ہو گیا ہے، اور ایسے ہی اگر کوئی شخص امام سے آگے ہو (تو اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی) کیوں کہ اس نے فرض مقام کو ترک کر دیا۔

## اللغات:

﴿أَمَّ﴾ باب نصر؛ امامت کرانا، امام بننا۔ ﴿مُظْلِمَةً﴾ اندھیری، تاریک۔

## امام اور مقتدیوں کی تحریٰ کا ایک دوسرے کے مخالف ہونے کی صورت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تاریک رات میں کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور سمت قبلہ مشتبہ ہونے کی وجہ سے امام نے تحریٰ کی، لیکن اس کی تحریٰ جانب مشرق میں واقع ہوئی اور اسی طرف رخ کر کے امام نے لوگوں کو نماز پڑھا دی، اس کے پیچھے جو مقتدی تھے انھوں نے بھی تحریٰ کی اور ہر ایک نے اپنی تحریٰ کے مطابق نماز ادا کی، اور سب کے سب امام کے پیچھے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ امام نے نماز میں کیا کیا پڑھا اور کون کون سی صورت پڑھائی اور پھر ان کی تحریٰ بھی امام کی تحریٰ کے علاوہ دوسری سمت میں واقع ہے تو بھی ان تمام لوگوں کی نماز جائز اور درست ہے، کیوں کہ قبلہ مشتبہ ہونے کی صورت میں ان کے لیے تحریٰ ضروری تھی اور اندھیری رات ہونے کی وجہ سے وہ لوگ امام کی جہت سے ناواقف تھے، اس لیے اب ان کے ذمے صرف اپنے لیے تحریٰ باقی رہ گئی تھی اور وہ انھوں نے پوری کر لی، لہذا ان سب کی نماز درست اور صحیح ہو گئی۔



رہا یہ سوال کہ جب ان مقتدیوں کا رخ اپنے امام کے رخ سے الگ تھا، اس لیے ان کی نماز درست نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تحری کر کے نماز پڑھی گئی ہے اور تاریکی کی وجہ سے امام کی جہت بھی معلوم نہیں ہو سکی تو اب جہت کی مخالفت مانع نماز نہیں ہوگی۔ اور جس طرح اگر کعبہ کے اندر باجماعت نماز پڑھی جائے اور لوگ امام کے چاروں طرف سے اس کی اقتداء کریں تو ظاہر ہے کہ صرف ایک طرف کے لوگ امام کی جہت پر رہیں گے اور باقی تینوں طرف والوں کی جہت امام کی جہت سے الگ ہوگی، مگر پھر بھی ان سب کی نماز درست ہوگی، کیوں کہ پورا کا پورا کعبہ قبلہ ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب ہر ایک نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کے حق میں اس کی سمت تحری ہی قبلہ ہے، خواہ وہ امام کی جہت کے مطابق ہو یا اس کے مخالف ہو۔

البتہ مقتدیوں میں سے جس کو اپنے امام کی حالت معلوم ہوگئی اور اس نے یہ جان لیا کہ امام مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ اس نے اپنے امام کو غلطی پر جان لیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس کی اقتداء کر رہا ہے، حالانکہ امام غلط سمت منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص اپنے امام سے آگے بڑھ جائے اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ امام کی اقتداء کرنے کی وجہ سے اس کی جگہ امام کے پیچھے ہے، لہذا جب وہ اپنے فرض مقام اور اپنی متعین کردہ جگہ کو چھوڑ کر آگے نکل جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز فاسد تو ہوئی جائے گی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم

الحمد لله!

آج بروز جمعہ مورخہ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ مطابق ۳۰ مارچ ۲۰۰۶ء بعد نماز مغرب  
- أحسن الہدایہ کی یہ جلد اختتام پذیر ہوئی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَصَلَّى اللهُ  
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنَّا وَمَنَّا وَوَالِدَيْهِ وَلَا سَاءَ تَدْبِيرِهِ وَلِمَن  
قَامَ بِنَشْرِهِ وَتَوَزَّيْعِهِ.

کتبہ بئیمینہ

منشی عبدالحلیم قاسمی بستوی